

تجدید و تبلیغ

224

جس میں

خاص و خالص سلامی بنیادوں پر امت سازی یا اجتماعی اصلاح و تعمیر کی تعلیمی و تبلیغی تجریدات و تدابیر اسی طرح جامعیت و کاملیت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں، جس طرح "جامع المجردین" اور "تجدید تصوف" میں افراد سازی یا ظاہر و باطن کی انفرادی اصلاح و تعمیر کی۔

ان تجریدات و تدابیر پر عمل پیرا ہو کر امت مسلمہ از سر نو بہترین قوم (خیر امت) بن کر ساری دنیا کو نسلی و وطنی قومیت اور سیاسی و معاشی اجتماعیت کی جہنم سے نجات دلا سکتی ہے۔

از

مولانا عبدالباری

سابق استاد فلسفہ و دینیات عثمانیہ یونیورسٹی

نفیس کیڈی

بلاکس سٹریٹ ————— کراچی (پاکستان)

قیمت چھ روپیہ مجلد

عرصہ چھ سال کے لئے
جملہ حقوق طباعت و اشاعت

بحق

چوہدری محمد اقبال سلیم گاہن دری

مالک نفیس اکیڈمی و مسعود پبلشنگ ہاؤس کراچی محفوظ ہیں

پبلائیڈیشن۔ شائع کردہ نفیس اکیڈمی کراچی، جون ۱۹۷۲

۲۹۷۰۷
۲۵۶
۱۱۲۰۹

DATA ENTERED

مطبوعہ انٹرنیشنل پریس کراچی

فہرست عنوانات تجدید تعلیم و تبلیغ

صفحہ نمبر	عنوانات	صفحہ نمبر	عنوانات
۴۸	امراے اختلاط و اجتناب کے شرائط کلیہ	۱۷	اسلامی تصور انسان
۴۹	جاہ طلبی کی ایک دقیق تدبیر	۱۸	چند اشارات
۴۹	مانظرہ و مجادلہ کی حقیقت	۱۹	بس یہ دو باتیں
۵۰	ظنی و قطعی سائل کے حکم کا بڑا اہم فرق	۲۱	زہر کا نام تریاق
۵۱	سائل قطعیہ میں اختلاف کی مختلف حالتوں کا حکم	۲۲	تجدید تعلیم
۵۲	ممنوع و مذموم بحث و مباحثہ	۲۳	علم دین کے دو درجے فرض عین و فرض کفایہ
۵۲	میردوں کے ملکی و سیاسی مناظروں نے مولویوں	۲۵	بقدر واجب علم دین کے حصول کی آسان تدبیر
۵۲	کے دینی و مذہبی مناظروں کو مات کر دیا	۲۷	امرا کی فرض شناسی
۵۵	مسلمانوں کی جیت سیاسی مباحثوں اور مناظروں میں بھی	۲۹	علماء و مشائخ کی مہلک خود فراموشی
۵۵	حضرت مجدد کے تجدید فرمودہ اصول ہی میں ہے۔	۲۹	غیر مستطیع علماء کے مسئلہ معاش کا قرآنی حل
۵۸	مدارس کی اصلاح	۳۱	علماء پر اعتراضات کی تحقیق
۵۸	چندہ کے متعلق خاص و اہم تجدیدی اصلاح	۳۲	علماء کی اخلاقی کمزوریاں علم دین کا اثر نہیں ہیں
۶۰	طلبائے دین کی ذلت سے حفاظت	۳۲	زیادہ الزام معزز طبقہ پر ہے
۶۰	طلباء کی وضع و لباس	۳۲	مولوی سے مراد عالم با عمل ہے
۶۲	علمائے سندس بے احتیاطی و نقالی	۳۶	تعصب اور غصہ کا اعتراض
۶۲	قواعد کی پابندی میں سستی	۳۸	باہمی اختلافات کا شبہ
۶۲	تجوید و اخلاق کی تعلیم سے غفلت	۳۹	فتوے میں مصلحت زمانہ کے لحاظ نہ کرنے کا اعتراض
۶۶	اصلاح درس و تدریس	۳۹	گوشہ گیری کا اعتراض
۶۹	اصلاح اعمال و اخلاق	۴۱	تحریر و تقریر میں قصور کا شبہ
۶۹	نئی روشنی کے اثرات	۴۲	علماء کی وقعت اور عظمت کی حفاظت نہایت اہم ہے
۷۱	مختصر نصاب	۴۴	علم دین کے حقوق طلباء اور علماء پر
۷۸	مسئلہ معاش	۴۴	علم دین کے دینی و دنیوی استعمال میں فرق
۸۱	بڑی ایمانی خامی	۴۵	علماء کا امرا سے اختلاط (۷۷)
۸۱	بڑی خود فریبی	۴۵	حیلہ شرعی کو حیلہ بتانا
۸۲	آپ بیتی	۴۶	مضرت عوام کی حفاظت
۸۴	گویا خدا سے کوئی واسطہ نہیں	۴۶	علماء کی جاہ طلبی

۱۲۵	اُردو کی شرعی حیثیت	۸۴	مومن کی شان
۱۲۶	فارسی کی فضیلت	۸۵	پورا خصل دماغ
۱۲۹	ماننے کے دو درجے	۸۵	الدنیا بسجن المومن
۱۲۹	علم کی دو قسمیں	۸۵	جیسے کوئی منکر آخرت ہو
۱۳۰	کون علم میراث انبیاء ہے۔	۸۶	آخرت کی کوئی مصیبت لاعلاج نہیں
۱۳۲	تجدید تبلیغ	۸۶	حضور کی پسندیدہ زندگی
۱۳۴	یہ مواعظ دراصل دعوت و تبلیغ ہی کا	۸۷	فقر صادق
۱۳۴	علمی و عملی ذخیرہ و نمونہ ہیں۔	۸۸	مومن کی معاشی منطق
۱۳۵	تبلیغی حکمت کی ایک عجیب مثال	۹۰	مومن کی معاشی بے فکری
۱۳۶	بستی نظام الدین کی تبلیغی بنیادیں حضرت	۹۰	تعلیم دین کے ساتھ تحصیل معاش
۱۳۶	کی شرکت بابرکت	۹۲	ایک تنبیہ
۱۳۷	کچھ مؤدبانہ معروضات	۹۳	وعظ و افتاء و تصنیف کے متعلق اصلاحات
۱۴۱	دستور العمل	۹۶	متفرق اصلاحات
۱۴۳	تبلیغ تعلیم کی ترتیب یہ ہو	۹۷	اہل دنیا اور علماء کے تعلقات
۱۴۷	تعلیم المسلمین	۹۸	معلم و متعلم و شرکائے علم کے باہمی حقوق
۱۴۸	وعظ اور وعظوں کا انتظام و اصلاح	۹۸	حقوق معلم
۱۵۰	مجلس دعوت الحق	۱۰۰	خاص طالب علمانہ کوتاہیاں
۱۵۳	نظام العمل	۱۰۲	متعلم کے حقوق
۱۵۶	دعوت و تبلیغ کی دو قسمیں	۱۰۵	شرکائے علم کے حقوق
۱۵۹	دعوت عام و خاص	۱۰۶	ضروری تنبیہات
۱۶۰	دعوت حقیقی و حکمی	۱۰۹	اصلاح تعلیم نسواں
۱۶۱	ایک اور دعوت عام ہے	۱۰۹	مختلف خیالات
۱۶۱	داعی کی دو قسمیں	۱۱۰	طبقہ اول
۱۶۳	اشاعت و حفاظت دین کا اصل کارگر طریقہ	۱۱۱	دوسرا طبقہ
۱۶۶	تبلیغ سے بے پروائی اور حیلہ جوئی کا سبب	۱۱۲	تیسرا طبقہ
۱۶۶	دنیاوی اغراض	۱۱۶	تحقیق تعلیم انگریزی
۱۶۷	جیلوں کی حقیقت	۱۲۱	الٹا اثر
۱۶۹	امر بالمعروف کے بعض حدود و شرائط	۱۲۱	جامعہ ملیہ
۱۷۱	ایک آیت سے استنباط	۱۲۲	دین کی پروا

۲۰۱	ایک درگاہ	۱۷۳	تبلیغ میں افراط کی غلطی کی اصلاح
۲۰۱	نصاب تعلیم	۱۷۵	دینی طلباء کو خصوصی تنبیہ
۲۰۳	کہنی رنگ	۱۷۵	اہل اصلاح کی دوسروں کی اصلاح سے بے فکری
۲۰۳	مساجدی نظام	۱۷۷	اصول و فروع سب میں تبلیغ فرض ہے
۲۰۸	نئی تعلیم والوں کی اصلاح	۱۷۸	علماء اور عوام کے فریضہ تبلیغ میں فرق
۲۰۸	ان کی حالت		بعض مواقع میں اہل اللہ کے بظاہر ترک امر
۲۰۸	نئی تعلیم - تعلیم ہی نہیں	۱۷۹	بالمحروث کی وجہ
۲۰۹	پڑھے لکھے جاہل	۱۸۰	ایک سبق آدر مثال
۲۱۰	زیدہ کتابوں کا مطالعہ	۱۸۱	بعض دقیق باتیں
۲۱۱	بحالات موجودہ ان کی اصلاح کی ممکن صورت	۱۸۳	تبلیغ افعال بھی ضروری ہے
۲۱۴	نظام اصلاح کی صورت	۱۸۴	جن کو سب سے زیادہ ہم پر تبلیغ کرنا واجب ہے
۲۱۷	ضمیمہ	۱۸۵	ایک عجیب رائے
۲۱۷	ایک بڑا فرض کفایہ	۱۸۸	انقلاب عام و تمام
۲۱۷	دوسری ذمہ داری	۱۸۸	قرآن مجید صرف کتاب ہدایت نہیں نظام ہدایت بھی ہے
۲۱۸	اسلام پر شبہات کا ازالہ	۱۸۹	دینی تعلیم کا مدعا
۲۱۹	کفر از کعبہ	۱۸۹	فرنگی دبا
۲۱۹	یونانی اور فرنگی شبہات میں فرق	۱۹۰	اصلاح کا خاص تجدیدی پہلو
۲۲۰	ندوہ کا فضل تقدم	۱۹۱	توانج کی اصلاحی ذمہ داری
۲۲۰	لا دینی روگ دینی ادارات میں	۱۹۲	خلاصہ
۲۲۱	دو ضروری باتوں کا انتظام	۱۹۴	متعدی اصلاح و تبلیغ
۲۲۲	مادیانہ سطحیت	۱۹۴	دینی زندگی کے دو کلیدی اصول
۲۲۲	قدیم معقولات	۱۹۵	ایک اور عام غرضہ
۲۲۳	انگریزی کا لزوم	۱۹۶	مقصود کام نہیں نام
۲۲۳	خالص عربی ادب	۱۹۷	کم و کیف کا فرق
		۱۹۸	اتفاق کا گر
		۱۹۸	حضرت کی تجدید دین کا حاصل
		۱۹۹	سب سے زیادہ یاد رکھنے کی بات
		۲۰۰	ایک اور تقاضہ
		۲۰۱	اجزائے نظام کا خاکہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اسلامی اجتماع کی تعمیر

از محمد اقبال سلیم گاہندی

مشہور فلسفی اور عالم حضرت مولانا عبد الباقی صاحب ندوی سابق اساتذہ فلسفہ و دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن کی مصنفہ کتب سلسلہ تجدید دین کی ہر چہار کتب کی اشاعت کا اہتمام نفیس اکیڈمی کی طرف سے ہو رہا ہے۔ یہ کتاب یعنی "تجدید تعلیم و تبلیغ" سلسلہ کی تیسری کتاب ہے، اور اپنے موضوع پر اردو میں یہ بے مثال تصنیف ہے انسانی آبادی اور اس کے اجتماع و تمدن کا اصول یہ ہے کہ افراد میں ذہنی تبدیلی رونما ہو کر اسرات خاندان کی ایک خاص نصب العین پر تعمیر ہوتی ہے، اور ایسے بہت سے خاندان جب ایک خاص نصب العین کے بموجب خاص ضوابط حیات پر کاربند ہوتے ہیں تو ان سے ایک اجتماع، ایک معاشرہ اور ایک سوسائٹی وجود میں آتی ہے اور جب یہ سوسائٹی ارتقاء اور تکمیل کے مرتبہ تک پہنچتی ہے تو اسے مملکت یا اسٹیٹ کا نام ملتا ہے۔ جس طرح تعلیم و تبلیغ فرد کو بناتی ہے۔ اسی طرح تعلیم و تبلیغ اجتماع کی تعمیر کرتی ہے اور امت سالہ کا کام تعلیم و تبلیغ ہی کے ذریعہ انجام پاتا ہے۔ مولانا کی اس کتاب کا یہی موضوع ہے اس پر مولانا نے تفصیل بحث کی ہے۔ موجودہ عہد میں جو امور خالص اسلامی اجتماع کی تعمیر میں حائل ہیں، انہیں تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، ان سے عہدہ برآ ہونے کی ترکیبیں بیان کی ہیں، اور یہ واضح لگتا ہے کہ ہماری تعلیم و تبلیغ میں کیا نقائص ہیں جن کی وجہ سے امت سازی کا کام حسب دل خواہ انجام پذیر نہیں ہونے پاتا ہے۔ اگر ہمارے علماء اور زعماء واقعہً یہ چاہتے ہیں کہ امت اسلامیہ میں پھر سے اجتماع اسلامی کی خوبیاں ویسی ہی قوت پیدا ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔

اس خاص موضوع پر عربی، فارسی، اردو یا انگریزی میں کوئی دوسری مستقل کتاب اس تفصیل اور اس اہتمام کے ساتھ غالباً موجود نہیں، اس لئے یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک بے مثال تصنیف ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اہل علم حضرات اس سے پورا فائدہ حاصل کریں گے۔ اور یہی وہ مقصد جس کے لئے ہم نے اس پورے "سلسلہ تجدید دین" کی اشاعت کا اہتمام کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ دعا ہے کہ اسے حسن قبول عطا فرمائے۔ آمین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیباچہ

المجدد سلسلہ تجدید دین کی تیسری کتاب بھی کتابی صورت میں پیش ہو رہی ہے اصل میں بھی کتاب ہی تھی۔ لیکن کتابی صورت میں اشاعت دیر طلب تھی اس لئے بعض احباب نے تبلیغی و تعلیمی امور میں اس کی افادیت کو زیادہ محسوس فرما کر پہلے مضامین کی صورت میں شائع کر دینے کی رائے دی۔ اچھا ہی ہوا کہ معارف و الفرقان میں دو تین سال قبل مضامینی صورت میں نکل جانے سے بعض رایوں سے استفادہ بلکہ اصلاح کا موقع مل گیا۔ اور اب کتاب لفظی رد و بدل کے علاوہ بہت سی معنوی تبدیلیوں اور محتذبہ اضافوں کے ساتھ شائع ہو رہی ہے۔

پہلی دونوں کتابوں جامع المجددین و تجدید تصوف کا تعلق زیادہ تر مسلمانوں کی ظاہری و باطنی کامل و جامع انفرادی اصلاح سے تھا۔ جامع المجددین کا ظاہری سے اور تجدید تصوف کا باطنی سے۔ تیسری کا اصل موضوع اجتماعی اصلاح کے تعلیمی و تبلیغی مسائل ہیں۔ سب سے نمایاں دو خصوصیات اس کی بھی رہی قابل توجہ ہیں جو حضرت جامع المجددین (مولانا تقانوی) علیہ رحمہ کے سارے اصلاحی و تجدیدی کارناموں کی ہیں۔ (۱) تعلیم و تبلیغ سے متعلق سارے اصول و فروع کی جامعیت و ہمہ گیری اور (۲) ہر مسئلہ میں پوری حدود شناسی یا افراط و تفریط سے احتیاط۔ یہی دو خاص امتیازات دین کامل (اسلام) کا خاص کمال ہیں۔

یہ دین کامل بہت کچھ اپنی شان کمال و اعتدال ہی کی بنا پر جس طرح ابتدا میں غیروں کے لئے "غریب" یا اجنبی و بیگانہ تھا۔ آج خود اپنے اسلام کے اسی دو گونہ امتیاز

سے معارف واعظم گدھا، بابت ۱۹۷۸ء۔ الفرقان (مکمل) بابت ۱۹۷۶ء

سے بیگانہ و نا آشنا ہو رہے ہیں۔ اِنَّ الْاَسْلَامَ بَدْعٌ غَرِيبٌ اَوْ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدْعُ
خَطِيئَتِي لِلْغَرِيبِ اَوْ هُمُ الَّذِيْنَ يَصْلَحُوْنَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ لَجْدِيْ مِنْ سُنَّتِيْ۔

اسلام کی ابتدا بھی غربت یا اجنبیت کی صورت میں ہوئی اور آگے چل کر پھر یہ
جلد ہی غریب ہو جائیگا کہ لوگ اس کو پوری طرح پہچانیں گے نہیں، پس بڑی
خوشخبری ان غریب یا اجنبیوں کے لئے ہو، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دین کے ایسے فسادات
کی اصلاح کریں گے جو بعد کے لوگوں نے میرے طریقہ میں پیدا کر دیئے ہوں گے۔
اچھے اچھے اہل علم و اخلاص افراد و ادارات تک کو دیکھا جاتا ہے کہ اسلام
کی ہمہ گیری و حدود شناسی سے شاذ ہی آشنا و مانوس ہیں۔ انتہا اس بیگانہ وشی کی
ہو گئی کہ معاشیات و سیاسیات کے سرتاسر موجودہ لطیف و حیوانی شور و غوغا سے
مرعوب و متاثر ہو کر آج ہمارے بڑے بڑے علماء و مفکرین اسلام کے جمال و کمال
زیادہ تر معاشی و سیاسی آئینہ میں دیکھ دکھلا کر پہچاننا اور پہچنونا چاہتے ہیں!
سیاست و معیشت کی لادینی نہیں دینی اہمیت کے داعی اعتراض کے ساتھ ان دونوں
کا تعلق انسان کی انسانی یا مقصدی زندگی سے براہ راست بہر حال نہیں۔ بلکہ حیوانی و
مادی زندگی کے حوائج و وسائل سے ہے۔ "خوردن برائے زیستن" ہے نہ کہ "زیستن
برائے خوردن" سیاست و حکومت کا مطلب بھی اتنا ہی ہے کہ انفرادی و اجتماعی زندگی
کے مادی و معاشی مشاغل کو امن و امان کے ساتھ انجام دے کر انسان اصل انسانی
زندگی کے مقصد و مدعا کی جدوجہد طلب و تکمیل میں زیادہ سے زیادہ فراغ و اطمینان کے
ساتھ منہمک رہ سکے۔

لیکن جب انسان اپنی " (احسن تقویر) کے اعلیٰ مقصد و معنویت کی بلندی سے
گزر کر "اسفل المسافین" کی پستی میں جا پڑا تو پھر انسان کی انسانی غرض و غایت کا سوال
ہی کہاں رہ جاتا ہے۔ جس بازار سے کھرے سکوں کا چلن اٹھ گیا ہو ہر مال کی قیمت
کھوٹے سکوں سے لگائی جاتی ہو وہاں کھرے کھوٹے کی تمیز کتنوں کو رہ جائے گی۔ کھرے
اور کامل المیار دین اسلام کی آج خود اپنوں میں کساد بازاری و کس مپرسی یا غربت و اجنبیت
کا بڑا سبب یہی ہے۔

اس دین بیزاری اور معاشی و سیاسی شور و فساد کے آشوب میں اگر سیاسیات و معاشیات
سے دوسری روایتیں اٹھائیں ہیں۔

کی راہ سے دین کی طرف کوئی مڑ جائے اور دین کے ابتدائی و بنیادی مطالبات کا کچھ شعور پیدا ہو جائے تو یہ بھی بے غنیمت معلوم ہوتا ہے۔ چہ جائیکہ اسلامی شان و حدود شناسی و ہمہ گیری کی خالص و کامل تعلیمات کی خالص و کامل جامع تجدیدات جو جامع الجہدین اور تجدید تصوف و سلوک نام کی کتابوں میں پیش کی جا چکی ہیں ان کی کسی خاص طلب و تمیز کی امید کی جاتی۔

تاہم خود حضرت جامع التجہدین حکیم الامتہ علیہ الرحمۃ جو یہ بڑی حکیمانہ بات فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کی شان کمال و جمال میں قدرۃ خود ہی بڑی کشش ہے تو اس میں شک نہیں کہ ان دو کتابوں کے ذریعہ اسلام کی یہ خاص شان کئی اعتبار سے کم سے کم آگے بڑھے گی۔ وہ بھی زیادہ ہی رہی، لیکن کیفی اعتبار سے جس طبقہ کے بھی سنجیدہ و فہمیدہ ہاتھوں تک پہنچی انہوں نے تجدیدات کی جامعیت و ہمہ گیری اور توازن و حدود شناسی کے کمال و جمال کا اعتراف کیا اس اعتراف میں قدیم و جدید لیکن دونوں کے ایسے صاحب فہم و فکر حضرات تک شریک ہیں جن کو حضرت علیہ الرحمۃ سے کسی نوع کے قرب و اعتقاد کے بجائے بُد اور غلط فہمی ہی زیادہ تھی۔ البتہ طبیعت میں انصاف، سچائی، عناد نہ تھا۔ ان سب نے مختلف عنوانات سے جن مشترک تاثرات کا زبانی یا تحریری اظہار فرمایا، ان کا خلاصہ یہی جامعیت و ہمہ گیری اور توسط و توازن یا حدود شناسی ہے۔ اور ان دونوں کا لازمہ صحیح و کامل فہم دین۔ یہ تو نظری تاثرات تھے۔ سب سے قیمتی عملی تاثر خود اپنی اصلاح کا احساس اور اس کی طرف توجہ۔ حضرت مجدد وقت کی کتابیں جس نے بھی دو چار سو صفحات خصوصاً مواعظ و ملفوظات کے جی لگا کر پڑھ لئے۔ راقم یہ طور کا بلا استثنا تجربہ رہا ہے کہ وہ اس بڑے بیش قیمت عملی تاثر سے محروم نہیں رہتا۔

غرض ہر طرح کے ناموافق حالات و فسادات کو دیکھتے اگر زیادہ ہمت افزائی نہیں ہوتی تو بحمد اللہ ایسی ہمت شکنی بھی نہیں ہوتی کہ سلسلہ کی مزید خدمت و اشاعت کا رخ ہی نہ رہتا۔

بعض قابل فہم کتب مجربہ و واقعات

۱۔ اتنا غالباً پہلے ہی کہیں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ خدمت بلا کسی خاص سوچے سمجھے ہوئے ارادہ

کے اور اس طرح گویا ”بے ارادہ“ انجام پذیر ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا سید مناظر

احسن اگیلائی مدظلہ العالی نے کئی بار اور بہت خوب تحریر فرمایا کہ یہ کام تم نے کیا نہیں کرایا گیا ہے۔ خیال کی ابتداء یوں ہوئی کہ محب قدیم عبد الماجد صاحب دریابادی زادہ اللہ مجداً نے حضرت علیہ الرحمہ کی وفات پر صدق کے لئے کوئی مضمون احقر سے بھی طلب فرمایا۔ جی میں آیا کہ حضرت کی مجددیت پر کسی نے خاص توجہ نہیں کی۔ اسی کے متعلق چند صفحات پیش کر دوں۔ جواب میں یہی عرض کر دیا۔ ایک بڑی طبی نا اہلیت یہ ہے کہ ذمہ داری کے اگر کسی ایک کام میں بھی لگا ہوں تو پھر توجہ طلب کوئی دوسرا کام یکسوئی سے بہ مشکل ہی ہو پاتا ہے۔ اور "موقتی" یا اخباری رنگ کے مختلف الموضوعات یا متفرقات پر تو کہنا چاہیے کہ سرے سے قدرت ہی نہیں۔ طبعاً کے علاوہ عقلاً و نقلاً اور خود حضرت علیہ الرحمہ کے رنگ سے بھی ایسا ہی سبق ملا۔ بہر حال مولانا موصوف کی خدمت میں جواب لکھ کر بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر جب عثمانیہ یونیورسٹی کی ذمہ دارانہ خدمت سے سبکدوشی ہوئی اور شاید موصوف ہی نے پھر یاد دلایا یا خود آیا تو ۶۰'۵۰ صفحے کے ایک مضمون کا ارادہ کر کے شروع کیا۔ ساتھ ہی ساتھ تجدیدی نظر سے حضرت کی کتابیں جو دیکھنا شروع کیں تو معلوم ہوا کہ بے سوچے سمجھے سمندر میں کود پڑا ہوں۔ اسی دوران میں خواب دیکھا کہ ہمارے ندوی حضرت سید (سلیمان) صاحب مدظلہ اور خاکسار حضرت علیہ الرحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ ایک دالان میں بہت اونچے بڑے پلنگ چھپر کھٹ پر کوئی بڑا قد اور لیٹا ہے جس پر بڑی صاف شفاف سفید چادر پڑی ہے جیسی جنازہ پر پڑی ہوتی ہے۔ سید صاحب نے گھبرا کر فرمایا کہ "حضرت کی وفات ہو گئی! خاکسار نے کچھ اس طرح کے الفاظ میں شدت سے اس کی تردید کی کہ "نہیں حضرت کی وفات ہرگز نہیں ہوئی! اس کے بعد ہی اچانک اُس چادر کے اندر سے نمایاں حرکت محسوس ہوئی۔ چھپر کھٹ کے محاذ ہی میں ایک دوسرا پلنگ خالی بچھا تھا اس پر بھی بہت سفید چادر لگی تھی۔ ہم دونوں اس پر اس "بظاہر جنازہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ آنکھ کھلی تو نہ ہم دو کے سوا کسی اور کا ہونا یاد نہ کوئی اور بات ہی یاد۔

تعبیر البتہ بے ساختہ ذہن میں یہ آئی کہ سید صاحب۔ اشرف الحیات کے نام سے حضرت کی سوانح حیات کا ارادہ بلکہ شاید آغاز فرما چکے تھے۔ جس کا دستور بالعموم ناسوتی

۱۰ افسوس کہ اختتام ہوا۔ تجدید تصوف و سلوک میں مقدمہ کے عنوان سے جو حصہ شامل ہے وہ دراصل اشرف الحیات ہی کا تجدیدی ٹکڑا ہے

حیات کے خاتمہ کے بعد ہی لکھنے کا ہے۔ اور راقم نا اہل حضرت کی دینی تجدید و احیا کی خدمات پر کچھ رہا تھا جو غیر فانی ہیں۔ والہیہ عند اللہ

۲۔ ایک اور غیر معمولی تجربہ اس سلسلہ کی خدمت میں عجیب ہوتا رہا اور برابر ہو رہا ہے طالب علمی ختم کر کے جب سے زندگی میں قدم رکھا حوصلہ و ہمت سے بڑھ چڑھ کر کامیابیاں ہم قدم رہیں۔ بظاہر کیسی عجیب بات سی ہے کہ جیسا جیسا حضرت کی جوتیوں سے نزدیک ہوتا گیا زندگی کی یہ ظاہری کامیابیاں دور ہی ہوتی چلی گئیں۔ اب تو مدت سے رنگ یہ ہے کہ اکثر جھوٹے سے چھوٹا اور آسان سے آسان کام بھی پہاڑ اور دشوار ہو جاتا ہے۔ نفع کی جگہ ہر معاملہ میں نقصان کا سامنا زیادہ رہتا ہے۔ مجبوری و نا چاری ہی سے کسی نئے کام کو ہاتھ لگانا یا کسی نئے معاملہ میں پڑتا ہوں۔

دوسری طرف سلسلہ تجدید کی ان کتابوں کی تحریر و طباعت اور اشاعت میں ایسی تسیر و تسہیل ہوتی رہی کہ اس سراپا ناکام کا کام ہی نہیں معلوم ہوئیں! ۳۰ - ۳۲ سال سے دمہ ہمدم ہے، جاڑوں بھر کم و بیش نفس شماری میں کتنی لکھنے پڑھنے کا کوئی مسلسل و مستقل کام قطعاً نہ ہو پاتا۔ مرض کی شدت بارہا مریض و معالج، اعزہ و احباب سب کو مایوسی تک پہنچا دیتی۔ لیکن ادھر قریباً چار سال جب تک اس سلسلہ کا تحریری کام انجام کو نہیں پہنچ لیا یا دہنیں کہ مرض کا اشتداد یا امتداد ایک دن بھی کام میں مغل ہونے کی حد تک پہنچا ہو۔ اس کے بعد گزشتہ سال ہی پھر مسلسل چار پانچ مہینے فریش و نیم فریش اور موت و حیات کی کشمکش میں رہا۔

۳۔ تحریر کے بعد طباعت کا ہفتخوان سامنے آیا۔ معاملات کے تجربوں نے یوں ہی ہر معاملہ سے خوف زدہ کر رکھا تھا۔ پھر طباعت و مطبع کے کوچہ سے دوسرے سے نا بلرہا۔ ہمارے مولانا (سید ابوالحسن) علی میاں سلمہ تک جیسے بے نفس سے تاکہ انہوں نے حج و زیارت کے دوران میں اجابت دعا کے تمام مقامات پر خاص طور سے طباعت و مطبع کے بعض سابقوں سے پناہ مانگی۔ ایسے بے لفسوں کے مقابلہ میں اس مجسمہ نفس و نفسانیت کو تو جو کچھ بھی پیش آجاتا کم تھا۔ لیکن خدا بڑی جزا دے محب محترم مولانا محمد منظور نعمانی سلمہ (مدیر الفرقان) کو کہ انہوں نے اس خدمت کو دین کی ایک ضروری خدمت تصور فرما کر بڑی لہیت کے ساتھ طباعت کے بہت سے مراحل کی بہت کچھ ذمہ داری خود

قبول فرما کر نامی پریس کا مشورہ دیا اور کام اس کے حوالہ کر دیا۔ نامی پریس کی "نیک نامی" کے لئے دعا گو ہوں کہ مالک پریس اور کارکنان پریس سب نے شکایت سے زیادہ شکر ہی کا موقع دیا۔ والا جبر عند اللہ۔

۴۔ اب اشاعت کا مرحلہ آیا، تو ہندوستان و پاکستان کے مسائل کی نئی مشکلات کا سامنا۔ کتابوں کی مانگ حقوڑی بہت جو کچھ وہ بہت زیادہ پاکستان میں، ہندوستان میں برائے نام۔ خود مؤلف ناکارہ طباعت ہی کی طرح اشاعت کے معاملات سے قطعاً بے بہرہ ایسی صورت میں اس کو "مردے از غیب" بردن آید و کار سے بکند کی غیبی کار فرمائی کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ پاکستان میں جن حضرات سے سابقہ تعلقات کی بنا پر کچھ توقعات ہو سکتی تھیں، وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایسے خالص و مخلص بندہ محب کریم و لطیف پیر عبد اللطیف سلمہ کو پاکستان کے سب سے بڑے مرکز اشاعت لاہور میں کھڑا کر دیا جنہوں نے غریب مؤلف کی غالباً صورت بھی نہیں دیکھی ہے! اب تک انہیں کے ہاتھوں جامع و تجدید دونوں کی سب سے زیادہ اشاعت ہوئی ہے۔ پھر للہیت کا یہ عالم کہ ہدیۃ کتاب کے صرف ایک ایک نسخے کی طلب و قبول کے آگے اشارۃً "سراحتہ" بواسطہ و بلا واسطہ جس جس ممکن عنوان سے کوئی درخواست کی سب کا ایک ہی جواب تھا کہ "ان اجری الاعلیٰ اللہا مہینوں کے مقابلہ کے بعد آخر" اس بندہ کثیف" ہی کو "بندہ لطیف" کے سامنے سپردال دینا پڑی!

آخر میں یہ عرض کئے بغیر نہیں رہا جاتا کہ پیر لطیف کا یہ لطف دراصل اُسی پیر خراباتؒ کے "لطف دائم" کا ایک جرعہ ہے جس کی نسبت جامع المجددین کے دیباچہ میں عرض کیا جا چکا ہے کہ

بندہ پیر خرا با تم کہ لطفش دائم است زانکہ لطف شیخ وزاہد گاہست و گاہ نیست
اور بالآخر یہ سب محض شیون و مظاہر ہیں شان ربوبیت و رحمت کے مبدِ اول و آخر کے
فالحمد للہ رب العالمین

۱۔ حضرت مولانا المحترم شاہ محمد حسن صاحب مدظلہم العالی امرتسری ثم لاہوری۔ از اہل
خلفائے حضرت جامع المجددین علیہ الرحمہ۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

”أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا“

”کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ اکثر ہوا پرست زمام کے عقل پرست (کچھ سنتے سمجھتے) یا واقعاً عقل سے کام لیتے ہیں! ان کا حال تو بس چوپایوں (جانوروں) کا سا ہے۔ بلکہ ان سے بھی گیارا گزرا (کیونکہ جانور تو بے عقلی کی وجہ سے معذور ہیں) معنی و مقصد ہستی کا سمجھنا معلوم عقل ہے صرف پرستاری و ہام ابھی

فرنگی دجل کے اس دور کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اکثر سیاہ کو سفید اور زنجی کو کافور کا نام دے کر پرو پگندے کا ڈھول اس زور سے پیٹا گیا ہے کہ اس کے مقابل دوسری آواز کان پڑی سنائی نہیں دیتی۔ یہی برعکس نام نہند زنجی کافور کا معاملہ تعلیم کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ لفظ سن کر بے ساختہ ذہن اسی نام نہاد نظام تعلیم کی طرف جاتا ہے جس کا جال کروڑوں اربوں کے مصارف سے اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی سربفلک عمارتوں کے اندر ساری دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے، حتیٰ کہ تعلیم یافتہ سے مراد اب اسی تعلیم کا حامل اسفار ہوتا ہے۔ اس لئے حضرت مجدد وقت (مولانا تھانوی علیہ الرحمہ) کی تعلیمی تجدیدات و اصلاحات کا محل و مقام سمجھنے کے لئے ذرا خود تعلیم کا صحیح مطلب سمجھ لینا مقدم ہے۔

تعلیم کے صحیح معنے | متعلم کو اس کے مقصد وجود کی تکمیل و تکمیل کا علم عطا کرنا ہیں۔ لیکن تعلیم جدید نے انسان کو اپنے اندر کائنات کے وجود کا جو علم و تصور عطا کیا ہے، وہ یہ کہ سارا کارخانہ عالم بس ایک خود رو جہل ہے،

جس کا کوئی پاسبان نہیں، جس نے برگ و بار، اشجار و انعام کا کوئی خاص مقصد پیش نظر رکھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ رکھا یا ہو۔ اس جنگل میں طرح طرح کے خورد و جانور چرند و پرند بھی بھرے ہیں جن میں سے ایک انسان بھی ہے، البتہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا حیوان (higher animal) یا سب سے بڑھیا جانور ہے، مگر ہے جانور ہی۔ اور اس جنگل کے دیگر خورد و نباتات و حیوانات کی طرح اس کو بھی کسی دیدہ و دانستہ مقصد سے نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے اس کے حق میں تعلیم کے یہ معنی بھی بالکل بے معنی ہیں، کہ وہ نام ہے اس کے کسی خاص مقصد اور تکمیل مقصد کی علم آموزی کا۔

انسان اور نباتات کے متعلق اس علم و تصور کی منطق کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے، کہ جنگل کے دوسرے جانوروں کی طرح یہ بھی زندگی کی ساری تک و دو اور کشمکش، کھانے پینے رہنے سہنے، اور جننے جانے (توالد و تناسل) کی نذر کر دے، البتہ چونکہ یہ اعلیٰ درجہ کا جانور ہے، اس لئے اس کی بود و ماند کے سامان بھی قدرۃ اعلیٰ درجہ کے ہوں گے۔ جانور اگر بھٹ میں رہتے ہیں، تو یہ جنگل میں رہے، وہ اگر چرچگ کر کھاتے ہیں، تو یہ میز کرسی پر کھائے، وہ اگر توالد و تناسل کے وظائف سیدھے سادھے فطری طریقوں سے انجام دیتے ہیں، تو یہ اُن کو کوک شاستر کا آرٹ بنا دے۔!

غرض جب انسان من حیث انسان کا نہ کوئی جداگانہ مقصد و مقام ہے، نہ ماضی نہ مستقبل، یعنی نہ ماضی کی طرف اس کی آفرینش میں کسی کی مرضی و مشیت یا قصد و ارادہ کو دخل جس کی بنا پر اس کے وجود کا کوئی خاص مقصد و مراد یا مطلب و معنی ہوں، نہ مستقبل میں اس کی موجودہ زندگی کا کوئی حساب و کتاب یا جزاء و سزا تو اس کے سوا ہو ہی کیا سکتا ہے، کہ وہ آغاز و انجام سے یکسر بے پردا ہو کر تمام تر اسی زمانے کی مادی و فانی زندگی کے ماکولات و مشروبات، شہوات و رغبات، جاہ و جلال، آرائش و نمائش، کبریائی و سر بلندی کے انفرادی و اجتماعی مقابلہ و مسابقت میں سرتاپا غرق رہے، اور اسی کو تعلیم و تہذیب ترقی و تمدن کا کمال جانے۔

ساتھ ہی چونکہ اس اعلیٰ درجہ کے جانور (انسان) میں اعلیٰ درجہ کی عقل و ذہانت بھی ہے، اس لئے بالآخر اعلیٰ درجہ کے حیوان سے ترقی کر کے اعلیٰ درجہ کا شیطان بن جاتا ہے۔ اور اس بے لگام

عالی درجہ کا حیوان و شیطان

عقل و ذہانت کی بدولت ایک طرف ذہنی و دماغی عیاشیوں کا شکار ہوتا ہے، اور دوسری طرف طرح طرح کی ایجادات و اختراعات سے حیوانی و جسمانی راحت و زینت، نقلی و ترغ کے سامان مہیا کرتا ہے، پھر قدرۃً اسی میدان میں افراد و اقوام سب کی دوڑ شروع ہوتی ہے، ایک دوسرے کو ڈھکیل کر آگے نکل جانے میں بھی اسی اعلیٰ درجہ کی عقل و ذہانت سے مطلب برآری کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی مکاریوں اور چالاکیوں سے کام لیتا ہے اور ان کو سیاسیات و معاشیات وغیرہ کی ظاہر فریب و خوشنما اصلاحات میں تعبیر کر کے زندگی کا نام ہی کا فور نہیں رکھ دیتا بلکہ ایسا مسحور کر دیتا ہے کہ سیاہ و اقماً سفید دکھلائی دینے لگتا ہے، وہم میحسبون انھم یحسدون صنعا۔

تعلیم پانچواں درجہ لازماً ایسی بے سرو پا تعلیم جس کے تصور میں نہ زندگی کا کوئی سر ہے نہ پیر، نہ ماضی، نہ مستقبل، نہ مبداء نہ معاد، وہ قدرۃً محض حیوانی یا مادی زندگی کے تیش و تفوق کے لئے فرد فرد، قوم قوم اور ملک ملک کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں برد آزماتا کر دیتی اور انسانی بستیوں میں جنگل کے قانون کے سوا کوئی قانون کارفرما نہیں رہ جاتا۔ البتہ جنگل کے جانور سینگ اور پنچے مار بٹے، یادانت سے نوچتے بھاڑتے ہیں، وہ بھی ایک نے بہت سے بہت دو چار کو کھا چا ڈالا، لیکن یہ اعلیٰ درجہ کا تعلیم یافتہ جانور اپنی عقل و تعلیم کے زور سے ایٹم بم (اور اس سے بھی لاکھوں درجہ بڑھ کر ایٹم روجن بم) کے ایک ہی وار میں شہر کے شہر بوڑھوں، بچوں، عورتوں، بیماروں کی تمیز کے بغیر نیست و نابود کر ڈالتا ہے۔ اس شرابے ہمارے تعلیم کی بدولت ساری زمین شروفساد سے بھر گئی ہے۔ جنگوں اور خانہ جنگیوں نے کسی گوشہ میں امن و امان کا نشان نہیں چھوڑا، جنگ عظیم اور پھر جنگ عالمگیر کے برپا کئے ہوئے انفرادی و اجتماعی مصائب ابھی ختم نہیں ہوئے، بلکہ روز افزوں ہیں، کہ تیسری جنگ عالم سوز کے فریق دانت نکال کر نمودار ہو گئے ہیں، اور ہاتھ طبل جنگ پر ہے۔

چہم کم امریکہ کے ایک وظیفہ یاب امیر البحر کا مضمون (پانیر سر اکتوبر ۱۹۷۷ء) میں شائع ہوا تھا کہ مختلف قوموں نے دور دراز فاصلوں تک تباہی و بربادی پھیلانے والے ایسے آلات حرب بنائے ہیں جو روئے زمین سے انسانی و حیوانی اور نباتی زندگی کا آخری نام و نشان تک مٹا ڈالیں گے، اور یہ ساری برکت انہی بڑے بڑے

نام والے علوم جدیدہ حیاتیات (بیا لوجی)، جرثومیات (بیکٹریالوجی)، موسمیات (کلائما ٹولوجی)، وغیرہ کی ہے، جن پر عصر جدید کی تعلیم و ترقی کو سب سے زیادہ فخر ہے۔ ہائیڈروجن بم کے متعلق پانیر ہی ۲۶ فروری ۱۹۵۴ء میں ایک مضمون جہنم بم کے نام سے نکلا ہے کہ ایٹم بم اگر دس مرلے میل پر تباہی نازل کرتا تھا تو ہائیڈروجن بم ۳، ۴ سو مرلے میل کو جہنم بنا دے گا اور ہمارے زمانہ کے سب سے بڑے مشہور سائنسدان آئنسٹائن کا بیان ہے کہ "دس کا زہر ساری فضا میں پھیل کر کسی متنفس کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ (صدق، اربابِ خشہ) خود ہمارے ملک ہندوستان میں اسی تعلیم جدید کی حاصل کردہ آزادی کی برکات نے چند ہفتے کے اندر ہی کشت و خون کی آزادی کا جو ناقابل بیان بازار گرم کیا اور جس کی آزادی کا سلسلہ ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ کم و بیش چلا ہی جا رہا ہے۔ وہ آنکھوں کے سامنے ہے، سیکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں انسان جان و ایمان جاہ و مال عزت و آبرو، وطن و دیار سے محروم کئے جا چکے، سفر و حضر میں کہیں اماں نہیں۔ اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آگے اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا۔ اسی کو عارفِ روم فرماتے ہیں کہ

علم را بر تن زنی مائے بود علم را بر دل زنی یارے بود

تعلیم جدید مبلغ پرواز اگر کشت و خون، شر و فساد کے اس دہال و نکال تک بفرض محال ثبوت نہ بھی آئے، تب بھی تعلیم جدید کا رقص (پنڈلم) اپنے بے آغاز و بے انجام قصور تعلیم کی رو سے ذرۃً صرف نفسانی و حیوانی زندگی کے لذت و مسرت جاہ و مال کے مابین ہی رقص کرنے پر مجبور ہے، علم و تعلیم کے اس "مبلغ پرواز" کا ایک دلچسپ تجربہ خود حضرت مجدد علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے، کسی مقام پر حضرت کی۔

"ایک انگریز جنٹ سے اس کی خواہش پر ملاقات ہوئی، دوران گفتگو میں اس نے پوچھا کہ ہم نے سنا آپ نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے، تو آپ کو کتنا روپیہ ملا! حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ واہ واہ بس یہ ہے آپ کا مبلغ پرواز اور مطمح نظر جب میں نے کہا کہ کچھ نہیں ملا تو بڑے تعجب سے پوچھا کہ اتنی بڑی کتاب لکھی، اور کچھ بھی نہ ملا تو پھر کیا فائدہ اتنی محنت ہی کیوں کی..... خیر میں نے اس کے مذاق کے مطابق اس کو سمجھایا کہ

اس سے مجھے دو فائدے ہوئے، ایک تو یہ کہ علاوہ اس زندگی کے ہم مسلمانوں کے اعتقاد میں ایک دوسری زندگی بھی ہے، وہاں ایسے کاموں کا اجر ملنے کی ہم کو توقع ہے۔

یہ تو صاحب کے مبلغ علم کی سمجھ میں کیا آتا، البتہ آگے جب حضرت نے فرمایا کہ ”دوسرا فائدہ دنیا کا بھی ہے کہ میں نے یہ تفسیر اپنے بھائی مسلمانوں کے فائدہ کے لئے لکھی ہے، جب اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، کہ میری قوم کو اس سے لطف پہنچ رہا ہے، چونکہ یہ تقریر اس کے مذاق کی تھی، اس کی نظر میں میری بڑی وقعت ہوئی، غرض جو روپیہ پیسہ اور جاہ کو مقصود سمجھے گا، وہ ضرور ایسے شخص کو کہے گا، کہ بڑا بیوقوف ہے کہ محض دین کے لئے اپنا جاہ و مال سب برباد کر دیا۔“

(وعظ طریق القلندر صفحہ ۳۵ و ۳۶)

لاکھوں کروڑوں کے سامانوں اور فلک بوس ایوانوں کے اندر بڑے بڑے دعویوں کے ساتھ آج کل جو تعلیم دی جاتی ہے، بھلا بتلائیے کہ اس کا ”مبلغ پرداز“ اس فانی و مادی زندگی کے جاہ و مال لذت مسرت کے سوا کیا ہے، بہت بلند اڑے تو انفرادی سے آگے اجتماعی یا قومی و ملکی، یا نرے زبانی دعووں میں اور بھی اونچے اڑے تو ساری انسانیت کے لئے انہیں چند روزہ حیوانی منافع و نفسانی لذات کو مطلع نظر بنا لیا۔ جب فرد قوم یا انسان زیادہ سے زیادہ ایک اعلیٰ درجہ کا حیوان ہے، اور دیگر حیوانات کی طرح کھاپی کر مرجانے کے سوا اس کا کوئی اور انجام نہیں، تو پھر اس کی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ حیوانی لذات و فوائد فراہم کرنے سے آگے نظر آخر جا ہی کیسے سکتی ہے، خواہ اس کا نتیجہ بالآخر اعلیٰ درجہ کے حیوان سے ترقی کر کے اعلیٰ درجہ کا شیطان بن کر خود اس دنیاوی زندگی کی خودکشی اور اس کے امن و امان بلکہ ساری آبادی کی بربادی کی صورت میں ظاہر ہو۔

اسلامی تصور انسان | سو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کے تصور میں انسان نہ نرا اعلیٰ درجہ کا حیوان ہے، نہ اسلام کا تعلیمی تصور اس کی عارضی و ضمنی حیوانیت کو ترقی دے کر اس کو اعلیٰ درجہ کا شیطان بنانا چاہتا ہے۔ انسان

انسان ہے، اور اس کی تعلیم کا مقصد اس کو انسان کامل بنانا ہے۔ اسلام کی نگاہ میں انسان کی اصلی انسانیت (لَفَحَتْ فِیْہَا وَہُنْ رُوحِی) دگر انسان کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے، والی الہی روحانیت ہے۔ اس روحانیت کے مطالبات اتنے اعلیٰ و نامحدود ہیں کہ ان کی سمائی دنیا کی ادنیٰ و محدود زندگی میں ناممکن ہے۔ وہ اس زندگی کو آغاز و انجام سے نا آشنا یا ماضی و مستقبل سے غیر مربوط لاپختی و عبث قرار نہیں دیتا۔ بلکہ اس فانی و محدود کا رامن ایک غیر فانی و غیر محدود ذات و انجام سے بندھا ہوا ہے۔

وَاللّٰہُ خَیْرٌ وَّابْقٰی۔ وَالْآخِرَةُ خَیْرٌ وَّابْقٰی) اور دینی تعلیم کا مقصد دنیاوی زندگی کو اسی خیر و ابقی کے شایان شان بنانا ہے نہ کہ انجام و منزل سے آنکھیں بند کر کے خود راستہ ہی کو منزل بنا لینا، اور اس طرح خوردن برائے زیستن، اور پھر زیستن برائے خوردن کے چکر میں جان دے دینا، جس کو راقم ہذا اس گندی زندگی کے مناسب گندی مثال میں طعام خانہ اور پاخانہ کے درمیان چکر کاٹنے کی زندگی کہا کرتا ہے، اور اسی چکر میں جانوروں کی طرح مرجانا۔ اور کبھی یہ سوال تک نہ پیدا ہونا کہ کھانا پینا سب کچھ ہمارے لئے تو ہم آخر کس لئے؟ دین اور تعلیم دین دراصل اسی کا جواب ہے، کہ ہمارا حقیقی مقام و مطلب (Man's place in nature) اس کائنات میں کیا ہے، بالفاظ دیگر تمام علوم و فنون کا موضوع انسان کی اس دینی زندگی کے کسی نہ کسی شعبہ کی مادی و حیوانی ضروریات و حاجات کو پورا کرنا ہے، اور علم دین کا موضوع دہلکہ دین کی نگاہ میں علم نام ہی اس کا ہے، جس کا موضوع، خود اس زندگی کا مقصد و منہی متعین کرنا ہے، اور دینی تعلیم کا مقصد اسی مقصد و منہی تک پہنچانا ہے۔ اِنَّ لِّکُمْ دِیْنَہَ اَیْتًا مَّا نَتَّهِیْ اِلَیْہِ نَہَیْتُکُمْ وَاِلَیْہِ رَہْبْتُکُمْ اَلْمُنْتَهٰی۔

اصل میں تو یہ گفتگو اور زیادہ تفصیل و تطویل کی طالب ہے جو انشاء اللہ مستقلاً اپنے موقع پر ہوگی یہاں مختصراً

چند اشارات

اہل بصیرت کے لئے چند اشارات عرض ہیں۔

۱۔ انسان اور کائنات کی فطرت و ساخت میں ایک اعتبار سے بڑا تضاد ہے، انسان کی الہی یا روحانی فطرت خیر مطلق، بقائے دوام اور نامحدودیت کی طالب ہے، حتیٰ کہ لباس و طعام، مسکن و قیام کی خالص نفسانی و حیوانی لذات و حاجات تک جن

میں دیگر حیوانات اپنی جبلت کی بندھی ہوئی راہ پر کھاپی کر مرجاتے ہیں، ان میں بھی انسان کسی ایک نقطہ پر چین نہیں لیتا، نہ کسی نقص و شر کو باقی رہنے دینا چاہتا، بلکہ کامل سے کامل تر اور خوب سے خوب تر کی دھن میں لگتا رہتا ہے،

ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں اب دیکھئے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں لیکن کائنات کی ساخت ایسی واقع ہوئی ہے، کہ یہاں کی ہر شے محدود و فانی اور ہر چیز کے ساتھ شرتو آم ہے، جو خود اس بات کی فطری دلیل ہے، کہ انسان کی یہ زندگی کسی اور زندگی کی طالب ہے، جہاں کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہونی چاہئے، کہ انسان کی مشیت نامحدود ہو جائے، جو یہ چاہے وہ ہو، جو مانگے، وہ پائے وَلَكُمْ فِيهَا مَآثِرُ مُبِينٌ مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ كُفَّ وَلَكُمْ فِيهَا مَآثِرُ مُبِينٌ : اور یہ زندگی اسی نامحدود زندگی کا محض راستہ ہے، نہ کہ خود منزل مقصود۔ اور راستہ کی کامیابی یہی ہے، کہ نظر کسی وقت بھی منزل سے روگرداں نہ ہو، نہ کوئی قدم بے راہ پڑے۔

۲۔ اب اگر انسانوں کا کوئی عقلمند قافلہ منزل کو فراموش کر کے راستہ یا مسافر خانہ ہی کی راحت و لذت کے مقابلہ و مسابقت میں لڑ لڑ کر جان دیتا ہے، تو اس کی منزل رسی معلوم راستہ بہر حال راستہ ہے۔ اس میں منزل کی کامل آسودگی کی فکر حماقت کے سوا کیا ہے، اس طرح انسانوں کے مختلف افراد اور قافلے (اقوام) اپنی فطرت کے نامحدود مطالبات کا سامنا اور اگر اس دنیا کے جاہ و مال کے محدود مطالبات و لذات پر لگا دیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ ہڈی اور کتوں کی جنگ اور خود کشی کے سوا کیا نکل سکتا ہے، خدا کو بھولنے کی سزا ہی یہ ہے کہ خود کو بھول جائیں (نَسُوا اللَّهَ فَنَسِوْهُمْ) الْفُتُورُ۔

اگر سمجھ میں آجائیں، تو اسلامی تعلیم کی اس بنیاد کو سمجھ لینے میں بھی کوئی دشواری نہ ہوگی، کہ اس کا اصلی مقصود

اس لیے دو باتیں

مستقبل کی اس "خیر و البقی" زندگی کی فلاح و کامیابی ہے، جو انسانی فطرت کے اعلیٰ و حقیقی مطالبات کی کامل آسودگی کا مظاہر ہوگی، اور موجودہ زندگی کی حیثیت مقصود کی نہیں، بلکہ وسائل کی ہے، اور اس وسیلہ کو مقصود بنانا ویسی ہی خود فریبی و نادانی ہے، جیسے بخیل آدمی خود مال کو مقصود بنا کر اس کے پیچھے عزت و راحت سب کچھ بلکہ جان تک

گنوا دیتا ہے، اور نتیجہ الٹا کر یہ ہوتا ہے، کہ روپیہ پیسہ، جس عزت و راحت کا وسیلہ تھا اسی سے محروم رہتا ہے، وَ مَنْ يُعَقِّ شَحْمَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ :

یہی حشر خدا اور آخرت کو فراموش کر کے جاہ و مال پر جان دینے والی تعلیم کا آنکھوں کے سامنے ہے کہ خود دنیا بھی اس کی بدولت آخر کار جہنم بن کر رہی، افراد و اقوام سب اسی جاہ مال کی آتش رقابت میں بھسم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور قلب کا آرام و اطمینان یا دل کا سکھ چین نہ حکومت و وزارت کی کرسیوں پر نصیب، نہ صنعت و تجارت کے کارخانوں اور کوٹھیوں میں، سب کے سینہ میں ھل من ھل من کی بھٹی دھک رہی ہے۔ زندگی تنگ و وبال جان ہو کر رہ گئی ہے وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔

راز وہی ہے کہ جب مطلوب قلیل و محدود ہو، اور طلب کثیر و نامحدود، تو اہل طلب میں رقابت و مخالفت ناگزیر ہے۔ دنیا کا حال یہی ہے کہ یہ اور اس کی ہر شے جاہ و مال حکومت و تجارت، لذت و راحت، سب ہی انسان کے نامحدود مطالبات کے مقابلہ میں نہایت محدود، اس لئے اگر سارا زور ان ہی کی مطلوبیت پر صرف کر دیا جائے، اور تعلیم یہ ہو کہ اس فانی و محدود زندگی کے ان فانی و محدود مطالبات کے سوا نہ آگے کوئی "خیر" البتہ مطلوب ہے، نہ خیر و ابقی زندگی، بس جو کچھ ہے، یہی محدود ناقص دنیا، اور یہی ناقص و فانی زندگی جس کو جو کچھ لینا ہے، یہیں لے لے، تو یہ جنگ و خانہ جنگی کا علانیہ اعلان و مبارزت نامہ نہیں تو اور کیا ہے! اور اس راستہ پر چل کر بالآخر اگر ساری زمین قومی و بین الاقوامی کارزار کا میدان بن گئی، تو تاسف جتنا ہو، لیکن تعجب کی کیا بات ہے۔

پھر اندھیر کا کچھ ٹھکانا ہے، کہ اٹھے دین کی تعلیم ہی کو شر و فساد کی جڑ مشہور کر دیا گیا۔ جو اس محدود و فانی دنیا کے محدود و فانی مطالبات و لذات سے انسان کی نظر کو اونچا کر کے اس کی اصلی فکر و عمل کی عنان کو باقی و نامحدود کی طرف موڑ دینا چاہتی ہے۔ کیونکہ خدا و آخرت ہی ایک ایسا غیر فانی و غیر محدود مطلوب ہے، جو ایک طرف انسان کی غیر محدود طلب کی تمام و کمال تشفی و آسودگی کا ضامن ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف اس دنیا کے فانی و محدود و حیوانی و مادی مطالبات و لذات سے نظر کو اونچا کر کے جاہ و مال، تجارت و صنعت، حکومت و سیاسیات کی باہمی عداوت و رقابت اور روز روز کے فساد و خونریزی سے نجات بخش سکتا ہے، اس لئے کہ

خدا و آخرت، دنیاوی دولت و حکومت کی طرح کوئی ایسی حقیقت نہیں کہ اگر اس کے ایک حصہ پر کسی ایک کا قبضہ ہو جائے، تو دوسرے کے لئے اس سے بھی زیادہ بلکہ زیادہ سے زیادہ کی گنجائش نہ رہے، تو پھر لڑائی جھگڑے کی گنجائش کہاں با نہ دین نے دنیاوی حکومت و تجارت لذت و راحت، جاہ و مال میں تفوق و برتری کے لئے جنگ و جدال کی اجازت دے دی ہے بلکہ اس کی جنگ تو صرف انہی لوگوں سے ہے جو انسان کو اس کے اصل مطلوب و مقصود خدا و آخرت کی راہ سے روک یا کج راہ کر کے تمام تر مادی و نفسانی لذات و مطلوبات میں فنا کر کے انسان کو انسان کے بجائے حیوان بنا دیتا چاہتے ہیں۔ **الَّذِينَ يَصَّدَّقُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَتَّبِعُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَهَمُونَ**۔

باقی جو لوگ دین کا نام لے کر دنیا ہی کے مقاصد کے لئے رڑتے رڑتے اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، وہ دین کی نگاہ میں خالص دنیا پرستوں سے بھی بڑھ کر مجرم ہیں، کہ خدا کی باتوں کو کورڈوں کے دام فرودخت کرتے ہیں۔ (یٰسٰیٰطِرُوْنَ بِآیَاتِ اللّٰهِ ثَمٰنًا فَتٰلِیًا) اور اگر کوئی زہر کا نام تریاق رکھ کر پینا پلانا شروع کر دے، تو نتیجہ زہر ہی کا برآمد ہوگا، تریاق کا کیا قصور۔ دین سچ پوچھیے تو زیادہ تر صرف اپنے دوست نما دشمنوں ہی کے ہاتھوں بدنام ہوا اور ہو رہا ہے!

غرض دیکھا جائے تو ہمارے موجودہ انفرادی و اجتماعی مصائب و مفاسد میں سب سے زیادہ حصہ اسی موجودہ نظام تعلیم ہی کا ہے، جس نے خدا و آخرت کی مطلوبیت و مقصودیت کو عملاً زندگی سے خارج کر کے صرف جاہ و مال، حکومت و تجارت اور نفسانی و حیوانی لذت و راحت کو انسان کا مصلح نظر اور "مبلغ پرواز بنا دیا ہے۔ مختومیت قلب کی نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ افراد کی بے دینی و الحاد پسندی سے گذر کر اب حکومتیں اپنا سب سے بڑا دشمنانہ کارنامہ یہ قرار دیتی ہے کہ اپنے بے دین یا لادینی رسل کو

کافریہ اعلان و تبلیغ کرتے رہیں۔ جو اپنے دین کو پہلے ہی سے کھو چکے ہیں، وہ گمراہی میں جتنی دور بھی نکل جائیں چنناں تجھ نہ تھا۔ غم و غصہ تو اپنے حال پر ہے، جو زندہ و پائندہ دین کی شاہراہ (صراط مستقیم) پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اس کی طرف بلانے کے بجائے خود ان کی آواز میں آواز ملائے اور راہبری کا منصب چھوڑ کر گمراہوں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔

فَمَا ذَا لَبَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ

تجدید تعلیم

اس گم کردہ راہ دنیا کے ازسرنو راہ پر آنے کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ قدرت کی طرف سے راہنمائی کی مشعل جس اُمت کے ہاتھ میں دی گئی ہے پہلے وہ خود خدا شناسی و آخرت طلبی کی شاہ راہ پر آگے آگے ہو۔ اور اس کی فقط ایک ہی صورت ہے کہ خدا شناسی و آخرت طلبی کی تعلیم و تربیت اور ساتھ ہی تبلیغ کا ایسا جامع و محیط نظام اختیار کیا جائے جو اُمت مبسوثہ کے عوام و خواص زن و مرد پڑھے اور ان پڑھے سب کو حاوی و محیط ہو۔ حضرت جامع المجددین علیہ الرحمۃ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم و تبلیغ دونوں کی ایسی ہی جامع و حادی تجدید فرمادی ہے کہ اس کے قبول و عمل کے بعد نہ کوئی طبقہ انشاء اللہ محروم رہ سکتا ہے نہ کوئی فرد۔ لیکن ثمرات باغبانی کی کسی بہتر سے بہتر خالی کتاب کے پڑھ لیتے سے حاصل نہیں ہو سکتے، وہ قواعد و قواعد کے موافق باغ لگانے ہی سے حاصل ہوں گے۔ آگے ان ہی اصول و قواعد کی تفصیل و تجدید ملاحظہ ہو۔

جامع المجددین میں تعلیم الدین، اصلاح انقلاب اور بہشتی زیور وغیرہ کے مضامین کی تفصیل سے اتنا بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ حضرت جامع المجددین علیہ الرحمۃ کا پیش نہاد جامع و کامل دین کی جامع و کامل اصلاح و تجدید تھی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ہاتھوں اس کو بوجہ اتم پورا فرما کر اُمت پر اتمام حجت فرما دیا۔ خود حضرت بطور تحدیث نعت فرمایا کرتے تھے کہ الحمد للہ دین و طریق صدیوں کے لئے صاف و بے غبار ہو گیا۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس تجدید یافتہ کامل و جامع دین کی تعلیم و تبلیغ کا اُمت کے سارے طبقات عوام و خواص ذکور و انات میں اجرا کیوں کر ہو۔ مسلمانوں کے دینی و روحانی امراض کے بنیادی اسباب کے علیہ الرحمۃ کی تشخیص کی رو سے دو ہیں بڑا اور پہلا سبب قلت علم یعنی علوم و احکام دین سے

بے خبری ہے، ظاہر ہے کہ آدمی اپنے برے بھلے کو اگر جاننے کی طرح جان لے، تو جان بوجھ کر اپنے افح و ضرر سے کون بے پروا ہو سکتا ہے۔ سقراط نے تو اسی بنا پر تعلیم اخلاق کا اصل الاصول یہی قرار دیا تھا کہ "علم ہی نیکی ہے"۔ غرض دین کی تعلیم و تبلیغ کے نظام میں بھی ایسی جامع و ہمہ گیر اصلاح و تجدید کی حاجت تھی، کہ اگر اس کے مطابق انتظام کر لیا جائے تو کسی طبقہ اور کسی فرد کے لئے بھی بجز اپنی کوتاہی و کم نصیبی کے محرومی کا کوئی جائز عذر نہ رہ جائے۔ تعلیم و تبلیغ کی ان اصلاحی و تجدیدی صورتوں اور تدبیروں کا کچھ ذکر اصلاح انقلاب پر گفتگو میں گذر چکا ہے اس کے علاوہ ایک مستقل رسالہ اسی موضوع پر حقوق العلم کے نام سے اور کئی وعظ آداب تبلیغ الدعوة الی اللہ وغیرہ کے نام سے ہیں، آگے ان پر مختصر گفتگو ہے۔

علم دین کے دو درجے فرض عین فرض کفایہ | جس طرح دینی تعلیم کے دو معیار یا درجات قرار دیئے جاتے ہیں، ایک لازم و کپسری، جس سے کسی فرد کو مستثنیٰ و مستثنیٰ نہیں سمجھا جاتا، اور دوسرا اس کے اوپر کا درجہ جس میں خاص خاص ضرورتوں کے لحاظ سے مختلف علوم و فنون داخل ہوتے ہیں، اسی طرح دینی تعلیم کی بھی ایک مقدار لازم و واجب ہے، جس سے کسی دینی زندگی بسر کرنے والے کا استغناء و استثناء جائز نہیں یعنی زندگی کے مختلف شعبوں کے وہ ضروری شرعی احکام جن سے کم و بیش سب کو سابقہ پڑتا ہے، اس کا نسبت ارشاد ہے کہ "علم دین کی دو مقداریں ہیں، ایک یہ کہ ضروری عقائد کی تصحیح کی جائے فرض عبادتوں کے ضروری ارکان و شرائط و احکام محام ہوں، معاملات و معاشرت میں جن سے اکثر سابقہ پڑتا ہے، ان کے ضروری احکام معلوم ہوں، مثلاً نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، قصر کتنے سفر میں ہے، زکوٰۃ کن اموال میں واجب ہے، نکاح کن عورتوں سے حرام ہے، رضاعت سے کون کون رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اجرت ٹھہرانے میں کون صورتیں جائز ہیں، کون ناجائز، لباس کون حلال ہے، کون حرام، نوکریاں کون جائز ہیں، کون

نا جائز (اگرچہ بد قسمتی سے ناجائز میں مبتلا ہو مگر ناجائز کو ناجائز سمجھ گا اور
دو جرموں کا مرتکب نہ ہوگا ایک تو ناجائز کا ارتکاب دوسرے اس کو جائز سمجھنا
اگر کوئی صاحب حکومت ہے تو اس کو فیصلہ مقدمات کے شرعی قوانین کا علم
بھی ہونا چاہیے، گو ان کے نافذ کرنے پر قادر نہ ہو مگر جاننا اس لئے واجب ہے
کہ شرعی فیصلوں کے ناحق اور غیر شرعی کے حق ہونے کا اعتقاد نہ کر بیٹھے۔
اس زمانہ میں مسلمان حاکموں کو غیر اسلامی قوانین کے تحت فیصلے کرنا پڑتے ہیں، ان
کے لئے یہ امر کتنا ضروری ہے، کہ کم از کم اپنے اعتقاد ہی کو درست رکھ سکیں، تاکہ
(نفعل و نستغفر) کے درجے سے تو نہ گرجائیں۔

"ماکولات و مشروبات میں کیا جائز ہے، یا ناجائز اسباب تفریح میں کس کا
استعمال درست ہے، کس کا نام درست، باطنی اخلاق میں محمود و مذموم کا امتیاز
ریا و کبر، ظلم و غضب، حرص و طمع وغیرہ کی حقیقت اور ان کے علاج کا جاننا بھی
ضروری ہے، تاکہ اپنے اندر ہونا یا نہ ہونا معلوم ہو سکے، اور ہونے کی صورت میں
ان کے ازالہ کی تدبیر کر سکے، اور کوتاہی پر استغفار کر سکے۔"

"غرض علم دین کی یہ مقدار عام طور پر ضروری ہے، کیونکہ بدون اس کے
حق تعالیٰ کی ناراضی اور معصیت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔"

وہ مسلمان جو آج کل اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، اپنے دینی احکام کی مقدار واجب تک
سے ان کی لاعلمی کا یہ حال ہے، کہ حضرت فرماتے ہیں، کہ حقیقی بھانجے کی لڑکی سے نکاح
حلال جاننے والا میں نے خود دیکھا۔ باقی نوکری لباس اور اسباب تفریح میں تو ایسے صاحبوں
کے نزدیک کوئی چیز ممنوع ہے ہی نہیں، اور اخلاق میں بجز تفاخر، مسلمانوں کی تحقیر اور
اور حرص دنیا کے جس کا نیا لقب ترقی ہے، اور کچھ سیکھا ہی نہیں۔

"دوسری مقدار یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے تجاوز کر کے مجموعہ قوم کی ضرورتوں
پر لحاظ کر کے نیز دوسری قوموں کے شبہات سے اسلام کو جس مضرت کا اندیشہ
ہے، اس پر نظر کر کے ایک ایسا ذاتی ذخیرہ معلومات دینیہ مع اس کے متعلقات
واحق اور آلات و خواصم علوم کے جمع کیا جائے، جو مذکورہ ضرورتوں کے
لئے کافی ہو۔"

”پہلی مقدار فرض عین تھی، اور یہ دوسری فرض کفایہ ہے، فرض عین کا یہ حکم ہے، کہ ہر فرد انفرادی طور پر اس کا مکلف ہے، جو اس میں کوتاہی کرے گا گناہ گار ہوگا۔ اور فرض کفایہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ہر مقام پر ایک ایسی جماعت موجود ہو، کہ ان ضرورتوں کو پورا کر سکے تو سب مسلمان گناہ سے بچے رہیں گے، ورنہ سب مسلمان گناہ میں شریک ہوں گے۔“

بقدر واجب علم دین کے حصول کی آسان تدبیر

اس تقسیم سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ علم دین کی جس مقدار کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، وہ اتنے کم وقت کی طالب ہے، کہ حریص سے حریص طالب دنیا کی دنیا طلبی یا آج کل کی نام نہاد ترقی میں کسی درجہ میں بھی مانع و مغل نہیں ہو سکتی۔ راقم احقر تجربہ کی بنا پر عرض کرتا ہے، کہ ساری عمر میں صرف دو تین مہینے وہ بھی پورا وقت نہیں صرف دو تین گھنٹے روزانہ اگر جی لگا کر دیدئے جائیں تو اس فرض عین کی ادائی کے لئے بالکل کافی ہیں یعنی دنیاوی علوم کے طالب اور ترقی کے خواہاں اگر اپنی دس بارہ سال کی طالب علمانہ زندگی میں صرف ایک سال کی بڑی تعطیل کے صرف دو تین گھنٹے روزانہ حضرت کی تجاویز کے مطابق حضرت ہی کی کتابوں کے ذریعہ علم دین کی طلب میں صرف کر دیں، تو آج کل کے نام نہاد سندے بھاگنے والے مولویوں کے مقابلہ میں نہ صرف دین کے مسائل و معلومات کی حد تک بلکہ انشاء اللہ فہم دین اور تعلق مع اللہ میں بھی کمتر نہیں برتر ہی رہیں گے۔

ابھی عین اس تحریر کے دوران میں ایک تازہ تجربہ ہوا ہے، کہ ایک طالب صادق تین مہینے کی نیت سے احقر کے پاس آکر مقیم ہو گئے ہیں۔ صبح دو گھنٹے کے لئے مدرسہ فرقانیہ کلام مجید کی تصحیح کے لئے جاتے ہیں، تیسرے پہر ایک بچے کو پڑھاتے ہیں، باقی وقت احقر کی مجوزہ ترتیب کے مطابق حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور عصر و مغرب کے ماہین راقم کے پاس بیٹھ کر اس مطالعہ میں اگر کچھ شبہات رہ جاتے ہیں، ان کو صاف کر لیتے ہیں اور اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے۔ ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے، کہ ایک طرف بھدا اللہ پارہ عمدہ نصف سے زائد صحتِ مخارج کے ساتھ حفظ کر چکے ہیں، جس سے قرأت نماز بقدر واجب صحیح ہو گئی، جو ہمارے سنی مولویوں میں بھی خدا ہی بہتر

جانتا ہے کہ کتنوں کی ہوتی ہے، دوسری طرف تعلیم الدین بہشتی زیور اور بہشتی گوہر کے ضروری حصے ذاتی مطالعہ اور احقر سے رفح ہنہات کے ساتھ قریب ختم میں کچھ ملفوظات بھی روزانہ پڑھ لینے کی ہدایت ہے، اس کے بعد چالیس مواعظ یہ پورا انصاب انشاء اللہ تین مہینہ کے اندر ہی پورا ہو جائے گا۔ اسی دوران میں ضروری مسائل و معلومات کے ساتھ حضرت کی کتابوں خصوصاً ملفوظات کی برکت سے دماغ دین کی فہم اور دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا بھی کچھ نہ کچھ لذت آشنا ہو چلا ہے۔

اب دینی تعلیم کے اسکولوں، کالجوں میں پڑھنے پڑھانے والے جو طلباء و اساتذہ اپنی صرف ایک سال کی ایک تعطیل اور عام مسلمان ساری زندگی میں دو تین مہینے بھی ایک ساتھ یا حسب فرصت متفرق اوقات میں آخرت کی ابدی زندگی و فلاح کے لئے نہیں دے سکتے، وہ اپنے ہی گریبان میں سر ڈال کر سوچ لیں، کہ ایسی صورت میں کس منہ سے اپنے کو مسلمان کہنے، اور خدا و رسول کو سچا جاننے، اور ان پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک ضروری جملہ معترضہ تھا۔

اصل مطلب یہ ہے کہ جو علم دین فرض عین یا ہر شخص کے لئے فرداً فرداً واجب و لازم ہے، اس کے معنی یہ بالکل نہیں کہ ہر شخص کا پورا اور اصطلاحی عالم ہونا لازم ہے کہ دینی یا معاشی مشاغل میں خلل کا ذرا بھی عذر و اندیشہ ہو، البتہ سارے مسلمانوں کے ذمے۔

یہ انتظام ضروری ہے کہ ایک معتدبہ جماعت ایسی بھی ہو، جو ہر طرح علوم دینیہ میں کامل و محقق ہو اور عمر کا بڑا حصہ ان علوم کی تحصیل میں اور ساری عمر ان کی خدمت و اشاعت میں صرف کریں جس کے سوا ان کا کوئی کام نہ ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اسی جماعت کا ذکر ہے، وَ لَتَكُنَّ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونََ اِلَى الْخَيْرِ وَيَا مُرُونَا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور حدیثوں میں اصحاب صفہ کی یہی مثال ہے۔

باقی عام مسلمان اسی جماعت سے تقریراً و تحریراً اپنی دینی ضرورتوں کو رفع کیا کریں جو پڑھنے کے قابل ہیں جیسے بچے یا جو قدرے معاش سے فارغ ہیں۔ ان

لے تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا لازم ہے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی بھلائی کا حکم کرتی اور برائی سے روکتی رہے۔

کے لئے بہتر یہ ہے کہ اس جماعت سے سبقاً سبقاً کچھ رسائل، عقائد و مسائل کے پڑھ لیں، پھر نئے پیش آنے والے واقعات کے متعلق وقتاً فوقتاً اس جماعت سے پوچھتے رہیں، اس طرح تھوڑے زمانہ میں بڑا ذخیرہ معلومات کا جمع ہو جاتا ہے، اور جو کسی سبب سے اس طرح نہیں پڑھ سکتے وہ کم از کم ہفتہ میں ایک روز گھنٹہ دو گھنٹے نکال کر ایک معین وقت پر کسی سمجھدار فاضل علم سے درخواست کریں، کہ ایسے رسائل پڑھ کر سنا اور سمجھا دیا کرے، اور ضرورت کے وقت پوچھتے رہنا، یہ تمام عوام، بلکہ علماء کے لئے بھی رجو بات ان کو نہ معلوم ہوا واجب ہے، پھر ان طریقوں سے زبانی یا کتاب کے ذریعہ جب خود احکام پر مطلع ہو لیں، تو اپنے اپنے گھر کی مستورات کو پڑھائے یا سناتے رہیں؟ دینی علم کی مقدار واجب کے لئے پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں، سماعت و صحبت سے یعنی کتابیں سن سنا کر یا اہل علم کی صحبت و دینی تربیت سے آسانی اس مقدار واجب کو حاصل کیا جاسکتا ہے۔

امراء کی فرض شناسی اصل سوال اس مذکورہ بالا جماعت کے انتظام معاش کا ہے جن کے لئے علوم دینیہ میں کامل و محقق ہونا ضروری تجویز فرمایا گیا ہے۔ اور اس لئے عمر کا بڑا حصہ ان علوم کی تحصیل میں اور پھر تمام عمر ان کی اشاعت و خدمت دین میں صرف کرنا ضروری ہے، ظاہر ہے، کہ اس طرح ساری عمر خدمت دین کی راہ میں نذر کر دینے کے بعد ان کو کسب معاش کا موقع کیسے مل سکتا ہے اس مشکل کا قدرتی و صحیح اور ساتھ ہی سب سے مفید و آسان حل تو وہی ہے، جس کی طرف ترغیباً و ترہیباً ہر طرح حضرت علیہ الرحمہ نے کثرت سے جا بجا اپنی کتابوں اور مواعظ وغیرہ سب میں متوجہ فرمایا ہے کہ امراء کا طبقہ جو بقدر آئیت معاش کی فکر سے آزاد ہے، اس کے ذمہ زیادہ حق تھا، کہ اپنی اولاد کو اس خدمت کے لئے وقف کرتے، پھر اولاد میں بھی جو ذہین و فطین و سلیم و فہیم ہوں کہ جو سب سے کودن ہو، (حقوق العلم ص ۱۷) اور جو ہزاروں روپے ہندوستان سے لے کر ولایت تک ان کی دینی تعلیم پر صرف کرتے ہیں، اسی کی آمدنی کسی جائیداد یا کاروبار میں لگا کر، ان کی ریسانہ و امیرانہ سہی تو متوسط درجہ کی ساری ضرورتوں کو کافی ہو سکتی تھی۔ پھر چونکہ یہ اولاد آسودہ حال گھرانوں کی ہوتی، اس لئے قدرۃ

ان میں بالعموم وہ دمارت و تنگ نظری وغیرہ بھی نہیں ہوتی جو غریبوں میں متواتر ہوتی ہے اور جس کا راسخ اثر علوم دینیہ کی تعلیم سے بھی بہ مشکل دور ہوتا ہے۔ مگر ظلم یہ ہے کہ امراء خود اپنی اس کوتاہی پر تو نادم نہیں ہوتے کہ جو خدمت دراصل ان کے کرنے کی تھی وہ بیچارے غریب غرباء کرتے ہیں بلکہ اگر ان غریب گھرانوں کے علماء میں کچھ موردی اثر سے اخلاق میں خرابیاں رہ جاتی ہیں تو ان کی بنا پر اٹھے علماء کی ساری جماعت پر لعن و طعن کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ ان خرابیوں کو نہایت جارت کے ساتھ نفس دینی و عربی تعلیم کا نتیجہ قرار دیتے ہیں حالانکہ واقعہ بقول حضرت علیہ الرحمہ کے یہ ہے کہ :-

”ان غرباء کو انگریزی تعلیم دی جاتی تو اس سے بھی بدتر حال ہوتا اور امراء و شرفاء کے بچوں کو اگر دینی تعلیم کے لئے وقف کیا جاتا تو ان کے اخلاق و عادات اس سے ہزاروں درجہ بہتر ہوتے جو انگریزی پڑھ کر ہوتے ہیں۔“

جانتے یہ ہے کہ ایک تو امراء پر امارت کے باوجود بالعموم دنیا طلبی کا غلبہ غرباء سے بھی زائد ہے دوسرے علم دین کی جو وقعت قلب میں ہونی چاہیے وہ نہیں اس لئے وہ امراء تک :-

”جو دینی مکتب و مدارس قائم کرتے ہیں اسلامی و قومی خیر خواہی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر اس کام کے لئے اپنی اولاد کو کبھی نہیں تجویز کرتے اولاد کے لئے ڈپٹی سکٹری، منصفی، سب جی و بیرسٹری ہی تجویز ہوتی ہے اور مولویت کے لئے جس کو بزم خود ذلیل کام سمجھتے ہیں، ذلیل لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، غور کا مقام ہے کہ جس کام کے لئے غریب لوگ منتخب کئے جائیں اس کی وقعت ان کے قلب میں کیا ہوگی اگر یہ کام ضروری و با وقعت ہے اور اس کا اہتمام کرنا قومی و اسلامی خیر خواہی ہے تو اس شرف کے لئے خود اپنی اولاد کو کیوں نہیں تجویز فرمایا جاتا۔“

خوب سمجھ لینا چاہیے کہ جو کام معزز طبقہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ عام نظروں میں بھی معزز و ضروری سمجھا جاتا ہے لہذا امراء کے ذمہ بہ نسبت غرباء کے زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس خدمت کے لئے وقف کر دیں پھر اولاد میں بھی جو ذہین و فطین و سلیم و فہیم ہوں کہ جو سب سے کو دن ہو (ص)

علماء و مشائخ کی مہلک خود فراموشی | امرار تو خیر امرار ہی ہیں اب

تو بڑے بڑے خاندانی علماء و مشائخ
 ایک جونسلیا، نسل سے علوم دین کے حامل و خادم چلے آ رہے ہیں، وہ بھی انگریزی دانوں
 کے مقابلے میں خود اپنے اور اپنے دینی علوم کو عملاً ذلیل و حقیر خیال کرتے، اور اولاد کو
 دھڑا دھڑا سکولوں اور کالجوں میں پہنچاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جب امرار و علماء کا یہ
 حال ہے تو عوام تو بالعموم ان کے پیچھے چلتے ہی ہیں، ان عوام میں بھی خال خال ہی
 کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہوگا، جو دین، اور علوم دین کو ضروری و با وقت جان کر اپنی اولاد
 کو اس طرف جانے دیتا ہو، ورنہ خود تکلیف اٹھا کر قرض کر کے بھیک مانگ کے یا اولاد
 ہی سے ٹیوشن کرا کے زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے، کہ اگر پی اے ایم اے نہیں تو
 میٹرکیولیٹ ہی ہو جائے اس لئے عوام یا متوسط طبقہ کی جو اولاد عربی مدرسوں میں
 نظر آتی ہے، وہ زیادہ تر کسی مجبوری و بیچارگی ہی سے آجاتی ہے۔

غیر مستطیع علماء کے مسئلہ معاش کا قرآنی حل | پھر بھی عربی و دینی

درس گاہوں کی جو
 کچھ آبادی ہے، وہ بہت کچھ غریب عوام و متوسط طبقہ ہی کے دم سے ہے، اس لئے بڑا
 سوال ان کی فکر معاش کا ہو سکتا ہے کہ مولوی بن کر اور ساری زندگی علوم دین کی تحصیل و
 تبلیغ میں لگا کر آخر کھائیں کہاں سے اس کا مفصل جواب حضرت جامع المجددین نے قرآن
 کی ایک آیت سے دیا ہے، جو لفظ بہ لفظ نقل کرنے کے لائق ہے، آیت یہ ہے :-

لِفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا
 فِي الْأَرْضِ يَحْتَسِبُ لَهُمُ الْحَافِلُ أَغْنِيَ عَنْهُمُ الْتَعَفُّفُ تَعَرَّفَهُمْ بِسْمَاهُمْ
 لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا مَا تَتْفِقُ الْمَنَ حَيْرَانِ اللَّهُ بِرِئَاسِهِ

لہ اہل حق ان عاجمندیوں کا ہے جو اللہ کی راہ رو میں کسی خدمت میں لگے ہیں جس کی وجہ سے اپنی معاشی یا دینی
 ضرورتوں کے لئے، دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ نادانانہ ان کے سوال سے بچنے کے سبب ان کو تو نگر خیال کرتا ہے، پھر بھی،
 تم ان کو ان کی صورت سے پہچان سکتے ہو کہ یہ عاجمندیوں میں درہنہ یوں، وہ لوگوں سے پیٹ کر مانگتے نہیں پرتے تو ایسے
 لوگوں کی خدمت کرنے کو جو مال خرچ کر دے یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی خوب خبر ہے وہ تم کو اس کا بھرپور اجر و ثواب دیں گے

”جس سے ایک قاعدہ مفہوم ہوتا ہے جس سے فقہاء نے بہت سے
فروع متفرع کئے ہیں وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کی منفعت کے لئے
محبوس ہو تو اس کا نفقہ اسی پر واجب ہے جیسے زوجہ کا نفقہ زوج پر (یہ تو
الفرادی وجوب کی صورت ہے دوسری صورت جماعتی وجوب کی ہے جیسے
قاضی ردالی کا نفقہ بیت المال پر جس کا حاصل تمام مسلمانوں پر وجوب ہے۔
کیونکہ بیت المال کا سرمایہ تمام مسلمانوں کا ہوتا ہے) لہذا جب یہ جماعت
خدمت دین کے لئے (جو مدلول ہے فی سبیل اللہ) محبوس دروقف
ہے (جو مدلول ہے اُحصِرُوا کا) تو ان کے حوائج کی بقدر کفایت تکمیل (جو
مدلول ہے فقرائے کا) مسلمانوں کے ذمہ واجب ہے (جو مدلول ہے لام
استحقاق کا) تو اب اس جماعت کے مصارف کی کفالت جمہور مسلمانوں کا کام
ہے خواہ تعین کے ساتھ جیسے مدرسین و واعظین کی تنخواہ خواہ بلا تعین جیسے
متوکلین کی خدمت بس یہ شبہ منقطع ہو گیا کہ مولویوں کی جماعت کھاوے کہاں سے
”اس آیت سے اور بھی چند فوائد نکلتے ہیں جن کو گو اس بحث میں دخل نہیں
مگر تعلق ہے اس لئے ذکر کئے جاتے ہیں:-

ایک یہ کہ ایسی جماعت کو تحصیل معاش میں بالکل مشغول نہ ہونا چاہیے جیسا کہ
(لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ) اسی پر دلالت کرتا ہے اور اس
سے وہ الزام بھی جاتا رہا جو عوام الناس علماء پر طلب معاش میں اپنا سچ ہونے
کا لگاتے ہیں بلکہ اس معنی میں ان کا اپنا سچ ہونا ضروری ہے اور راز یہ ہے
کہ ایک شخص سے دو کام پوری طرح ہوا نہیں کرتے خصوص جب ایک کام ایسا
ہو کہ ہر وقت اس میں مشغول رہنے کی ضرورت ہو خواہ ہاتھ کو خواہ زبان کو
خواہ دل کو خدمت دین ایسا ہی کام ہے اور علوم دینیہ کی تدریس یہ ذرائع
معاش میں داخل نہیں بلکہ اس کی تنخواہ بوجہ خدمت دین میں محبوس ہونے
کے ہے اور تنخواہ کی تعین اس مصلحت سے ہوتی ہے کہ نزاع نہ ہو

”ایک یہ کہ ایسے لوگوں کو کسی دنیا دار کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرنا چاہئے
بلکہ اغنیاء کی طرح مستغنی رہیں جیسے یَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ

اس پر دال ہے۔

واقعی ان آیات میں دین اور خادمان دین دونوں کی خدمت کا ایسا سہل و شایستہ اور تمام مفاسد سے پاک و صاف انتظام اور ساری مشکلات کا حل اور سارے شبہات کا جواب موجود ہے، کہ اگر دنیا کے معمولی معاملات کے برابر بھی ہمت و اہتمام سے کام لیا جائے تو اپنے پرانے کوئی دین کی تعلیم و تبلیغ سے محروم نہیں رہ سکتے، حالانکہ دین کا حق اور عاقبت اندیشی کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لئے بھی دنیا کے بڑے سے بڑے کام کے مقابلے میں بدرجہا زائد ہمت و اہتمام سے کام لیا جاتا۔ لیکن جب غفلت اور نا عاقبت اندیشی کا یہ حال ہو کہ دین کے بڑے سے بڑے معاملے کی دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی برابر بھی فکر نہ ہو، تو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے کہ اُن کی یہی غفلت خسرانِ آخرت نہیں، خسرانِ دنیا کا بھی سبب ہے اس لئے کہ اُن کی فلاح دنیا کا دامن فلاح دین کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور اُن کو اپنی دنیا کا قیاس غیروں کی دنیا پر ہرگز نہ کرنا چاہیے۔

آگے کچھ ان سطحی اعتراضات پر گفتگو ہے جو بالعموم مولویوں اور عربی پڑھنے والوں

علماء پر اعتراضات کی تحقیق

پر دنیا داروں کی طرف سے کئے جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ مولوی ہو کر پست خیالی، کم ہستی، ذلت پسندی، تنگ نظری، دونائیت، نیز قوت انتظامیہ کی کمی، وغیرہ صفاتِ ذلیلہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس لئے اپنی اولاد کے لئے مولویت کو پسند نہیں کرتے۔ ان الزامات میں جتنی واقعیت ہے اس کا اور اس کے واقعی اسباب کا ذکر تو آگے آتا ہے، پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ زیادہ تر ان کی بنیاد برعکس نہند نامِ زندگی کا فور پر ہے، کہ لوگ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کہنے اور سمجھنے لگے ہیں یعنی دنیا داروں نے۔

”دنیا میں مالی ترقی نہ کرنے کو پست خیالی اور اس ترقی کی فکر و تدبیر نہ کرنے کو جو قناعت ہے کم ہمتی اور اخلاق میں جاہ و کبر حاصل نہ کرنے کو اور وضع میں سادگی اختیار کرنے کو ذلت پسندی اور اپنے پرانے کے حقوق کے امتیاز کو تنگ چشمی اور اسراف نہ کرنے کو دونائیت اور دینوی فضولیات میں انہماک نہ ہونے کے سبب اپنے بعض مصالح میں فرو گذاشت کو قوت انتظامیہ کی

کی کا نام رکھ لیا ہے۔

”سو اکثر اہل علم میں ان امور کا ہونا مسلم مگر یہ رذائل ہیں یا بخلاف دنیا داروں کے زعم کے فضائل، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس فیصلے کے لئے قرآن مجید و حدیث کافی ہے۔“

”قرآن میں ہے، زُتِیَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعَامِ وَالْخَرْشِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ“
الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (۱۲) رَاٰتِ الشَّالَاٰ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورًا (۱۳)
عِبَادِ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَ
اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا (۱۴) لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (۱۵) رَاٰتِ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ
وغيرہ آیات اور اُن کے علاوہ حدیث کی کثیر روایات میں غور کیجئے تو
معلوم ہوگا، کہ صفات مذکورہ جو اہل علم میں پائے جاتے ہیں، آیا رذائل
ہیں، یا فضائل، اور محترضین نے ان کا نام رذائل رکھ کر اُن کے مقابل
میں جو فضائل کٹھرائے ہیں، نصوص میں اُن پر وعیدیں وارد ہیں اور شریعت
میں اُن کے نام یہ ہیں، حرص، طولِ امل، کبر، عجب، اتلافِ حقوق، اسراف،
تبذیر، حُب دنیا، غفلت من الآخرہ۔

شریعت سے قطع نظر اخلاقی اعتبار سے بھی حرص و غیرہ کا شمار اخلاق
ذمہ ہی میں ہے اب ان صفات کو بھی سن لیجئے، جو علوم دین نہونے سے
پیدا ہوتی ہیں، اور اس حالت میں اور زیادہ پیدا ہوتی ہیں، جب کہ علوم
دین نہ ہونے کے ساتھ دوسرے علوم باطلہ یا صحبت اہل باطل نے بھی اثر کیا
ہو، اُن کے عنوانات یہ ہیں :-

تاروینیت، فرعونیت، ظلم و حقد، جربزہ، جن کا حاصل، بالفاظ دیگر وہی حرص و
طولِ امل وغیرہ ہے، تو اگر علمائے دین کو پست خیال ذلیل وغیرہ کہا جائے، تو

اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مقابل کی جماعت کو فرعون و قارون کہا جائے۔ اور اگر ان الفاظ کے صحیح معنی لئے جائیں، یعنی پست خیالی یہ کہ فقط اپنی تن پروری و شکم پروری سے مطلب ہو، اور دوسروں کو نفع پہنچانے کا خیال نہ ہو، اور کم ہمتی یہ کہ مشقت سے گھبرائے آرام کی فکر میں رہے، گو اس سے ضروری حقوق تلف ہونے لگیں، اور ذلت یہ کہ مال کو آبرو پر مقدم رکھے، اور اس کی تحصیل میں غیرت و حیا کو طاق پر رکھ دے، اور تنگ چشمی یہ کہ ذرا ذرا چیزیں بخل کرے، شریعت و مروت کو چھوڑ دے، تعلقات واجبہ کی پروا نہ کرے، اور ذنات وہی جو حاصل ہے ذلت و تنگ چشمی کا، اور قوت انتظامیہ کی کمی یہ کہ اوقات کا پابند نہ ہو، جن ضوابط و آداب معاشرت کے ساتھ دوسرے کے مصالح وابستہ ہوں ان کے خلاف کرے، جس سے ان کی مصلحتیں فوت ہوں۔

علماء کی اخلاقی کمزوریاں علم دین کا اثر نہیں ہیں | تو بلاشبہ یہ اخلاقِ رفیلہ

ہیں، اور یہ بھی مسلم ہے، کہ بعض محصلین علم میں یہ رذائل پائے بھی جاتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ علم دین کا خدا نخواستہ اثر ہے یا کسی اور چیز کا، اس کا فیصلہ اس طرح نہایت آسان ہے کہ یہ اخلاقِ رفیلہ سب اہل علم میں پائے جاتے ہیں، یا بعض میں پائے جاتے ہیں، اور بعض میں نہیں، مشقِ ادلی مشاہدہ سے غلط ہے، اور دوسری شق سے اتنا تو ثابت ہو گیا، کہ یہ علم دین کا اثر نہیں، در نہ سب میں ہوتا۔

تو ضرور یہ کسی دوسری چیز کا اثر ہے، جو میری تحقیق میں خاندان و صحبت کی کمی ہے، یعنی بعض خاندانی حیثیت سے پست و ذنی ہوتے ہیں، اب اگر صحبت بھی نصیب نہ ہوگی، تو نوری تعلیم کافی نہیں، لا محالہ ان میں خاندانی رذائل موجود اور ظاہر ہوتے رہیں گے، لیکن ان کے مقابل میں ان اہل علم کو کیوں نہیں دیکھتے، جو عالی خاندانی یا فطرۃً سلیم ہیں، یا صحبت نے ان کو درست کر دیا ہے۔

اور افسوس ہے کہ اس وقت عالی خاندان لوگوں نے چونکہ سرتاپا انگریزی کو اور ہٹنا بچھونا بنالیا ہے، اور عربی کثرت سے ایسے ہی لوگ پڑھتے ہیں جو خاندانی طور پر دینی دیہات میں رہنے کے سبب سے صحبت و تہذیب سے محروم ہوتے ہیں، اور اس میں تبدیل کے اسباب جمع نہیں ہوتے، تو لامحالہ بہت سے لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم دین نے پھر بھی ان کو کسی قدر مہذب بنا دیا ہے، ورنہ اور زیادہ بے تہذیب ہوتے، اگر ایسی طبیعت کے لوگ انگریزی پڑھتے، تو ان سے بھی زیادہ ردائیل ان میں پائے جاتے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس زیادہ الزام معزز طبقہ پر ہے |

الزام کا زیادہ مورد معزز طبقہ

ہے جس کے علم دین سے اعراض کی بدولت ادنیٰ خاندان کے لوگ اہل علم میں زیادہ پائے جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر بقاعدہ لاکٹر حکم اہل سب پر یہی گمان کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر خاندانی لوگ اپنی اولاد کو علم دین میں کامل بناتے، تو ان میں کثرت سے علما پائے جاتے، اور بوجہ علوٰی خاندان ان میں فضائل طبعیہ زیادہ ہوتے، اور ردائیل مفقود ہوتے، تو جب اکثر علما ایسے نظر آتے، تو لاکٹر حکم اہل کے قاعدے سے عام طور پر علما کو فضائل اخلاق کا جامع سمجھا جاتا، اور علم دین سے بدگمانی نہ ہوتی، چنانچہ جو علما خاندانی ہیں خصوصاً جن کو اہل طریق کی صحبت میسر ہوگئی ان میں کسی کو پست خیال کم ہمت، تنگ چشم دکھائیے، گو ساز و سامان ان کے پاس امیرانہ نہ ہو پھر بھی ان کی شان یہ ہے کہ عرشہاں بے کم و خسر و ان بے کلمہ

بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ بدون علم دین کے فضائل اخلاق و سیر چشتی و بلند نظری، عالی دماغی، تہذیب اعتدال، انعال و انتظام اقوال میسر ہونا، ممکن نہیں، چنانچہ بے علم امرا میں ان اخلاق کا نام نہیں ہوتا، لیکن مال کی بدولت خوشامدیوں کا اجتماع رہتا ہے، اس لئے ان کے عیوب پر پردہ پڑا رہتا ہے۔

سب سے بڑی اور آخری بات یہ ہے کہ مولوی سے مراد عالم باعمل ہے |

مولوی سے مراد عالم باعمل

جس کا نام چاہے، آپ درویش رکھ لیجئے، جو ایسا نہیں، ہمارے نزدیک وہ مولویوں میں داخل ہی نہیں، ہم صرف عربی جاننے والے کو مولوی نہیں کہتے، مصر و بیروت میں بہت سے عیسائی، یہودی عربی داں ہیں، حتیٰ کہ علوم اسلامیہ کے بڑے بڑے واقف ہیں، مصر و بیروت کے علاوہ خود یورپ میں، تو کیا ہم اُن کو مقتدائے دین کہنے لگیں گے؟

یا مثلاً اہل علم کی وضع و لباس اکثر سادہ کبھی اپنے گھر کا دھلا ہوا کبھی پیوند لگا ہوا کبھی بند یا بن کھلا ہوا، دیکھا جاتا ہے، اس سے ان پر تذلل کا شبہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو واضح ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عزت کا مدار استغناء اور تذلل کا احتیاج ہے، لباس و وضع کو اس میں دخل نہیں، اگر کپڑے پرالے ہیں، اور ہفت اقلیم کا بھی رست گھر نہیں، تو وہ محرز ہے، اور اگر لباس و وضع نوابوں کا سا ہے، ہزاروں روپیہ تنخواہ ہے، ہزاروں روپیہ جائداد کی آمدنی ہے، سامان امیرانہ ہے، مگر نظر اس پر ہے، کہ اس مقدمہ میں کچھ اور مل جائے، فلاں معاملے میں کچھ اور ہاتھ آجائے، تو ایسا شخص بالکل ذیل ہے۔

ہمارے جدید تعلیم کے محرزین اگر عزت و ذلت کے اس صحیح معیار کو پیش نظر رکھ کر خود اپنی عزت کا کچھ مشاہدہ فرمائیں، تو انشاء اللہ پھر دین کی تعلیم والوں پر ذلت کی نگاہ ڈالنے یا اپنی اس بلند ہمتی کے مقابلہ میں ان کو پست ہمت کہنے کی ہمت نہ ہوگی پھر اگر عالم دین واقعی عالم دین ہے، تو اس کو اپنے دینی و علمی مشاغل نماز و روزہ تہجد و تلاوت درس و تدریس، تعلیم و تبلیغ وغیرہ میں انہماک سے خود اپنے بناؤ و سنگار کی طرف توجہ کیسے ہو سکتی ہے، کہ ہر وقت بالوں کی دھج اور پتلون کی شکن پر نظر رکھ سکے۔

”یہ شخص تو قومی انجن کا ڈرائیور ہے، ڈرائیور کو غسل اور صابون منلنے کی اور کولوں کے جھاڑنے کی فرصت کہاں، اگر فرسٹ اور سکند کلاس کے منتظم اس پر اعتراض کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ ہم ولایت اسی کی بدولت پہنچے ہیں، اور وہاں سے ڈگریاں حاصل کر کے فٹ و سکند میں سفر کر رہے ہیں، تو نادانی کے سوا کیا ہے؟“

اور علوم دین پر کیا موقوف علوم دنیا کے جو سچے اور پچھے طالب ہوتے ہیں وہ بھی اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں، عورتوں کی طرح بناؤ و سنگار کی فرست نہیں رکھتے۔

تعصب اور غصہ کا اعتراض

کچھ اس طرح کے اعتراضات بھی غریب مولویوں پر کئے جاتے ہیں کہ یہ کسی سوال کا جواب نہ بن پڑنے پر یا غلبہ تعصب سے غصہ کرنے لگتے ہیں۔ اپنی بات رٹے جاتے ہیں دوسروں کی سمجھنے کا قصد نہیں کرتے، باہم حدود نفسانیت کا زور اور ایک دوسرے کی برائی اور بدگوئی میں لگے رہتے ہیں۔

”اس کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ انگریزی کے فاضلوں میں یہ اخلاق بدرجہا زیادہ پائے جاتے ہیں ذرا خلاف مزاج بات ہو جائے، غصہ سے بیخود ہو جاتے ہیں، بات بات میں گبر و سخن پروری کا اظہار ہوتا ہے، تہذیب کی کمی کا یہ حال کہ جس کی طرف چاہا پشت کر لی، جس کی طرف چاہا پاؤں جوتوں سمیت پھیلا دیئے، بزرگوں کا ذرا ادب نہیں، ماں باپ تک سے مساوات، بلکہ تحقیر کا معاملہ اس سے زیادہ کیا بے حیائی ہوگی، کسی بڑے عہدہ کی طلب میں خواہ تنخواہ نہ ملے، محض جاہ کے لئے ان کی حدود نفسانیت، بلکہ تو تو میں میں دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔“

کالج اور یونیورسٹی تک کی نام نہاد علمی فضا اور ان کی کمیٹیوں وغیرہ کی بحث و گفتگو اور ان کے آپس کے تعلقات میں حدود نفسانیت کے جو مناظر چوتھائی صدی سے زیادہ راقم الحروف کے خود ذاتی تجربہ و مشاہدہ میں آتے رہے، اُن سے نام کا یہ مولوی بھی اکثر شرما جاتا تھا۔

”بس اتنا فرق ہے کہ اگر اہل علم میں ان اخلاق کا کوئی اثر ہو تو اس کا منشاء اکثر دین ہوتا ہے، اور ان اہل ترقی میں ان کا منشاء دنیا ہوتی ہے، مثلاً مولویوں کو دین کی بات پر غصہ آوے گا، اور ان حضرات کو دنیا کی بات پر، کیوں کہ دین کی خود وقعت ہی اُن کے دل میں نہیں، اس لئے اُن کو جوش بھی نہیں آتا، لہذا اپنے کو حلیم اور مولویوں کو تند خو قرار دیا ہے یہی حال اور اعتراضوں کا بھی ہے، یہ تو الزامی جواب تھا۔“

اور حقیقی جواب یہ ہے کہ بالکل غلط ہے، کہ علماء کو نفس سوال پر غصہ آتا ہے۔

غصہ اگر آتا ہے، تو اس پر کہ سوال ایک تو بطور استفادہ کے ہوتا ہے، اور وہ سوال بھی ضرورت کا ہو اس پر تو میں دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی شخص کسی عالم کا ایک جگہ بھی غصہ نہیں ثابت کر سکتا اور ایک سوال بطور تعنت یا تمسخر و مشغلہ یا محض اعتراض و الزام کے لئے ہوتا ہے چونکہ اس میں شریعت کی توہین ہوتی ہے تو جس کے دل میں شریعت کی عظمت ہوگی، وہ اس توہین کو کب گوارا کرے گا اسی طرح بعض اوقات سوال میں مخاطب کی اہانت ہوتی ہے، اس پر بھی ناگوار می طبعی امر ہے، جو مذموم نہیں، اسی طرح فضول یا اپنی فہم سے ماوراء سوال کیا اور سمجھانے سے سمجھ میں نہ آیا، تو بھی غصہ آ جانا طبع سلیم کا مقتضا ہے، جو بجائے خود ایک کمال ہے، چنانچہ سید الکھار والکھار حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بعضے لائینی سوالوں پر غصہ فرمانا کثیر حدیثوں میں وارد ہے، کیا اگر کوئی شخص عدالت کی توہین کرے، یا عدالت سے کچھ سوال کرے مثلاً امی اس بات ہے کہ درخواست پر ٹکٹ لگانے کی نسبت پوچھنے لگے کہ ایسا قانون کیوں مرتب کیا، یا اس فیس سے نصف فیس کیوں نہ مقرر ہوئی، تو کیا توہین عدالت کو جرم اور اس فضول سوال کو ناگوار اور اگر باز نہ آئے، تو موجب غصہ نہ کہا جائے گا، کیا اس غصہ کو اخلاقِ رذیلہ میں داخل کیا جائیگا۔

”کیا مطلق غضب و تشدد کا شمار اخلاقِ رذیلہ میں ہے، اگر کسی کی عقیفہ ماں کے متعلق کوئی براہ شرارت سوال کرے، کہ سنا آپ کی والدہ ایک زمانہ میں چمکے میں بیٹھا کرتی تھیں، تو کیا کوئی شخص ٹھنڈے دل سے اس کی تغلیط پر دلائل قائم کرے گا، یا اگر ایسا کیا تو شرفاً اس کو بے غیرت قرار نہ دیں گے، یا اگر وہ غضب و شدت سے کام لے تو عقلاء کے نزدیک غیور و باحیثیت نہ ہوگا؟

”یا اگر آپ کا سائیس درخواست کرے، کہ مجھ کو اقلیدس کی پانچویں شکل اس طرح سمجھا دیجئے کہ نہ اس میں اشکالِ سابقہ کا حوالہ ہو، نہ اصول موضوعہ و متعارفہ کا تو کیا آپ سمجھا نے بیٹھ جائیں گے، یا فرمائیں گے، کہ بھائی یہ تیری سمجھ سے باہر ہے، پھر بھی اگر وہ اصرار کرے، تو کیا آپ اس کو گدھا، اور اتو نہ کہنے لگیں گے، اور کیا ایسا کہنے سے کوئی یہ کہے گا، کہ آپ کو جواب نہیں آتا۔“

رہا تہذیب کا معاملہ اس کی نسبت کیسی دقیق و عمیق حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے کہ تہذیب کا معیار صرف مذہب صحیح ہو سکتا ہے، باقی آج کل

”تہذیب کا معیار جو یورپ کا رسم و رواج سمجھ لیا گیا ہے، تو خود اس معیار کے صحیح ہونے کی کیا دلیل ہے کیا اہل یورپ کی کوئی رسم تہذیب سے گری ہوئی نہیں، معیار دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، عقل سلیم یا مذہب صحیح، مگر سلیم ہونے کے لئے پھر بھی کسی معیار کی ضرورت ہوگی، کیونکہ عقلیں متفاوت ہیں، بس معیار ہونے کی صلاحیت صرف مذہب صحیح میں ہو سکتی ہے۔ جب تہذیب کا معیار مذہب صحیح اور دین الہی قرار دیا گیا، تو خلاف تہذیب کا مصداق خلاف دین ہوا، تو اب دیکھ لیجئے، کہ دین کے خلاف علماء میں زیادہ افعال پائے جاتے ہیں یا غیر علماء میں اس سے معلوم ہو جائے گا، کہ بے تہذیب کون کہلانے کا مستحق زیادہ ہے۔

ایک شبہ یہ ہے کہ مولویوں میں اکثر مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے، جس

پابھی اختلافات کا شبہ

سے لوگوں کو عمل کرنے میں سخت حیرت ہوتی ہے، کہ کس پر عمل کریں، جواب یہ ہے کہ کیا اطباء میں باہم تشخیص و تجویز میں اختلاف نہیں ہوتا، اور کیا کوئی شخص اپنے مرض کو بلا علاج ہی چھوڑ دیتا ہے، کہ اختلاف کی حالت میں کس کا علاج کریں، تو لاؤ سب ہی کو چھوڑ دیں، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون طبیب زیادہ تجربہ کار اور ماہر فن ہے اور کس کے ہاتھ سے مریض زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ آدمی جس امر کو ضروری سمجھتا ہے، اس میں ایسے اختلافات سنگ راہ نہیں ہوتے، پھر کیا ہر اختلاف ہر شخص کے لئے مذموم ہی ہے، اگر ایسا ہے تو چاہیے کہ عدالت میں جب کوئی مقدمہ پیش ہو تو عدالت بجائے اس کے کہ تنقیح و تحقیق کا بار اپنے ذمہ لے، محض اس بنا پر کہ یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف مطلقاً مذموم ہے، غریبین کو ہمیشہ سزا کر دیا کریں، کہ ایسے جرم اختلاف کے کیوں مرتکب ہوئے، یا اگر سزا نہ کرے تو کم از کم مقدمہ کو خارج ہی کر دیا جائے، اس سے صاف معلوم ہوا کہ اہل اختلاف میں سے ہر ایک کو الزام دینا اور دونوں کو محض اتفاق کا مشورہ دینا

عظیم غلطی ہے، بلکہ پہلے تحقیق کر کے معلوم کریں کہ کون حق پر اور کون باطل پر ہے، جو حق پر ہو، اس کی طرف ہو کر صاحب باطل کو مجبور کریں اور راستے دیں کہ تم کو اختلاف کرنا جائز نہیں۔

فتوے میں مصلحت ماننے کے لحاظ نہ کرنے کا اعتراض | ایک اعتراض یہ ہے کہ

علماء اپنے فتاویٰ میں مصلحتِ زمانہ کا لحاظ نہیں کرتے، وہی پرانے مسائل بتلاتے چلے جاتے ہیں، زمانہ بدل گیا اب علماء کو چاہیے، کہ سود وغیرہ معاملات کو درست قرار دیں، اس اعتراض کا باطل (بلکہ مہمل) ہونا ظاہر ہے، اس لئے کہ شریعت کے احکام اگر کسی بشر کے بنائے ہوئے ہوتے تو اس احتمال کی گنجائش تھی، کہ اس کی نظر آئندہ مصالح پر نہ تھی، لیکن جب احکام شرعیہ خدا تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہیں، جس سے قیامت تک کے مصالح کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی مخفی نہیں، تو یہ احتمال ہی کب ہے، کہ ان میں آئندہ کے مصالح کی رعایت نہیں، بلکہ جس مصلحت کی اس میں رعایت نہیں، وہ مصلحت ہی نہیں۔

رہے اجتہادی احکام تو اجتہاد بھی مجتہد یا علماء اپنے دل سے نہیں کرتے، وہ بھی کتاب و سنت ہی پر مبنی اور اس سے مستنبط ہوتے ہیں، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قیاس مثبت نہیں مظہر ہوتا ہے، یعنی وہ خود کسی بات کو اپنی طرف سے ثابت نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی کو ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر قیاس بھی کیسے مجتہدین کا جن کا علم و فہم، تقدیری و تدبیری ایسا غیر معمولی تھا کہ کم از کم ہمارے مقابلہ میں ان سے خطا و لغزش کا بہت کم احتمال ہے، پھر اس خطائے اجتہادی پر مواخذہ نہیں، بلکہ اجر ہے، اس لئے کہ اگر اجتہاد کے شرائط کسی میں موجود ہیں، اور اس نے ہر طرح تحقیق کا حق ادا کیا، تو مایوس ہوگا، اور اگر ازراہ بشریت اس حق کے ادا کرنے پر بھی خطا کی تو معذور ہے۔

گوشہ گیری کا اعتراض | ایک اعتراض مولویوں پر یہ ہے کہ یہ اپنے گھروں مسجدوں اور مدرسوں میں بیٹھے رہتے ہیں، قوم

کی تباہی پر رحم نہیں آتا، کہ گھروں سے نکل کر گمراہوں کی دستگیری کریں، لوگ

بگڑتے چلے جاتے ہیں، کوئی اسلام چھوڑ رہا ہے، کوئی احکام سے بے خبر ہے۔
تو ادلاً تو مختلف ذرائع سے اسلام و احکام کی اتنی اشاعت ہو چکی ہے، کہ
اب تبلیغ کے وجوب کا درجہ باقی نہیں رہا، جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا اور سمجھتا ہے، اگر
اس کو اپنے اسلام اور دین کی کچھ بھی قدر اور پروا ہو تو طرح طرح کی دہیات اور خرافات
کتاہیں اخبارات و رسائل وغیرہ تک پڑھنے سننے میں وقت صرف کرتا، اور لڑائی بھڑائی
میں دنیا بھر کی وہی تباہی خبریں معلوم کرنے میں لگا رہتا ہے، تو کیا دین کی کتابیں اور
رسالے نہیں پڑھ اور سن سکتا یا جاننے والوں سے نئے مسائل نہیں دریافت کر سکتا، اسی
طرح غیر قوموں نے کیا اسلام کا نام نہیں سنا، اور اگر مذہب کوئی اہم معاملہ ہے، تو کیا وہ
آسانی سے دو ایک رسالے پڑھ یا سن کر اتنا نہیں معلوم کر سکتے، کہ اسلام ہے کیا، اور وہ
اصولاً چاہتا اور کہتا کیا ہے۔

اس کے علاوہ مسجدوں اور مدرسوں میں جو مولوی پڑے ہیں، وہ بھی تو آخر کچھ نہ کچھ
اپنی بساط بھر دین کی خدمت کر رہے ہیں، تاہم تبلیغ اس میں شک نہیں، کہ دین کی بہت
بڑی، بلکہ سب سے بڑی اور اعلیٰ خدمت ہے، لیکن

"کیا اسلام کی یہ خدمت صرف علماء ہی کے ذمہ ہے، دنیا دار اور مالدار
مسلمانوں کے ذمہ نہیں، کیا وہ اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ علماء کو معاش سے فراغ نہیں
لہذا آپس میں سرمایہ جمع کر کے علماء کی ایک جماعت کو اس کام کے لئے مقرر
کر دیں، جس طرح مشنری لوگ بڑے بڑے مشاہیرے پارہے ہیں، جا بجا لکچر دیتے
اور رسائل تقسیم کرتے پھرتے ہیں،

"اور ہمارے معترضین کو علماء پر جو یہ اعتراض سوچھا وہ انہی مشنریوں کی
مساعی دیکھ کر ادھر یہ اس وقت عام عادت ہو گئی ہے، کہ اصل حقیقت میں
غور نہیں کرتے البس غیروں کے رسم و رواج کو اپنا رہنما اور معیارِ استحسان قرار
دے لیا ہے، حقیقت بینی سے قطع نظر یہ بھی نہ دیکھا کہ اپنے علماء پر ان کے علماء
کے برابر سنی نہ کرنے کا الزام دینے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں، کہ آیا ہمارے دنیا دار
ان کے دنیا داروں کے برابر اعانت مالی بھی کرتے ہیں یا نہیں۔"

حالانکہ بیچارے ہمارے بدنام "مولوی" اب بھی اتنے قانع اور قلیل المصارف ہیں کہ

مشنریوں سے بہت کم پر گزر کر سکتے ہیں، لیکن اپنے بال بچوں کے واجبات اور حقوقِ نفس کا ادا کرنا بھی تو شریعت ہی کا حکم ہے، اور مستحب تبلیغ کے مقابلے میں واجب بلکہ واجب تبلیغ پر بھی مقدم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قصور زیادہ کس کا ہے، دنیا داروں اور مالداروں کا یا مولویوں کا، غرض تبلیغ و اشاعت کا وجوب بھی علماء کے ساتھ خاص نہیں، سب مسلمانوں پر اپنی وسعت و اہلیت کے بقدر واجب ہے۔

تحریر و تقریر میں قصور کا شبہ | ایک شبہ عربی کے طالب علموں اور علماء پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ

تقریر و تحریر میں قاصر رہتے ہیں، تو یہ کئی حکم تو نہایت بے انصافی ہے، کیا علماء و طلباء میں بہت سے ایسے بچہ خوش تحریر و خوش تقریر نہیں پائے جاتے جن کا مقابلہ دوسری تعلیم کا بڑا سے بڑا فاضل بھی نہیں کر سکتا۔

”البتہ اتنی ضرورت اس زمانہ میں ضرور معلوم ہوتی ہے، کہ خوش تحریری و تقریری کی مشق کا اہتمام بھی مدارس میں بالالتزام کیا جائے، اور طلباء کا اختیاری امر نہ رہے، بلکہ سب کو اس امر پر مجبور کیا جائے۔“

خیال تھا کہ اس جدید ضرورت کا احساس پہلے پہل ندوہ کو ہوا لیکن جامع المجہدین کی نظر کسی جدید و قدیم ضرورت سے بھی کیسے محجوب رہ سکتی تھی، یہ اور بات ہے کہ قدیم درسگاہوں نے اس تجدید کے قبول کرنے میں تاخیر کی، اور ندوہ کی تعجیل قابلِ تحسین ہے، لیکن وہاں یہ امتحان اعتدال کی حد سے نکل کر غیر مستحسن حد کو پہنچ گیا ہے، یعنی ندوی اپنا اصلی کمال انشا پردازی اور انشانگاری ہی کو جاننے لگے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پیچھے درسیات میں استعداد کی بھی پروا نہیں کرتے، اور دورانِ طالب علمی میں عربی و درسی کتابوں سے زیادہ اردو کی انشا پردازانہ کتابوں کی طلب و مطالبہ میں لگ جاتے ہیں، ابھی آج راجون سلمہ، یہ سطور لکھ ہی چکا تھا کہ روزنامہ تنویر میں طلباء سے ندوہ کی جمعیتہ الاصلاح کا یہ کارنامہ چھپا اور پڑھا کہ ”علی و ادبی مجالس میں دلچسپی اور انشا پردازی اور تقاریر کی طرف اشتیاق زیادہ پایا جاتا ہے۔“

لے اس زمانہ میں اس کی مثال ہمارے فاضل اجل مولانا گیلانی رسید مناظر احسن سلمہ کی سامنے ہے کہ ساری عثمانیہ یونیورسٹی کے بڑے سے فضلاء جدید بھی تحریر و تقریر دونوں میں ان کا لوہا مانتے تھے۔

یہی نہیں آگے اور اصلی ندویت لیجئے کہ جن حضرات نے زیادہ دلچسپی لی اور ہمیشہ اپنی تقریروں سے جلسہ کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، انہیں کپ و مدل دے کر ہمت افزائی کی گئی۔ غریب طلباء سے زیادہ علمائے ندوہ اور منتظمین ندوہ کو سوچنا چاہیے کہ اغیار کی اس نقالی کے سوا ہمت افزائی کا کیا اور کوئی طریقہ نہیں اور اس نقالی کے مفاسد کہاں تک جاتے ہیں اور غیروں کی تقلید و اتباع کی اس سے کتنی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ ہمارے مشہور خوش تحریر و خوش تقریر غیر ندوی فاضل اجل مولانا گیلانی نے تو اسی بنا پر ندوہ کا نام ہی مدرسۃ الصفاختہ و الخطابتہ رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو فطری مناسبت نہیں وہ مجبور کرنے اور مشق کرنے سے بھی طوطے ہی بنے رہیں گے۔ اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ پہلے اندازہ کر لیا جائے اور جن کو مناسبت نہ ہو ان کو اپنا وقت خراب نہ کرنے دیا جائے، جیسا کہ حضرت نے ہدایت فرمائی ہے، کہ پھر بھی ایسے لوگ ثابت ہوں گے جن کو فطری طور پر تقریر و تحریر سے کم مناسبت ہوگی، سو ایسے لوگ اپنے عمل کے لئے علم حاصل کریں، دوسروں کے افادہ کے لئے اور بہت سے لوگ مل سکیں گے، یہ کیا فرض ہے کہ ہر کام ہر شخص کرے (ص ۱۱)

علماء کی وقت و عظمت کی حفاظت نہایت اہم ہے

عربی و دینی تعلیم کے طلباء و علماء کو طرح طرح کے معقول و نامعقول صحیح و غلط اعتراضات کا ہدف بنانا، خصوصاً نئے فیشن کے لوگوں میں جو ایک فیشن بن گیا ہے، اس کی طرف جامع المجددین علیہ الرحمہ نے جو اس قدر تبلیغ توجہ فرمائی اور راقم ہذا نے اس کے بیشتر حصہ کی تلخیص ضروری جانی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تبلیغ کی اصلاح و تجدید کے سلسلہ میں حضرت کی نگاہ تجدید میں دین کی حفاظت کے لئے علماء و فقہاء کی وقت و عظمت کی حفاظت اہم و اقدم ہے۔

اس لئے کہ سارے مسلمان سارے اسلامی علوم اور احکام و مسائل کے عالم و محقق نہ کبھی ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے، لازماً اگر کوئی خاص جماعت (ولتکن منکم الخ) کے تحت ہمیشہ اور ہر عہد میں نہ موجود رہے تو جمہور مسلمین کو ایمان اور عمل صالح کے مختلف ابواب اور شعبوں کے احکام آخر کون بتلائے، اور کس سے معلوم کریں یہی نہیں بلکہ اگر خدا نخواستہ علماء کی جماعت کسی عہد یا کسی نسل میں بالکلیہ ناپید ہو جائے، تو دین کا وجود ہی خطرہ میں پڑ جائے، خالی کتابوں اور کتب خانوں سے دین محفوظ نہیں رہ سکتا جب تک ان کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ

تواتر کے ساتھ نسل بعد نسل مستمر نہ رہے، خوب یاد رہنا چاہیے، کہ زبانی یا درسی تعلیم و تعلم کا تسلسل و تواتر ٹوٹ جانے سے خالی کتاب سے ہر چیز کا صحیح سمجھ لینا بھی ممکن نہیں۔ ایک عالم نفسیات خوب سمجھ سکتا ہے کہ کتابوں کی فہم کی استعداد بھی زبانی تفہیم کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے، شروع و حواشی بھی زبانی فہم و تفہیم سے مستغنی نہیں بنا سکتے کسی معمولی فن کو بھی جس نے اساذ سے نہیں پڑھا ہے، محض کتابوں سے بیسیوں مقامات پر ٹھوکر کھائے گا۔

غرض جب علماء کا وجود ایک طرف دین کی تعلیم و تبلیغ کے لئے اور دوسری طرف اس کے بقا و تحفظ کے لئے ناگزیر ہے، تو اگر امت کے اندر یہ جماعت خدا ناکردہ موجود نہ رہے، یا موجود ہو اور اس کی اتنی تحقیر و توہین جا بجا الزامات سے دلوں میں راسخ کر دی جائے کہ لوگ ان سے ہزار ہو کر استفادہ نہ کریں تو پھر علماً و تعلیماء اور بالآخر عملاً معاذ اللہ دین کے فنا ہو جانے کے سوا اور کیا نتیجہ ہوگا۔ گو جس دین کی حفاظت خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہو وہ فنا نہیں کیا جاسکتا، لیکن کیا اس سے ہم اپنے واجبات سے سبکدوش اور مواخذہ سے بری ہو جاسکتے ہیں۔ حضرت کی کتابوں اور مواظظ و ملفوظات وغیرہ سب میں کثرت سے اس پر تنبیہات موجود ہیں کہ ہر مسلمان کو کسی نہ عالم سے تعلق رکھنا، اور احکام دریافت کرتے رہنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر جیسے ہر شخص یا ہر خاندان کسی نہ کسی طبیب سے عادتاً تعلق رکھتا ہے، اور چھوٹی بڑی بیماریوں میں زیادہ تر اسی کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، کیا روحانی صحت جسمانی صحت کے برابر بھی لائق التفات نہیں، اگر قریب کوئی عالم نہیں ہے، تو حضرت کی تاکید ہے کہ دور ہی کے کسی عالم سے تعلق رکھے اور خط و کتابت سے احکام معلوم کرتا رہے، اسی طرح دینی مدارس قائم کرنے اور جو قائم ہیں ان کی حفاظت و ترقی کی تاکید جا بجا فرمائی ہے، کیونکہ ہماری گاڑی کے ڈرائیور یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ عربی درسگاہوں سے ان کی فراہمی منقطع ہو جائے تو امرا کے فرسٹ و سکنڈ متوسطین کے انٹر اور غریب و عوام کے فقراء سارے کے سارے ڈبے اپنی جگہ بے حرکت کھڑے رہ جائیں۔ ہر طبقہ کی دینی حیات و حرکت ان مدرسوں سے لکے ہوئے بُرے بھلے علماء یا مولویوں ہی کے دم سے قائم ہے، اور جس قدر امت کے مختلف طبقات اپنی اپنی اہلیت و حیثیت کے مطابق ہماری دینی گاڑی کے ان ڈرائیوروں یا چیلانے والوں کی بہتر سے بہتر تعلیم و تربیت، خدمت و اعانت کا بندوبست کریں گے، اسی قدر ہماری دینی حرکت و حیات، جاندار پائدار ہوگی، اور اسی نسبت سے انشاء اللہ دنیا بھی درست ہوگی۔

علم دین کے حقوق طلباء و علمائے دین پر

عامہ مسلمین کے ذمہ ہیں، آگے باب دوم میں ایسے حقوق علم میں کوتاہیوں اور ان کی اصلاح کو بیان فرمایا گیا ہے جو خود علم دین کے طلباء و علمائے دین پر ہیں۔

”بعض طلباء یہ خیال کرتے ہیں کہ ابھی تو ہمارا تحصیل علم کا زمانہ ہے، اس میں عمل کی چنناں ضرورت نہیں، یہ سراسر شیطانی دھوکا ہے، نصوص نے وجوب احکام میں طلباء و علمائے دین میں کہیں فرق نہیں کیا، البتہ اعمال زائدہ جیسے طویل اور اعلیٰ مجاہدات و ریاضات کہ ان میں مشغول ہونے سے طالب علم کے لئے مطالعہ اور تکرار سبق افضل ہے۔“

بعض نام نہاد علماء علوم دین کو دنیا طلبی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، خواہ طلب جاہ ہو، یا طلب مال، لیکن ان پر سب کو نہ قیاس کرنا چاہیے، کیا کوئی انارسی عطائی آدمی خلاف اصول طب کسی کا علاج کرے یا کسی کو دھوکا دے کر ٹھگ لے، تو اس سے ملک کے تمام ماہرین اطباء کے کمال کی نفی جائز ہوگی، بہر حال۔

”بعض ایسا کرتے ہیں کہ وعظ کو پیشہ بنا لیتے ہیں۔ اور اسی غرض سے وعظ کرتے پھرتے ہیں، کہ کچھ وصول ہو، اور اس قسم کی وعیدوں کو بھلا دیتے ہیں، کہ مثلاً رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يَتَّبِعُ	جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی
بِهِ فَاجَبَهُ اللَّهُ لَا يَتَعَلَّمُ	کے سوا علم کو دنیا کی کسی غرض سے سیکھا
إِلَّا يَصِيبُ بِهَا عَرْصًا مِنْ	اس کو قیامت میں جنت کی بو بھی
الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	نہیب نہ ہوگی۔

علم دین کے دینی و دنیوی استعمال میں فرق

لِنَفَقَتِ الزَّيْتِ أَحْصَرُ کے تحت وعظ کی نوکری کا جائز ہونا معلوم ہو چکا، اسی طرح اگر اشاعت احکام محض حبسہ لٹ ہو، اور لوگ کچھ خدمت کر دیں جس کی قلب میں طمع نہ ہو (گو احتمال دوسرے ہو)، تو وہ جائز ہے اور اس کا امتحان یہ

ہے کہ وعظ کے لئے یہ شخص کن مقامات کو منتخب کرتا ہے، ان کو جہاں روپیہ ملنے کی زیادہ اُمید ہے، یا ان کو جہاں تبلیغ احکام کی زیادہ ضرورت ہے، یہی امتحان علوم دینیہ کی تدریس کی نوکری کہے، کہ اگر تنخواہ پر نظر نہ ہوگی، تو جس صورت میں ایک جگہ پر گذر ہو رہا ہوگا، اور وہاں علوم دینیہ کی ضرورت بھی زیادہ ہو، تو ایسی جگہ کو چھوڑ کر ترقی پر نہ جائے گا، اور نہ خود کوشش کر کے ایسی جگہ جانا چاہے گا۔ اور فقہانے جو تعلیم علوم دینیہ اور وعظ پر اجرت کی اجازت دی ہے اس سے مراد یہی صورت ہے ورنہ حنفیہ رحمہم اللہ طاعات مقصودہ پر اجرت کو بوجہ نہی کے کسی طرح جائز نہیں لکھتے۔

بعض علماء امر اہل اموال سے اختلاط

اسی غرض سے رکھتے ہیں کہ ان سے وقتاً

علماء کا امر سے اختلاط

فوقاً کچھ حاصل ہوتا ہے، اس میں گاہے یہاں تک نوبت آتی ہے کہ ان کی غرض سے مسئلہ بتا دیتے یا بنا لیتے ہیں، جس سے سردست تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن بہت جلد ہی ایسے علماء ان کی نظر سے گر جاتے ہیں اور پھر وہ ان پر تمام علماء کو قیاس کر کے جماعت کی جماعت سے نفور ہو جاتے ہیں۔

”باقی اگر اس اختلاط سے امراء کی اصلاح ہو کہ ان کو احکام دینیہ بتلائے جائیں، خصوصاً جب کہ وہ خود خواہش کریں، اور ان کو حاضر ہونے کی مہلت نہ ہو تو ایسا اختلاط نہ مضر ہے، نہ موجب مذلت، مگر جب قرائن یا شرائط سے یہ معلوم ہو کہ آزادی کے ساتھ حق ظاہر کیا جاسکے گا، اور ایسی حالت میں اگر وہ کچھ خدمت کریں تو لینے میں کچھ مضائقہ نہیں، مگر احقر کا مشورہ یہی ہے، کہ ہرگز قبول نہ کرے، بلکہ جانے کے قبل شرط کر لے، کہ لینے دینے کا کچھ قصہ نہ ہوگا جس کا اثر فطری طور پر بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں امراء کا حوصلہ نہیں پڑتا، کہ علماء کو اپنا تابع بنانے کا وسوسہ بھی دل میں لائیں، بلکہ ہر طرح انہی کو تابع ہونا پڑتا ہے، اور یہی امر مہتمم بالشان ہے اور اگر خود امراء آئیں تو یہ اختلاط منع نہیں عین مطلوب ہے ان سے بے رخی نہ کرے اخلاق سے پیش آئے مگر استغناء کو اب بھی ہاتھ سے نہ دے۔“

بعض علماء کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری غنی

بنایا ہے، ان کو کسی کے ہاتھ کی طرف دیکھنے

حیلہ شرعی کو حیلہ بنانا

کی ثبوت نہیں آتی، لیکن اپنے مالی معاملات میں ایسا کرتے ہیں کہ اگر شریعت پر عمل کرنے سے کوئی ان کی مالی منفعت ضائع ہو رہی ہو تو ضعیف تاویلوں اور غیر مشروع حیلوں سے رگو نام اُن کا حیلہ شرعی رکھتے ہیں، کام لیتے ہیں یہاں تک کہ عام لوگوں کے زبان زد ہو گیا ہے، کہ مولوی اپنے مطلب کا مسئلہ جس طرح چاہتے ہیں بنا لیتے ہیں۔ میرے نزدیک اگر گناہ کر کے اپنے کو گنہگار سمجھے اور گناہ گار ہونے کا اقرار کرے تو اتنا مفسدہ نہیں جتنا گناہ کو کھینچ تان کر جائز بنانے میں مفسدہ ہے، اس سے عام لوگ گمراہ ہوتے علماء سے بد اعتقاد ہوتے اور پھر اپنے معاملات میں تاویلیں اور حیلے پوچھتے ہیں اور اگر کوئی نہیں بتاتا تو قیاس فاسد سے خود ہی اپنی من سمجھوتی کر لیتے ہیں۔

مضرت عوام کی حفاظت

”علماء کی شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بلا تاویل بھی جائز ہو مگر کسی

وجہ سے اس کے ارتکاب میں عوام کی دینی مضرت ہو تو اپنا ضرر بقدر تحمل گوارا کر لیں لیکن عوام کا دین بچائیں نہ کہ اُن کے لئے فتنہ کا دروازہ کھول دیں، لیکن اس سے تصحیح معاملات کی ان وجوہ پر رگو اُن کو بھی بعض کتابوں میں حیلہ سے تعبیر کیا گیا ہے، کوئی شبہ نہ کرے جن میں بلا کسی نفسانی غرض کے عام مسلمانوں کو تنگی سے نکالنے اور محاصی سے بچانے کے لئے اذن دیا گیا ہے جیسا کہ خود حدیث میں ہے کہ **بِجَمْعٍ بِالْمَدْرَاهِمِ ثُمَّ اتَّبَعَ بِالْمَدْرَاهِمِ السُّنَّ** وغیرہ ہے، فرق دونوں میں یہ ہے کہ جس سے مقصود کسی شرعی مقصود کا ابطال ہو وہ مذموم ہے اور جس سے مقصود کسی مقصود بشرعی کا حاصل کرنا ہو وہ محمود ہے، مثلاً بوا مقصود نہ ہو بلکہ خود اجناس ہی قیمت میں متفاوت ہوں لیکن اتحاد بدلیں کے سبب تفاضل ممنوع ہو وہاں حدیث مذکور کے موافق تصحیح کر لینا جائز و مشروع ہے۔

علماء کی جاہ طلبی

یہ تو بصورت مال دنیا طلبی تھی بصورت جاہ دنیا طلبی کی چند صورتیں ملاحظہ ہوں۔

بعض علماء اس لئے امرا سے ملتے ہیں کہ لوگوں میں عزت و وقعت بڑھے گی حالانکہ عام مسلمان اس کو اہل علم کے لئے غیب سمجھتے ہیں، واقع میں بھی علماء کی

عزت و شان کے لئے یہی مناسب ہے کہ دین کی خدمت کریں امراء سے مستغنی رہیں، غربا کے ساتھ خوش خلقتی کریں، اور امراء کی نظریں تو اس سے اچھی خاصی ذلت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ خوشامد کے لئے ملتے ہیں اور ایک اثر امراء و غربا دونوں پر ایسا ہوتا ہے، کہ تحقیق دین اور فتویٰ کے باب میں اعتبار اٹھ جاتا ہے ان کے دعوئے فتویٰ اور تقریر پر وثوق نہیں رہتا خیال ہوتا ہے، کہ شاید دنیا داروں کی خوشامد میں ایسا کرتے ہیں۔

لیکن ایک اثر جو خود علماء پر امراء کی صحبت کا پڑتا ہے، وہ تو اتنا خطرناک ہے، کہ بالآخر ان کے دین ہی کو لے ڈوبتا ہے، یعنی امراء کے منکرات پر روک ٹوک ان کے لئے دشوار ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر تو ان سے لطف صحبت ہی باقی رہنا مشکل ہوگا، جانبین کو انقباض ہوگا اور چونکہ امراء کو بالعموم مطلوب بنا کر ملا جاتا ہے، ان کی خلاف شرع حرکتوں پر سکوت کرنا پڑتا ہے۔

جس سے علماء کے اندر مدہانت کی کیفیت پیدا ہوتی اور صحبت کی ترقی سے اس میں ترقی ہوتی ہے، حتیٰ کہ قلب سے اس کا اثر زبان پر آتا ہے، یعنی پہلے قلب میں حق کی عظمت اور باطل سے نفرت کم ہو جاتی ہے، پھر زبان سے اظہار حق کی ہمت گھٹتی ہے، پھر باطل کا اظہار خفیف معلوم ہونے لگتا ہے، پھر اس کا صدور ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ ان امراء کو اس کا احساس ہو کر اتنا حوصلہ ہو جاتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشوں کے موافق ان علماء سے توجیہات کی فرمائش کرنے لگتے ہیں، اور یہ ان کو پورا کرنے لگتے ہیں۔

اس مقام پر پہنچ کر ان کا قلب مسخ ہو جاتا ہے، اور حق بینی کی استعداد ہی ضائع ہو جاتی ہے، بلکہ اٹھے کبھی کبھی اہل حق سے جدال و عناد پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔

”پھر خود ان کی اصلاح کی کوئی توقع نہیں رہتی، اور امت محمدیہ کے لئے العیاذ باللہ! ابلیس سے زیادہ ضرر رساں ہو جاتے ہیں، کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر شیطان فارغ ہو بیٹھے، تو بھی بعید نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ہی طالب دنیا کو دیکھا ہے، کہ ایک ہزار روپیہ لے کر اور ایک ترکیب تراش کر حقیقی ساس کے ساتھ حلت نکاح کا فتویٰ لکھ دیا، حدیث میں اسی طرح کے مسخ قلب کا

ذکر ہے کہ لما وقعت بنو اسرائیل فی المعاصی لخصتهم علماء
 هم فلم ینتھوا فجالسواهم و آكلوهم و شاربواهم و ضرب
 اللہ قلوب بعضہم ببعض و لعنہم علی لسان داؤد و عیسیٰ بن
 مریم ذالک بما عصوا و کانوا یجتدوین لیکن یہ سب خرابیاں اسی وقت ہیں
 جب امراء کو مطلوب بنا کر جاویں اسی کی مذمت احادیث صحیحہ میں ہے کہ

الغرض القرائی اللہ الذین
 یزورون الامراء و العلماء اھماء
 الذین مالہم من الخلق الامر فاذا خالطوا
 الامراء فھم نصوص الدین۔
 اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض وہ
 علماء ہیں جو امراء سے ملتے ہیں اور علماء
 دین کے محافظ ہیں جب تک امراء سے
 میل جول نہ رکھیں ورنہ دین کے ڈاکو ہیں۔

امراء سے اختلاط و اجتناب کے شرائط

کسی ضرورت سے خود علماء کو مدعو کریں، تو اس معاہدہ کے بعد کہ ہم آزادی سے
 جو چاہیں گے کہیں گے، اور نذرانہ وغیرہ قبول نہ کریں گے، تو ایسی مخالفت
 محافظت دین ہے، کیونکہ اگر علماء اس طرح بھی ان سے نہ ملیں، تو ان کو دین کیونکر
 پہنچے گا، مگر اس طرح کا اختلاط فرض عین نہیں، کہ سب پر ضروری ہو، فرض کفایہ
 ہے، اور اس کے لئے ایسا شخص موزوں ہے، جو قوی القلب اور غنی النفس ہو
 ورنہ ضعیف کے لئے سلامتی اسی میں ہے کہ امراء سے بالکل نہ ملے، تبلیغ کے لئے
 دوسرے لوگ یا رسائل اور کتابیں کافی ہیں۔

سبحان اللہ کیا فہم دین ہے، مگر حدود سے تجاوز پر یہاں بھی متنبہ فرمایا جو حضرت
 جامع المجہدین کی تجدید کی خاص و نمایاں خصوصیت ہے کہ

امراء سے اجتناب کرنے میں ان کو حقیر اور اپنے کو مقدس نہ سمجھے، بلکہ ان کو
 مبتلائے دنیا و جہل سمجھ کر رحم و دعا کرے، اور اپنے کو ضعف دین کا مریض جان
 کر اجتناب کو ایسا سمجھے جیسا کمزور طبیعت والے کو جس میں تاثر کا مادہ زیادہ
 ہو، متعدی مرض کے مریض سے بچاتے ہیں، اور ساتھ ہی اس متعدی مرض کے
 مبتلا پر غصہ بھی نہیں کرتے، بلکہ رحم کھاتے ہیں۔

سبحان اللہ کیسی عجیب و غریب حدود و شناسی اور پھر کیسی حکیمانہ ان کی تفہیم ہے! ساتھ ہی پھر تنبیہ ہے کہ اس 'عدم غصہ اور عدم بغض کی بھی ایک حد ہے' کیونکہ اگر کوئی شخص حق سے عناد اور اہل حق سے بغض رکھے یا تکبر کرے، تو اس سے بغض کرنا واجب و عبادت ہے 'اور بغض فی اللہ ہی ہے'

آگے جاہ طلبی کی ایک اور دقیق تدبیر کا بیان ہے کہ

جاہ طلبی کی ایک دقیق تدبیر | لیفے دنیا داروں کو دھتکار دیتے ہیں 'سخت سست کہتے ہیں' حتیٰ کہ

لیفے پہرا بٹھا دیتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ متکبر امراء کا پورا علاج ہیں جن سے امراء کو ان کے تکبر کی سزا ملتی ہے، لیکن یہ تکوینی علاج ہے تشریحی نہیں، اور ایسا برتاؤ یا اخلاق شرع کے بالکل خلاف ہے، پھر لیفے ایسے بتی ہیں کہ ان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس طریقہ سے امراء میں شہرت ہوتی ہے، لوگ بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، لہذا ایسے لوگوں کو بہ نسبت متکبر کے ریاکار اور جاہ طلب، کہنا زیادہ زیبا ہے۔

یہ تو وہ لوگ تھے جن کے اس طرز عمل کی غایت ہی جاہ تھی، بعضوں کے ہاں جاہ غایت و سبب نہیں، بلکہ مستبب ہوتی ہے۔

اور وہ لوگ واقع میں اپنے کو مقدس اور دوسروں کو گناہ گار سمجھتے اس لئے ان سے نفرت کرتے ہیں، ایسوں کو بہ نسبت ریاکار کے متکبر کہنا زیادہ بجا ہے، اور یہ تکبر دنیا داروں کے تکبر سے بھی زیادہ قبیح و شنیع ہے، کیونکہ ان لوگوں کو بہ نسبت دنیا داروں کے علم زیادہ ہے، اور علم کے ساتھ بد عملی عند اللہ زیادہ بغض ہے، ان لوگوں کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اعتبار خاتمہ کا ہے، لہذا ان کو کیا معلوم کہ جس کو یہ گناہ گار جان رہے ہیں، اس کا خاتمہ کیا ہوگا، اور خود اپنے کو جو مقدس یقین کر رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیا ہوگا،

ع۔ تیار کرنا خواہد و میلش بہ کہ باشد

مناظرہ و مجادلہ کی حقیقت | بعض لوگ بلا ضرورت بات بات میں مجادلہ و مناظرہ کرتے، اور دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں

جس سے اکثروں کی غرض اپنی علیت کا سکّہ بٹھانا یا علمی جاہ طلبی ہوتی ہے جس کا بعض اوقات یہاں تک اثر ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی باطل پر اصرار کئے جاتے ہیں کہ بات ہیٹی نہ ہو جائے، میں نے ایک ایسے ہی کا فتویٰ ایک قطعی رضاعی رشتہ میں نکاح کا دیکھا کہ ابتدا میں تو ان سے غلطی ہو گئی، مگر پھر بات کی بیچ پر گئی اور باوجود سارے علماء کی مخالفت اور تحریراً و تقریراً تنبیہ کرنے کے ہرگز رجوع نہ کیا حتیٰ کہ بعض ثقہ لوگوں سے سنا گیا کہ خود اپنے ایک بزرگ سے کہا کہ اب کیا کروں، قلم سے نکل گیا اب تو تائید ہی کرنا ضروری ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مَاضِلٌ قَوْمٌ بَعْدَ هَدًی ۖ كَانُوا عَلَیْهِمَ إِلَّا اتَّوَلَّجِدِلَ ثُمَّ فَتَوَعْ هَذَا لَا إِلَیْهِ مَا ضَرَبَ لَكَ الْأَجْدَلُ لَا بَلْ هُمْ خَصْمُونَ۔

جدل سے یہاں مراد عناد اور اپنے مذہب کی ترویج کے لئے تعصب ہے۔

اور بعض آیات و روایات میں مجادلہ و محاجہ کا جو امر و اذن ثابت ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ ہر مجادلہ ہر حال میں مذموم ہے، البتہ ہمارے زمانہ میں زیادہ تر ایسے ہی مجادلہ کا کارواج ہے جو مذموم ہے، یا جس کا ترک محمود ہے، اور جس کی نہایت آیات و احادیث اور بزرگوں کے کلام میں موجود ہے، اس کی تفصیل ذرا آج کل کے مناظرہ پسندوں کے لئے کان کھول کر سننے کی ہے

ظنی و قطعی مسائل کے حکم کا بڑا اہم فرق

مسائل دو قسم کے ہیں
ایک جن کی ایک شق

یقیناً حق اور دوسری باطل ہے، خواہ سمجھا خواہ عقلاً یہ مسائل قطعیہ کہلاتے ہیں دوسری قسم جس میں دونوں جانب حق و ثواب کا احتمال ہو یہ مسائل ظنیہ کہلاتے ہیں مسائل کلامیہ اکثر قسم اول سے ہیں اور بعض ثانی سے اور مسائل فقہیہ اکثر قسم ثانی سے ہیں اور بعض اول سے۔

”مسائل ظنیہ میں صرف ظنی ترجیح ثابت کرنے کے لئے اہل علم میں باہم گفتگو و مکالمہ جائز ہے بشرطیکہ نہ بغض و عناد ہو نہ ایک جانب کی قطعیت کا اعتقاد ہو نہ دوسری جانب کے قطعی باطل ہونے کا یقین حازم نیز جب سمجھ میں آجائے، تو اپنی رائے سے رجوع اور حق کے قبول کا عزم ہو۔

”مگر مصلحت اس میں بھی یہ ہے کہ عوام تک اس کی اطلاع نہ ہو، اگر زبانی گفتگو

ہو مجمع خواص کا ہو اور اگر تحریری ہو تو عام فہم زبان مثلاً ہندوستان میں اردو میں نہ ہو عربی میں ہو یا کم از کم فارسی میں تاکہ اگر کسی وقت وہ شائع ہو جائیں تو عوام تک اس اختلاف کا اثر نہ پہنچے اور سلف سے اسی طرح کی گفتگو منقول ہے نہ کہ جیسی آج کل ہوتی ہے کہ ایک قرآنہ خلف الامام کا حق ہونا اس طرح بتلا رہا ہے کہ اس کے نزدیک تمام حنفیہ تارک صلوٰۃ اور فاسق ہیں اور دوسرا اس کی اس طرح نفی کر رہا ہے کہ گویا اس کے نزدیک قرآنہ خلف الامام کی کوئی حدیث ہی نہیں اور عین مناظرہ میں اگر مقابل کا قول دل کو لگ بھی جائے تب بھی ہرگز قبول نہ کریں بلکہ گفتگو شروع کرتے ہی رد ہی کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں اور اسی نیت سے سنتے ہیں کیونکہ مقصود تمام تر اپنا غلبہ اور دوسرے کو ساکت کرنا ہوتا ہے پھر باہمی عناد و فساد حتیٰ کہ نوبت عدالت تک پہنچتی ہے کیا یہ دین ہے کیا سلف صالح اور حضرات صحابہؓ کا ان مسائل میں یہی طریقہ تھا۔

افسوس اگر آج مسلمان ان ظنی مسائل میں اختلاف و گفتگو کو اپنے حدود میں رکھتے اور مجدد وقت کی حدود شناسی کو مشعل راہ بناتے تو کتنے اور کیسے کیسے مہیب و مہلک مقاصد کا سد باب ہو جاتا پھر ہمارے آج کل کے سیاسی و ملکی مسائل تو ان فقہی مسائل سے بھی زیادہ ظنی ہیں ان میں ایک دوسرے پر لحن طعن سب و شتم تکفیر و تفسیق اور وہ بھی کسی خاص مجمع اور خاص زبان میں نہیں بلکہ عوام الناس کے بھرے جلسوں اور ہر اردو اخبار کے کھلے کالموں میں۔ سیاسی و ملکی ہی کیا اور عوام یا انگریزی دانوں ہی پر کیا موقوف بعض مستند اور بہت سے غیر مستند مدعیان علم دین فقہی ظنی مسائل تک کو رسائل و اخبارات کے میدان میں عوام الناس کے سامنے ڈال دینا عین خدمت دین جانتے ہیں۔

بین تفاوت رہ از کجا است تا بجا

کاش اسلام کے یہ نادان دوست مجدد وقت کی ان باتوں پر کان دھرتے تو آج مسلمان ان دینی و دنیوی ہلاکتوں اور ذلتوں سے کیوں دوچار ہوتے! حضرت جامع المجددین کی اصلاحات و تجدیدات پر معاملہ میں ایسی جامع ہیں کہ بے ساختہ دل گرا ہی دیتا ہے کہ اگر ان کا اتباع ہو تو دین و دنیا کی صلاح و اصلاح سب کا نقشہ سلف خدا چاہتا پھر سامنے آجائے۔

مسائل قطعیہ میں اختلاف کی مختلف حالتوں کا حکم اب رہ گئے مسائل

تطہیہ جیسے کفر و اسلام کا اختلاف یا اہل حق کے نزدیک جو متفق علیہ بدعت و سنت ہے، اس کا اختلاف تو اس میں چند حالتیں ہیں ایک یہ کہ صاحب باطل متردود طالب حق ہے، اور اپنے شبہات صاف کرنا چاہتا ہے، اور اس غرض سے گفتگو یا مناظرہ کرتا ہے، تو جو شخص حق کی تائید پر قادر ہو، اس پر ایسا مناظرہ واجب و فرض ہے، اور جب جواب سے عجز ہو تو صاف کہہ دینا چاہیے کہ اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آتا، سوچ کر یا پوچھ کر بتلاؤں گا، یا اپنے سے زیادہ جاننے والے کا پتہ بتلا دے، اور طالب کو چلیے، کہ وہاں جا کر رجوع کرے، ایسے مناظرہ سے انکار معصیت اور مَن سُنَّیْل من علم و کتَمْتَدْر الخ میں شامل ہے۔

(۲) دوسری حالت یہ ہے کہ مخاطب طالب حق نہیں، لیکن متکلم مناظرہ کو توقع و احتمال ہے کہ شاید حق کو قبول کر لے، سو جب تک اُس کی اُمید ہو۔ مناظرہ کرنا تبلیغ احکام میں داخل ہے، کہ جہاں تبلیغ واجب ہے، وہاں یہ مناظرہ واجب اور جہاں مستحب ہے، وہاں مستحب ہے، جناب سرور عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اہل کتاب و خوارج سے مناظرات اسی قبیل کے تھے

(۳) اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ طالب بھی نہیں، نہ قبول کی امید ہے، مگر کسی مفسد و مضرت کا بھی اندیشہ نہیں، اور کسی ضروری امر میں خلل کا بھی احتمال نہیں، تو ایسی صورت میں ایسا مناظرہ مستحب ہے۔

(۴) چوتھی حالت یہ ہے کہ طالب سے نہ امید قبول نہ کسی ضروری امر میں خلل نہ کسی مضرت کا اندیشہ ہے، تو اس میں قوی ہمت کے لئے عزیمت واولیٰ ہے، اور ضعیف ہمت والے کے لئے رخصت و غیر اولیٰ۔

(۵) پانچویں حالت یہ کہ نہ طالب سے توقع قبول اور ساتھ ہی کسی دینی مضرت کا احتمال یا کسی اہم دینی منفعت کے فوت ہونے کا احتمال ہے، اس صورت میں اس سے اعراض اور ضروری میں اشتغال واجب ہے، قرآن مجید میں اعراض اور ترک جدال کا امر ایسے ہی موقع پر ہے، سورہ عبس کی شان نزول کا جو قصہ تھا، جناب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے اجتہاد سے اس کو تیسری حالت میں داخل سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پانچویں حالت میں داخل بتلایا۔

۱۶، چھٹی حالت یہ ہے کہ مناظرہ کرنے میں تو مخاطب کی نہ کوئی منفعت متوقع ہے اور نہ اس سے کسی خاص مضرت کا احتمال ہو اور مناظرہ نہ کرنے میں عوام اہل حق کے شبہ میں پڑ جانے کا خوف ہو اور مسئلہ ایسا ہو کہ عوام اہل حق کو اس کے غلط ہونے کا احتمال بھی نہ ہو تاکہ علمائے اہل حق سے دریافت کر سکیں، تو اس صورت میں اس کی تدبیر واجب ہے جو دو ہیں۔

”ایک یہ کہ خود اہل باطل کو مکالمہ یا مرکاتبہ میں مخاطب بنایا جائے، دوسری یہ کہ اس سے خطاب نہ کیا جائے، بلکہ عام خطاب سے حق کو ثابت اور باطل کو رد کیا جائے، ان میں جس تدبیر کو اختیار کیا جائے واجب ادا ہو جائے گا۔

۱۷، ساتویں حالت یہ ہے کہ قیود مذکورہ حالت ششم کے ساتھ وہ مسئلہ بھی ایسا ہو کہ عوام اہل حق کو اس کے غلط ہونے کا شبہہ واقع ہو سکتا ہو اس صورت میں خود ان عوام پر واجب ہے کہ علمائے تحقیق کریں اور علماء پر جواب دینا واجب ہوگا، ورنہ بدون سوال وہ سبکدوش ہوں گے

”اور ان تمام صورتوں میں یہ واجب ہے کہ الفاظ و مضمون متانت و تہذیب کے خلاف نہ ہوں، اور اگر دوسرا درشتی کرے تو بھی صبر افضل ہے

ممنوع و مذموم بحث و مباحثہ | یہ ساری تفصیل و تقسیم ان امور میں ہے کہ جو شرعاً

مقصود ہوں بعض وہ امور ہیں جو شرعاً مہتمم بالشان نہیں جیسے خاندان چشتیہ وغیرہ کا باہم تفاضل یا بعض وہ امور جن میں بحث کرنے یا حکم لگانے کے شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے جیسے تقدیر کا یا کوئی دوسرا ایسا ہی مسئلہ مثلاً باوجود اس کے کہ کسی کا کلام صحیح معنی کو محتمل ہو پھر بھی اس پر کفر کا حکم لگانا، ایسے امور میں بحث و مباحثہ کرنا ممنوع و مذموم ہے جس مرتبہ کی نہی یا منہی عنہ ہوگا، اسی مرتبہ کی ممانعت و مذمت ہوگی۔

”اس سے معلوم ہوا کہ نہ ہر مناظرہ محمود ہے نہ مذموم نیز تمام وہ نصوص و اقوال اور عادات آئمہ دین جو بظاہر اس باب میں متعارض نظر آتے ہیں، ان میں تطبیق ہوگئی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس زمانہ میں زیادہ ایسے ہی

مناظرے شائع ہیں جو مذموم ہیں۔

مسٹروں کے ملکی و سیاسی مناظروں نے مولویوں اور کے دینی و مذہبی مناظروں کو مات کر دیا

البتہ مولویوں اور
مذہب کے میدان
یا تحریری مناظرات
کی جگہ جن میں پھر

بھی دین سے ایک لگاؤ تھا اب حکومت و سیاست اور "مسٹروں" کے پنڈالی یا اخباری مناظرات نے حاصل کر لی ہے، جن کو تحقیق حق و قبول حق سے اتنا بھی تعلق نہیں جتنا دینی مناظروں کے معمولی سے معمولی فریقین کو ہوتا تھا۔

بس ہر جماعت اس کے ہر لیڈر و اڈیٹر اور ہر جلسہ و جلوس کا فرض یہ ہے کہ اپنی ہی بات جہاں تک ہو سکے، اتنے غل و ہنگامہ کے ساتھ کہے جائے کہ دوسرے کی نہ خود سننے نہ کسی کو سننے دے، اور اس فرض کی ادائی میں بغض و عناد، دروغ و بہتان، مکرو فریب، لعن و طعن یہ سب فریقین کے لئے عین سیاست اور عین تہذیب ہے، کیونکہ یہ سب پروگنڈا ہے۔ یہی نہیں، بلکہ ہر درجہ کا طوفان بے تمیزی فتنہ و فساد، ملک و قوم کی عین خدمت، بلکہ درجہ جہاد ہے۔ فریق مخالف کے جلسوں اور جلوسوں میں فتنہ برپا کر دینا، مقرر کو تقریر نہ کرنے دینا، مشرم کے نعروں سے آسمان سر پر اٹھا لینا، حب ضرورت سوڈے کی بوتلوں اور انڈوں کی مار سے تواضع کرنا، اس سے بھی کام نہ چلے، تو اینٹیں اور پتھر ہیں، اور پھر یہ فتنہ و فساد کوئی اتفاقی نہیں، بلکہ ہر جلسہ و جلوس میں اس کا احتمال اس لئے پہلے سے جلسہ و جلوس کی اجازت اور پھر موقع کے لحاظ سے پولیس یا فوج کی نگرانی لازم ہے۔ اور جو خوش قسمت اس قومی و سیاسی جہاد میں پولیس کے ڈنڈوں اور فوج کی گولیوں کے لئے سینہ پیش کر کے کام آ سکے، اس کے مجاہد و شہید ہونے میں کیا شک! جلسوں اور جلوسوں ہی کی قید نہیں، یوں بھی فریقین میں جو

لے ایک مناظرہ ہی کی بحث میں حضرت مجددی ان تجدیدی تنقیحات و تفصیلات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ کس طرح ہر مسئلہ کے تمام جزئی پہلو آئینہ فرما دیے جاتے ہیں اور بظاہر متفاد سے متفاد جزئیات کی چوئیں کس طرح اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتی ہیں، اور ہر شے اپنی حد میں رہتی ہے، رع
ایں سعادوت بزور بازو نیست

دہشت انگیزی اور کشت و خون میں بازی لے جاسکے، مثلاً فلسطین کے یہودی، تو بس وہی برسر حق ہے، اس کے علاوہ نہ امریکہ کے ٹرمین کے پاس "ٹرویائی حق کا کوئی معیار ہے" اور نہ برطانیہ کے پاس انصاف یا اپنے وعدوں کی شرم، بھلا حق و باطل کے پرانے مولویانہ مناظرہ کے فریقین کے پاس احقاق حق و ابطال باطل کے لئے ایسی دہشت انگیزی کی منطق اور دلائل کہاں موجود تھے، جن کا مقابلہ بڑی بڑی حکومتوں کو اپنی فوجوں سے کرنا پڑا۔

مسلمانوں کی حیثیت سیاسی مباحثوں اور مناظروں میں کبھی
کاش مسلمان
اب بھی آنکھیں
کھولتے کہ
انہوں نے

حضرت مجتہد کے تجدید فرمودہ اصول ہی میں سے ہے!

وحی و نبوت کی روشنی کو رکھتے ہوئے دین و دانش دونوں آنکھوں کے کیسے اندھوں کا دامن سھام رکھا ہے، مسلمانوں کی تو دنیا کا بھی ہر اہم مسئلہ کسی نہ کسی طرح نفیاً یا اثباتاً براہِ واسطہ یا بلا واسطہ دین ہی کا مسئلہ ہے، اس لئے اگر وہ اغیار سے اخباری و پنڈالی بحث و مناظرہ میں صرف اپنی دینی راہ کے ان حدود و شرائط پر عمل پیرا ہو جائیں، جو حضرت جامع المجددین علیہ الرحمہ نے آخر میں بطور خلاصہ تحریر فرمائے ہیں، تو انشاء اللہ نصرت حق کی بدولت معاندین کے باطل پر دینگڈے اور ناحق کی خونریزی و دہشت انگیزی کو بھی بالآخر مغلوب ہی ہونا پڑے گا۔ بس ذرا ایمان و عمل صالح کے ساتھ قواعد و قواعد و قواعد بالصبور۔ کی ضرورت ہے، بہر حال مسلمانوں کے لئے یہ حیثیت مسلمان حکومت و سیاست کے بظاہر دنیاوی مسائل میں بھی بحث و مباحثہ کے وہی آداب و شرائط ہیں جو خاص دینی مسائل میں ہیں۔

"یعنی وہ مسئلہ دین میں مقصور بھی ہو، دل سے یہ عزم ہو کہ حق واضح ہو جائے گا تو فوراً قبول کر لیں گے، یہ نیت نہ ہو کہ ہر بات کو رد کر دیں گے، گو سمجھ میں بھی آجائے مخاطب پر شفقت ہو۔ اگر وہ شفقت کے قابل نہ ہو، تو صبر و محنت کے ساتھ مقابلہ کرے، اگر قرآن سے عناد مشاہد ہو تو مناظرہ سے معافی کی درخواست کرے الفاظ و مضمون نرم ہو، جو بات معلوم نہ ہو، نہ جاننے کا اقرار کرے، عار نہ کرے

ذرا ان اصول کو مسلمان امتحاناً ہی کچھ عرصہ صبر و عزیمت کے ساتھ اپنے اخباری و سیاسی مباحثوں اور اکھاڑوں میں آزما دیکھیں۔ گو یہ صبر و عزیمت دین سے تعلق کے بغیر نصیب نہ ہونا

آسان نہیں، تاہم جہاں ترقی کی سب تدبیریں کرتے ہیں، دین کے تعلق کو بھی بطور تدبیر ہی اختیار کر دیکھیں، مگر جب خود علما ہی طوفان بے تمیزی کے اس اکھاڑے میں کود پڑے ہوں، تو عوام سے کیا، اور کس منہ سے کہا جلتے، اور دینی اعتبار سے لیڈروں کا شمار عوام ہی میں ہے، ورنہ وہی ہونا تھا جو آج آنکھوں کے سامنے ہے کہ ان باتوں کو دیکھ کر۔


"عوام الناس علماء سے بھی بدگمان ہو گئے ہیں، کہ یہاں ہر شخص دوسرے کی تکذیب کرتا ہے، اس لئے یا تو سب ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک کی طرف ہو کے مقابل کی بے آبروئی اور ایذا رسانی کے درپے ہوتے ہیں، اور باہمی عداوت قائم ہو کر ایک دوسرے کی بے آبروئی (بلکہ جان تک) کی فکر میں لگ جلتے ہیں، اور گروہ بندیاں ہو کر مسلمانوں کی قوت و وقعت میں روزانہ ضعف و انحطاط ہوتا جاتا ہے، کبھی مار پٹائی ہو کر نوبت بدالت پہنچتی ہے۔"

بعض لوگ ان مفاسد سے قطع نظر کر کے اخباری یا پنڈالی بحث و مباحثوں کے طرح طرح کے مصالح و فوائد بیان کرتے ہیں، مگر شرائط بالا کے فقدان کی صورت میں ہوتا وہی ہے، جو ایسے مذہبی مناظرات میں ہوتا تھا، کہ ملا آن باشد کہ چپ نشو، اب لیڈر آن باشد کہ چپ نشو، یعنی "ہر شخص کچھ نہ کچھ کہتا ہی رہتا ہے، ہر شخص دوسرے کا جواب، پھر وہ دوسرا اس کا جواب الجواب، پھر وہ پہلا اس جواب الجواب کا رد پھر دوسرا اس رد کا رد و دونوں اس سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں۔"

اور بقول ایک بڑے عالم ہی کے کہ جب تک مولوی یا لیڈر کی زبان پر لقمہ اور ہاتھ پر فاج نہ گرے، اس رد و قدح کا تحریری و تقریری سلسلہ بند نہیں ہو سکتا۔

پھر ایک خراب کاری یہ ہے کہ مولویانہ وعظ کی طرح جس کس و ناکس کا جی چاہے لیڈرانہ تقریر کے لئے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ وعظ کے متعلق حدیثوں میں ہے کہ لا یقضی لراکلا امیراً و ماموراً و محتالاً و مداعراً۔ یعنی وعظ امیر کہتا ہے یا مامور کہتا ہے (یعنی اس کو کہا جائیے، یا پھر شیخی باز (مختال)، یا ریاکار۔ اسی طرح ہے کہ من تعلم صوت الکلام یسبی قلوب الناس کم یقبل اللہ یوم القیامۃ صرفاً ولا عدلاً یعنی جو آریں (صرف الکلام) یا باتیں بنانا، اس نے سیکھا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو بھانے، اس کا قیامت کے دن اللہ فرض عمل قبول فرمایگا، نہ نفل۔

آج کل اس "صرف کلام" یا باتیں بنانے اور الٹ پھیر کرنے کا جیسا زور اور جیسا بیجا استعمال ہے ظاہر ہے اور جیسے بہت سے واعظ بدوں کافی علم کے وعظ کہنے لگتے ہیں اور فضلاء افضلہ کا مصداق ہوتے ہیں ویسے ہی آج کل کے بہت سے لیڈر و ایڈیٹر سیاسی و دینی مسائل کو بھی پوری طرح جاننے اور سمجھے بغیر نام کے رہنا (ریڈر) بن کر خود بھی گمراہ ہوتے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔



مدارس کی اصلاح

یہ تو علماء کے فرائض و مشاغل کے متعلق اصلاحات تھیں، اس کے بعد جہاں علماء رہتے ہیں، یعنی مدارس کی بعض اصلاحات کا بیان ہے، ان مدارس کی مجددانہ نگاہ میں اتنی اہمیت ہے کہ فرماتے ہیں :-

”اس میں فورا شبہ نہیں کہ اس وقت علوم دینیہ کے مدارس کا وجود مسلمانوں کے لئے ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق متصور نہیں، دنیا میں اگر اس وقت اسلام کے بقا کی کوئی صورت ہے، تو یہ مدارس ہیں، کیونکہ اسلام نام ہے، خاص عقائد و اعمال کا، جس میں دیانات، معاملات، و معاشرت، اور اخلاق سب داخل ہیں، اور ظاہر ہے کہ عمل موقوف ہے علم پر، اور علوم دینیہ کا بقا ہر چند کہ فی نفسہ مدارس پر موقوف نہیں، مگر حالات وقت کے اعتبار سے ضرور مدارس پر موقوف ہے۔“

”لیکن ساتھ ہی ان مدارس میں ہم جیسے خدام و عمال کی سوہ تدبیر سے متعدد ایسے امور پائے جاتے ہیں، جن کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور یہ اصلاح نہ ہونے سے اہل علم کی جماعت ہدف ملامت بھی بنتی ہے، اور ان مدارس کے قائم کرنے کی خود جو روح و غایت ہے، یعنی عمل بالدين، وہ بھی ضعیف ہو جاتی ہے، اور لوگ علوم دینیہ سے متوحش و نفور ہو جاتے ہیں، تو اس طرح یہ جماعت علم گویا یصدون عن سبیل اللہ (خدا کی راہ سے روکنے) کا سبب بن جاتی ہے۔“

چندہ کے متعلق خاص اہم تجدید کی اصلاح ایک بہت ضروری اصلاح جس کی طرف جا بجا متوجہ

فرمایا گیا ہے، اور جو حضرت جامع المجدین علیہ الرحمہ کی خاص تجدیدی اصلاحات میں داخل ہے

اور جس میں عوام و خواص علماء و غیر علماء لیڈر و مسٹر سب ہی مبتلا ہیں، وہ یہ کہ ان اللہ طیب ولا یقبل الا الطیب اور لا یحل مال المیزان الا بطیب نفس لہ کی صریح نصوص ہوتے ہوئے مدارس کے چندوں میں مال کے حلال و طیب پر کہنا چاہیے، کہ بالکل نظر ہی نہیں ہوتی مثلاً چندہ لینے میں دینے والے کے طیب نفس کی بالکل ہی پروا نہیں کی جاتی، بلکہ طرح طرح کے اثرات اور دباؤ سے کام لے کر زیادہ سے زیادہ وصول کر لینا ہی بڑا کمال خیال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ

"بعض جگہ دوائی چندہ کا وعدہ کرنے والے کی موت کے بعد وارث اس چندہ کو جاری رکھتے ہیں، اور اہل مدارس اس کی تحقیق نہیں کرتے، کہ ان لوگوں نے اپنی ملک خاص سے جاری رکھا ہے، یا ترکہ مشترکہ سے اور اس ترکہ مشترکہ میں کوئی یتیم یا غائب یا غیر راضی کی ملک تو نہیں شریک ہے، اسی طرح میت کے کپڑوں کو مدرسہ میں لیتے وقت میت کے ورثہ اور ان کے بلوغ و رضا کی تحقیق نہیں کی جاتی۔"

"دوائی چندہ میں جو آخر سال بقایا واجب رہ جاتا ہے، اس بقایا کا طبع کرنا جس کا عام رواج ہے، امر منکر معلوم ہوتا ہے اس سے صاحب چندہ کی نادہندی اور خلاف وعدگی کا اظہار ہے، مدرسہ کا پورے اس کی اصلاح اس طرح کی گئی تھی کہ روئدادیں صرف وصول شدہ چندہ بکھا جاتا اور بقایا کو مدرسہ کے خاص رجسٹر میں رکھ کر بذریعہ خط یاد دہانی کر دی جاتی تھی، اور یاد دہانی میں بھی میرے نزدیک ضروری ہے، کہ لزوم و تاکید کے الفاظ نہ ہوں بلکہ تصریح کر دی جائے، کہ اطلاع دی جاتی ہے، اگر رغبت ہو تو بھیج دیجئے ورنہ آپ آزاد ہیں، اور یہ کبھی نہ خیال کیا جائے کہ اس طرح کون دیتا ہے، یہ خیال غلط ہے، جتنا آنا ہوتا ہے آتا ہے، اس کا کامل تجربہ ہو چکا ہے، ہرگز وسوسہ نہ کیا جائے۔"

جب خود مدرسہ چلانے والے علماء و اکابرین میں اتنا غنا و توکل بھی نہیں ہوتا، تو وہاں کے پڑھنے والوں میں خدا اور دین سے کسی خاص تعلق کی توقع کہاں تک ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ چندہ کی رقموں میں اس طرح بیجا اخراجات اور خلاف اذن تصرفات

سے کسی کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر لینا حلال نہیں ہے جو خود حضرت کی نگرانی میں تھا

کرتے ہیں، جیسے گویا ان کی ملک ہے، اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔
لیکن اس کی احتیاط اتنی کم کی جاتی ہے کہ، ایک مشہور مدرسہ میں تو مسجد تک کاروبار
بے تکلف دوسری مدوں میں صرف کیا جاتا رہا، جو نہیں معلوم مسجد بنتے وقت پھر کس کس
طرح ادا کیا، اور کرایا کیا، بھلا ایسی درسگاہوں میں ظاہری تدابیر و انتظام کے باوجود اگر تقویٰ
تدین نہ پیدا ہو تو کیا تعجب!

طلباء کے دین کی ذلت سے حفاظت

اکثر جگہ جہاں طلباء کو لوگ
ذلیل و حقیر سمجھتے ہوں طلبہ

کسی کے گھر کھانا لینے نہ جائیں، اس میں علم اور اہل علم کی سخت اہانت ہے، نیز ایک
اخلاقی خرابی یہ ہے، کہ اس عادت کی بدولت دوسروں سے ملنے میں طبعی انقباض
یعنی جھجک نہیں رہتی، اور یہی طبعی انقباض حیا کی ایک بڑی فرد ہے، جو ذلت کے سوال
سے انسان کو روکتی ہے، جب یہ نہ رہی تو رکنا طبعاً نہ ہوگا۔ عقلاً ہوگا، اور غرض ایسی
چیز ہے، جو عقلی مانع کو بہت جلد رفع کر دیتی ہے، ایسے وقت طبعی مانع ہی کی ضرورت
ہوتی ہے، جب وہ نہ رہا تو اس شخص کو جب موقع ہوگا، ہاتھ پھیلا دے گا نیز جب دل
میں ایسے شخص کی قدر و منزلت نہ رہی، تو اس کا وعظ کیا نافع ہوگا۔

”اس لئے جو طالب علم کو کھانا دینا چاہے مدرسہ میں بھیج دے، اسی طرح دعوت
میں بھی طلباء کو نہ بھیجا جائے، جس کو کھانا ہو مدرسہ میں لا کر کھلائے اور ہر چہ کہ پہلے
بزرگوں نے اس کو جائز رکھا تھا، لیکن اس وقت کے دنیا دار عوام اہل علم کو ذلیل
نہ سمجھتے تھے، بلکہ ان کے آنے کو اپنے گھر کے لئے موجب برکت سمجھتے تھے، تو یہ مفسدہ
نہ تھا، اور خود طلباء کے کبر کا معاملہ بھی اس میں ہوتا تھا۔“

اور اسی کی ایک صورت طلباء کو چہرہ کی فراہمی کے لئے بھیجا ہے، اس کے
بھی وہی آثار و مفاسد ہیں، جو کھانا لینے کے لئے گھروں پر جانے کے۔

طلباء کی وضع و لباس

”بعض مدرسوں میں طلباء کے اعمال
اور وضع و لباس پر روک ٹوک نہیں

ہوتی، اس سے جو اثر عوام و خود طلباء پر ہوتا ہے، وہ محتاج بیان نہیں
لیکن اس حسن فہم کو کیا کہیے کہ جس چیز کی ضرورت حضرت علیہ الرحمہ کے نزدیک محتاج

بیان نہیں وہ بعض بڑے مشہور دینی مدارس اور ان کے اکابر کے نزدیک سرے سے
چنداں محتاج توجہ نہیں، حالانکہ اہل فہم کے لئے "الناس باللباس" کا اصول و دلوں اعتبار
سے نہایت حکیمانہ و نفسیاتی ہے۔ جیسا آدمی دیا لباس اور جیسا لباس ویسا آدمی یعنی جس
طرح باطن کا اثر ظاہر پڑتا ہے اور ظاہر کی وضع و لباس باطن کے خیالات و رجحانات کی
غماز ہوتی ہے، اسی طرح ظاہر کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے، یعنی ظاہر کی وضع و لباس کو باطن
کے خیالات و رجحانات کے بنانے بگاڑنے میں دخل ہوتا ہے۔ موٹی بات ہے کہ ہماری وضع و
قطع ہماری اندرونی پسند و ناپسند کے تابع ہوتی ہے جیسے اور جن عادات و اخلاق کے لوگوں کو
ہم پسند کرتے، اور جن کی ہمارے دل میں کسی اعتبار سے عظمت و محبت ہوتی ہے، انہی کی وضع و
لباس اور طور و طریق کو ترجیح دیتے اور اختیار کرتے ہیں۔ آج کل کے اکثر جوان اور بڑھے
تک جو امر و بنے پھرتے ہیں، ان سے راقم احقر یہی عرض کرتا ہے، کہ یہ دائرہ بھی مونچھ کے چند بالوں
یا مرد ہو کر امر و بنے کا سوال نہیں، بلکہ دل کے اس چور کا اظہار بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے قلب
میں خدا خواستہ "کرزن" اور "کرلینون" کی وقعت و عظمت معاذ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم، اور محمدیوں کے مقابلہ میں زیادہ ہے، اور کرزن کی شکل و صورت معاذ اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کی صورت سے زیادہ پسندیدہ و محبوب ہے۔ کون نہیں
جانتا کہ جس کی ہمارے دل میں جتنی زیادہ محبت و عظمت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ ہم طبعاً
اس کی ایک ایک ادا اور نقل و حرکت کی نقالی کرتے ہیں، اور اس کی حرکات و سکنات کے
معقول یا نامعقول ضروری اور غیر ضروری ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ فرض و وجوب
استحباب و اباحت کی بحث کی جاتی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم جو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم)
کی ایک ایک ادا پر جان دیتے، اور اتباع کا اہتمام فرماتے تھے، اس میں شرعی بحث سے
زیادہ طبعی راز ہی ہے، کہ ان کے رگ و ریشہ میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عظمت و
محبت پیوست تھی۔

اب دوسری طرف لیجئے کہ اگر کسی بزدل و نامرد کو بھی پولیس یا فوج کی وردی پہنا کر
کھڑا کر دیں، تو تھوڑی دیر کے لئے اس کے اندر بھی مردانگی کی ایک جھلک پیدا ہو جائے گی۔
فوج و پولیس کے سپاہی جب گھریلو لباس اتار کر اپنی وردی یا یونیفارم پہن لیتے ہیں، تو اپنے
فرائض و منصب کا شعور قدرۃً تیز و تازہ ہو جاتا ہے۔ پولیس کا کوئی سپاہی اگر وردی میں چوری

کرتے پکڑا جائے، تو زیادہ مجرم و محبوب ہوگا، کہ جو وردی چوروں کے پکڑنے کو پہنائی گئی تھی، اس میں خود چوری کرتے پکڑا گیا۔ کافروں اور فاسقوں کی وضع و قطع ہیئت و صورت اختیار کی جائے، تو کفر و فسق ہی کے میلانات کو تقویت ہوگی اور اگر آدمی محتوم القلب نہ ہو گیا ہو، تو نیکوں و متقیوں کے ریائی لباس میں بھی فسق و فجور کے ارتکاب سے قدرۃ شرم و جھجک ہوگی۔ ظاہر کے تحیرات کا باطن کے میلانات و جذبات پر اثر پڑنا نفسیات کی مسئلہ و بدیہی حقیقت ہے۔

افسوس کہ فکر و فہم کے قحط اور تقلید و نقالی کی وبا کی بدولت ایسی موٹی باتوں کی بھی اتنی تفصیل کرنی پڑی، جو واقعاً حضرت علیہ الرحمہ کے بقول سرے سے محتاج بیان ہی نہ تھیں۔ بہر حال اب یہ دبا اچھے اچھے عربی و دینی مدارس میں پھیل رہی ہے، کہ اپنے بزرگوں اور صلحاء و اتقیا کی صورت کے بجائے اغیار اور کفار و فساق کی سچ دھج کی کھلے چھپے نقالی ہوتی ہے، ڈاڑھیوں پر اگر استرے کا وارسی مجبوری و مصلحت سے نہیں ہوتا، تو قینچی کی نوازش اس کو مسنون حد تک تو مشکل ہی سے آنے دیتی ہے، بہت سے طلباء اور بعض اساتذہ تک کے انگریزی بال ٹوپوں کے اندر اہتمام کے ساتھ چھپائے جاتے ہیں۔ محبوب وضع کی حفاظت بہر حال لازم ہے، خواہ اظہار کی بے مابی کے باوجود کسی مجبوری سے اخفاء کی مصیبت ہی جھیلنا پڑے۔ پانچاموں کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا بھی اکثر بادل نا خواستہ ہوتا ہے، اس لئے ان کی کتر بیونت جدید ہی رہتی ہے، کہ جب موقع ملا، نیچے کھسکایا اوپر چڑھا لیا، پھر بھی مولویت کی ذلت کو کرتا خصوصاً اگر فوراً المبا ہو فاش کر دیتا تھا، سو اس کی جگہ قمیض تو گویا اب عربی طلباء بلکہ اساتذہ تک میں ایک بالکل بے عیب فیشن ہے، اور بعض عربی مدارس جو زیادہ روشن خیال ترقی یافتہ ہیں، ان کی ورزشوں اور کھیلوں میں بھی ہاکی فٹ بال وغیرہ ہی مقبول ہیں، اور نام کی اصلاحی انجمن دیونین کی نقالی، کی ترقیوں کے سلسلہ میں فخریہ اخبار میں شائع ہوتا ہے، کہ انعام میں کپ اور مڈل تقسیم ہوئے، غرض اب قرآن و حدیث پڑھنے والے یہ طالب علم اپنے نزدیک، ملٹن و شکسپیر پڑھنے والی برادری کی نگاہ میں زیادہ رسوا نہیں!

خوب یاد رکھنا چاہیے کہ اس روش کی شرعی حیثیت جو بھی ہو، لیکن اس سے کوئی حقیقی عزت غیروں کی نگاہ میں تو کیا ہوتی، خود اپنی نگاہ میں اپنی ذلت اور احساس کمتری کا پکار پکار کر اعلان ہے اور دنیا کی نظریں دنیا کی عزت بھی طبعاً و عقلاً انہیں کی ہوتی

ہے، جن کی نظریں خود اپنی اور اپنے دینی وقوی شعار و شیخ و لباس کی عزت ہو۔ اس کے علاوہ جو مولوی یا مدارس دینیہ کا جو طالب علم "اسکول ماسٹر یا اسٹوڈنٹ" کی وضع قطع میں نظر آتا ہو، اس سے قدرۃً ایک عامی آدمی انگریزی کا خط یا تار ہی پڑھونا چاہیگا نہ کہ کوئی فتویٰ یا دینی مسئلہ دریافت کرنے کا خیال کرے گا۔ آخر جن کے بنائے ہوئے مسروں کی بوزنہ وار تقلید میں ہم دیوانے ہیں ان کے مولویوں (پادریوں) کی بھی کم از کم اب تک تو ایک خاص وضع ہی محمود خیال کی جاتی ہے، بلکہ وارثی تک وہ بھی ایک مشیت سے زائد مقدار ہی کی ان کے چہروں کو بھی ایک مذہبی و مقدس جماعت کا چہرہ ظاہر کرتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یونیورسٹیاں اپنے طلباء کے لئے خاص خاص یونیفارم مقرر کرتی ہیں، لہذا اس ذوق تقلید ہی کی دلیل سے ہی اگر ہمارے علماء اور دینی طلباء کا بھی کوئی یونیفارم ہو تو آخر اس میں کیوں ذلت محسوس کریں!

حاصل یہ کہ لباس و وضع کا معاملہ خفیف و حقیر ہرگز نہیں اس کے مصالح و مفاسد دونوں اشد بھی ہیں اور جنہوں نے اپنے دین کو اغیار کے دباؤ سے کچھ آزاد کر لیا ہے ان کی نگاہ میں اظہر بھی اور اتنی تفصیل محض ہماری مغرب زدہ مرعوبیت و غبادت کی بنا پر ضروری ہوئی۔

عظائے سند میں بے احتیاطی و نقالی | ایک اور بہت بڑا خطرناک مرض تمام

مدارس میں نقالی ہی کی راہ سے یہ پھیل گیا ہے، کہ پاس نیل کے کچھ نمبر مقرر کر لئے گئے ہیں، جس نے ان کو الٹی سیدھی کسی طرح حاصل کر لیا، بس اس کے ہاتھ میں عالم و فاضل اور مقتدائے دین ہونے کی ایک سند پکڑا دی گئی، نہ سند پکڑاتے وقت علم کی استعداد و صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، نہ عمل کے صلاح و تقویٰ کو۔ اس کی نسبت ارشاد ہے کہ

"بعض مدارس میں ایسے لوگوں کو سند فراغ دیدی جاتی ہے یا دستار بندی کردی جاتی ہے، جو باعتبار علم یا صلاح و عمل کے اس کے اہل نہیں ہوتے، جب ان لوگوں کی علمی و عملی کوتاہیاں دوسروں پر ظاہر ہوتی ہیں تو سارے علماء کو ان پر قیاس کر کے سب سے بدظنی ہو جاتی ہے، تو دین کے معاملات میں پھر کس سے رجوع کریں گے، کس کے قول پر عمل کریں گے، پھر دین کا کیا حشر ہوگا، تو ان مفاسد

کا سبب وہ بے احتیاط لوگ ہوئے، جو نااہلوں کو قوم کے سامنے مندرے کر اہل ظاہر کرتے ہیں۔

شاید اس رسالہ کی تحریک کے وقت حضرت علیہ الرحمہ کی نظریں بعض مدارس ہی ایسے رہے ہوں، اب تو کوئی استثناء نظر نہیں آتا، اگر اس ایک بات ہی اصلاح کا پورا اہتمام مدارس دینیہ کر لیں، تو انشاء اللہ علم و عمل دونوں اعتبار سے خدمت دین کے لئے اوسط درجہ کے علماء کا اوسط بہت بڑھ جائے۔

تجوید و تعلم وغیرہ کے معاملات قواعد کی پابندی میں مستثنیٰ

میں اب اکثر عربی مدرسوں میں طلباء کی خواہش و مذاق اور کثرت تعداد کے مقابلہ میں اصول و قواعد کی پروا کم کی جاتی ہے، اس سے بھی وہی مذکورہ بالا قسم کے مفاسد پرورش پاتے ہیں، اس لئے ضروری ہے، کہ طلباء کو قواعد کا پابند بنایا جائے، خواہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو جائے کام کے دوچار ناکارہ سو دوسو سے افضل ہیں۔

تجوید و اخلاق کی تعلیم سے غفلت

اکثر مدارس میں
تجوید کا علم و عمل

داخل نصاب نہیں، اسی طرح اخلاق کی کوئی کتاب درس میں نہیں، اول کی کمی کا نتیجہ یہ ہے، کہ اکثر طلباء بلکہ علماء بھی افسوس ہے کہ قرآن مجید اچھا نہیں پڑھتے، جس پر عوام بھی ہنستے ہیں، کتنا بڑا ظلم ہے کہ امام عالم ہو اور نماز فقہ کی رو سے درست نہ ہو، لہذا طلباء پر لازم کیا جاوے کہ تجوید علماً و عملاً حاصل کریں۔

راقم سطور کہیں اس معاملہ میں ایک بڑی نامی عربی درسگاہ کا تلخ تجربہ درج کر چکا ہے کہ بچوں کے لئے مکتب تو قائم کر دیا گیا، اور اس میں قرآن مجید لازم بھی ہے لیکن تجوید کیا مہولی تصحیح خارج تک کا انتظام نہیں تھا، اور نیچے سے اوپر تک کے ذمہ داروں سے عرض کرتے کرتے تھک گیا، یہاں تک کہ خود اپنے بچے کو وہاں سے ہٹا لینے کا ایک بڑا سبب یہی ہوا،

برائے مانا جائے تو اصل یہ ہے کہ ایسی درسگاہوں کے خود اساتذہ منتظمین اور اکابر کے اندر دین کی فکر و عظمت دونوں کا ایسا زوال ہے کہ سمجھتے ہی نہیں، کہ کس کو تاہی

کا اثر کتنی دور تک جاتا ہے یہ تو فکر کی کمی ہے، اگر سمجھے بھی تو عظمت کی کمی کی وجہ سے اس کی اصلاح و تدبیر میں مستعدی نہیں فرماتے، بلکہ رکیک رکیک عذرات کرتے ہیں۔

”دوسری کمی (یعنی تعلیم اخلاق کو درس سے خارج کر دینے، کی مضرتیں اس قدر کثیر ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا، خلاصہ یہ کہ علماء کی اس فن سے بے خبری کی بدولت جھوٹے مکار پیر بن گئے ہیں، جو خلقت و دنیا کو ذبح کر رہے ہیں اس لئے چاہیے کہ اخلاق کی کتابوں کو درس میں داخل کریں (اور صرف درس اخلاق ہی کافی نہیں)، بعد فراغ التزاماً طلباء محققین اہل اللہ کی خدمت میں حسب گنجائش قیام کریں، اور اُن سے عملاً آداب اخلاق سیکھیں اور ان کی صحبت سے برکت حاصل کریں، اور چندے اُن کی خدمت میں آمد و رفت رکھیں، جس سے کہ نسبت باطنہ ایک گونہ راسخ ہو جائے، تب خلق اللہ کے ارشاد کو اپنے ہاتھ میں لیں، انشاء اللہ عموماً عوام اہل اسلام اُن سے وابستہ ہو کر جھوٹوں کو چھوڑ دیں گے، اور مضمون قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقاً۔ آنکھوں سے نظر آجائے گا۔

بات یہ ہے کہ باطنی اخلاق کی اصلاح و درستی جس کا اصطلاحی نام فقر و درویشی یا تصوف پڑ گیا ہے، یہ دراصل دین کی روح ہے، جس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے قلبی و روحانی تعلق پیدا نہیں ہوتا، اور دین بے جان یا نیم جان رہتا ہے، لوگوں کو سوکھے ساکھے دین میں خدا کی بو نہیں محسوس ہوتی، ورنہ انسان کی عام فطرت تو یہ ہے کہ ہر کجا بوائے خدائی آید خلق را بین سر و پای آید

اس لئے جہاں جہل کے باوجود یہ بوجہ موجود ہوتی ہے، خواہ زیادہ تر نقلی و نمائشی ہی ہو لوگ پھنس جاتے، اور جہل کی گراہیوں کے ہاتھ تباہ ہوتے ہیں، اس لئے علم کے ساتھ تزکیہ اخلاق کا اہتمام ضروری ہے۔

اس آخر دور میں بھی دہلی کے شاہ ولی اللہی خاندان میں اس اجتماع کے، کیسی عظیم برکات و اثرات کا مشاہدہ ہو چکا ہے، دیوبند کا سلسلہ خیر و برکت بھی اسی اجتماع کا فیض ہے، وہاں کے اکثر اکابر و اساتذہ ظاہر و باطن کے جامع کمالات رہے ہیں، فرنگی محل لکھنؤ کے بھی بہت سے اکابر و دونوں رنگوں کے جامع تھے، لیکن اب ہر جگہ اس

رنگ کے اکابر کی روز بروز کمی بلکہ فقدان ہے۔ دیوبند و فرنگی محل دونوں پر تو مسلمانوں کا موروثی حق ہے اس لئے ان دونوں کے حضرات کو خصوصاً اور عام مدارس عربیہ کے حضرات کو عموماً اس جامعیت کے رنگ کو پیدا اور قوی کرنے کی طرف پوری توجہ فرمانے کی ضرورت ہے۔

قدیم طرز کے مدارس عربیہ کا درس و تدریس بھی بہت کچھ محتاج اصلاح ہو گیا ہے۔

اصلاح درس و تدریس

مولانا عبداللہ گنگوہی کا بالکل حضرت ہی کے اصول و رنگ کا نامہ صبح الطلاب نام ایک مضمون ہے جس کو خود حضرت نے پسند فرما کر "حقوق العلم" کے آخر میں شریک فرما دیا ہے، اس میں درس و تدریس سے متعلق اصلاح طلب امور کی جو تفصیل ہے، وہ ہمارے تمام قدیم طرز کے مدارس کے اساتذہ و منتظمین کے لئے لفظ بہ لفظ پڑھنے اور توجہ فرمانے کے لائق ہے۔

"خلاصہ یہ کہ ایک طرف تو تحصیل علم کے سامان پہلے کے مقابلہ میں زیادہ فراہم ہیں، کتابوں کو لیجئے کہ "حضرت شاہ اسحاق صاحب" کے درس میں ۲۲ آدمی بخاری شریف میں شریک تھے، اور صرف ایک نسخہ تھا، سب اس سے نقل کر کے پڑھتے تھے۔ آج ہر درس کی کتاب بلا اس محنت و مشقت کے ہر طالب علم کے پاس موجود ہے، لیکن دوسری طرف یہ حال کہ نہ کتاب کی طرف توجہ نہ اساتذہ سے انس نہ شوق طلب نہ مطالعہ نہ تکرار نہ تبارفصیلت زیب سر ہو جاتی ہے، اور استعداد کی یہ حالت کہ عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتے، املا تک درست نہیں، (الامام اشار اللہ)۔

اس قابلیت کے ثمرات ظاہر ہے کہ درس و تدریس یا افتاء وغیرہ کسی اعلیٰ خدمت علم کے قابل نہیں ہوتے، کہیں وعظ کو پیشہ بنالیا، کہیں مسجد کے امام بن گئے کہیں الٹی سیدھی طب پڑھ لی، وہ بھی چلتی نہیں۔ ان نتائج کو دیکھ کر کم عقلوں نے سمجھ لیا کہ علم دین کا نتیجہ جب یہی ہے، تو اپنی اولاد کو پڑھا کر کیوں برباد و رسوا کریں، اس کم عقلی کا جواب تو یہ ہے کہ

"مدارس اسلامیہ میں بیکار پڑے رہنا بھی انگریزی میں مشغول ہونے سے

لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے، اس لئے گویا قوت اور کمال حاصل نہ ہو، لیکن کم از کم عقائد تو خراب نہ ہوں گے، اور مسجد کی عمارت و بکشی اس وکالت و پیرسٹری سے بہتر ہے، جس سے ایمان میں تزلزل ہو، اور خدا رسول صحابہ اور بزرگان دین کی شان میں بے ادبی ہو، جو انگریزی کا اس زمانہ میں اکثری بلکہ لازمی نتیجہ ہے، ہاں جس کو دین ہی کے جانے کا غم نہیں وہ جو چاہے سکے اور کرے،

”لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ عربی مدارس کی اصلاح نہ ہو، یہ اصلاح بہت ضروری ہے، اگر اُن کی اصلاح ہوگئی، تو ایک عالم کی اصلاح ہوگئی، اس میں شک نہیں، کہ پُرانے طریق تدریس سے بڑے بڑے علما پیدا ہوئے، اور اب بھی کچھ نہ کچھ ذی استعداد نکل آتے ہیں، گو کم ہی سہی، لیکن اس زمانہ میں طلباء کی کم توجہی، اور قوت فہم کی کمزوری کی وجہ سے یہ طریق تدریس کافی نہیں۔

”اب تک طریقہ یہ ہے کہ پہلے طالب علم عبارت پڑھتا، اور مدرس مطلب بیان کر دیتا ہے، اگر کسی کو کچھ شبہ ہوا دریافت کر لیا، ورنہ آگے چل پڑے، یہ طریق مبتدیوں بلکہ متوسطین کے لئے بھی غیر نافع ہے، صرف ایسے مہتمی طلباء کے لئے نافع ہے، جو فاضلانہ استعداد حاصل کر چکے ہیں، اور بڑے اساتذہ کے ہاں مستفید ہو رہے ہیں۔

”اس میں اصلاح کی ضرورت یہ ہے کہ خود طلباء کی استعداد سے کام لیا جائے بلا ضرورت اُن کی امداد نہ کی جائے خود اُن ہی سے مطلب کی تقریر کرائی جائے، نیز ہر قاعدہ و مسئلہ کی کثرتِ امثلہ سے مشق کرائی جائے، البتہ جو مقام طلباء کی استعداد سے باہر ہو اس کی خود تقریر کر دے، یہ طریقہ یوں تو سارے درس کے لئے مفید ہے ورنہ ابتدائی کتابوں میں تو بہت ضروری ہے، مثلاً میزان، منشعب میں ایسا نہ کیا جائے، کہ سبق پڑھایا، اور اس کو روٹا کر سن لیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ ہر سبق کی بکثرت مثالوں سے مشق کرائی جائے، مثلاً ماضی کی بحث پڑھائی جائے تو کم سے کم اس کے تین چار سو مختلف صیغوں کی مشق کرائی جائے اور ماضی و ردے کر ماضی کے صیغے بنوائے جائیں، اور ماضی کے صیغوں کی ارد و دی

جائے، کہ اس کی عربی بنادیں، اگرچہ اس اجراء میں ایک ہی سبق میں کئی روز صرف ہو جائیں،

اس طرح جب نحو میر تک پہنچے تو ہر قاعدہ کے متعلق چھوٹے چھوٹے عربی جملے دے کر اردو ترجمہ اور اردو کے جملے دے کر عربی بنوائی جائے، حتیٰ کہ نحو میر کے ختم پر طویل طویل سلیس عبارتیں اردو کی دے کر عربی بنوائی جائے اور سلیس عربی کا ترجمہ کرایا جائے، اس طرح جب نحو میر ختم ہوگی، تو شرح مائتہ ہدایت النحو کی عبارت طالب علم خود صحیح پڑھے گا، اور اگر کہیں غلطی کرے تو بتلایا نہ جائے اس سے خود قاعدہ پر جواب طلب کیا جائے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اگر قدیم طریق میں اتنی اصلاح کر لی جائے، تو وہ جدید کے بہت قریب آجاتا ہے اور دونوں کا نفع بڑی خوبی سے جمع ہو جاتا ہے، خود صرف کی قواعد دانی پر پرانوں کا جو اصرار ہے، اور جو نفع اس کا بتلاتے ہیں، وہ بھی قائم رہتا ہے، اور نیوں کا خود صرف کو بے سمجھے خالی رٹانے اور وقت و ذہن کو خراب کرنے کا اعتراض بھی جاتا رہتا ہے، اور ہدایت النحو تک پہنچ کر یقیناً عبارت خوانی کی کافی استعداد حاصل ہو جائے گی، جو رائج الوقت طریقہ میں کافیہ و شرح جامی تک پڑھ کر بھی حاصل نہیں ہوتی۔

”آگے چل کر ہر فن کی تعلیم اسی طریقہ پر ہو، مثلاً بلاغت شروع ہو تو ہر قاعدہ کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور اشعار جاہلیت دے کر قواعد بلاغت کو جاری کرایا جائے، اسی طرح فقہ میں ہر کتاب کے موافق چھوٹے چھوٹے مسئلے دیئے جائیں، کہ بحوالہ کتب ان کے جواب لکھیں، وقتس علیٰ ہذا اس میں گو پہلے مدت زیادہ لگے گی، لیکن چونکہ استعداد بڑھنے سے جی بڑھے گا، اور توجہ زیادہ ہوگی، تو آگے چل کر وقت بھی کم صرف ہوگا، اور ابتدا کی کسر انتہا میں نکل آئے گی۔“

البتہ اس طریق اصلاح میں اصلی محنت و توجہ اتنا ذکر کرنا ہوگی، اور ہر مدرس پر اطمینان نہیں کیا جاسکتا، اس لئے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لئے بھی یہ تجویز فرمائی گئی ہے، کہ ایسی درسی کتابیں شائع و مرتب کر دی جائیں، جن کے حواشی پر مشقی مثالیں سلیقہ اور حسن ترتیب کے ساتھ جمع ہوں، اور جہاں ہر چھوٹے بڑے کام کے لئے جو کچھ بھی ضروری ہو چنہ کر کے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ اس اعتبار سے سب سے ضروری کام ہے، کہ لائق و ذی استعداد علماء

کے کم ہوتے ہوتے بالآخر علوم دین ہی کے گم ہو جانے کا اندیشہ ہے جس پر سارے دین کا مدار ہے۔

بلکہ اگر ایک دفعہ کچھ سرمایہ فراہم کر کے ایسی درسی کتابوں کی اشاعت کا صرف آغاز کر دیا جائے تو بار بار کسی چنڈہ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، انہی کی فروخت سے آگے کا کام انشاء اللہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔

نیز اس قسم کی اصلاحات سے وحشت و استنکاف کی بھی کوئی وجہ نہیں، ایسی ہی ترمیمات تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں۔ سلف صالحین و محدثین کا طرز یہ تھا کہ شیخ خود پڑھتے اور تلامذہ سنتے تھے، اس وقت یہی نافع و کافی تھا، پھر علمائے اس طرز کو بدل دیا، تلامذہ میں ایک پڑھتا اور شیخ سنتے، اس کے بعد نمبر مقرر کیا گیا، کہ نمبر وار سب پڑھیں، اس میں یہ شبہ ہوا کہ جس کا نمبر ہوگا، وہی مطالعہ دیکھے گا، باقی نہ دیکھیں گے، اس لئے یہ کیا گیا، کہ جس کو استاد کہے وہ پڑھے غرض حسب ضرورت طریق تدریس میں ترمیم و اصلاح ہمیشہ سلف سے آج تک ہوتی رہی، تو اب اس سے خواہ مخواہ بھڑکنے کی کیا وجہ؟

یہ تو علمی و تدریسی اصلاحات کے متعلق تھا، عملی و اخلاقی اعتبار سے بھی بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں جن کی اصلاح و تدارک کی طرف بہت خاص توجہ و اہتمام کی ضرورت ہے، ان میں دو باتوں کا خصوصاً ذکر فرمایا گیا ہے۔

”ایک بے ریش لڑکوں کا فتنہ ہے، اس لئے مدارس میں یہ انتظام ہونا ضروری ہے، کہ دنش دنش بینش بینش لڑکوں پر ایک معمر نگران مقرر ہو جو ان امور کی نگرانی رکھے، کہ کسی بڑے طالب علم سے نہ ملنے دے، نگران سے الگ ہو کر آپس میں باتیں نہ کریں، ان کے نام جو خطوط آئیں، وہ بھی دیکھ کر دے، ان کے سر منڈاتا رہے، پان نہ کھانے دے، لباس سادہ ہو، اگرچہ امرا کے بچوں کا قیمتی ہو، نماز و جماعت میں ان کی حاضری کی فکر رکھے، تفریح یا کسی ضرورت سے بازار وغیرہ جائیں، تو ان کے ساتھ ہے ان باتوں کی خلاف ورزی پر مناسب سزا دے۔“

”دوسری نہایت قابل افسوس چیز نئی روشنی کے اثرات“

چیز نئی روشنی یا پنچریت کے

اثرات ہیں جو ہیضہ و طاعون کی طرح پھیل گئے ہیں جس سے بہت کم نفوس محفوظ ہیں عربی مدرسوں کے طلباء بھی ان اثرات کو قبول کر رہے ہیں۔
 الحمد للہ کہ ابھی عقائد پر تو زیادہ اثر نہیں پہنچا ہے، لیکن پہلی سی سادگی دے تکلفی جاتی رہی ہے۔ دُفع قطع سے مسٹر یا نیم مسٹر معلوم ہوتے ہیں، نہ چہرہ پر تقویٰ کے انوار نہ بات چیت میں تواضع کے آثار کتابوں میں جی نہیں لگاتے نہ مطالعہ سے کام نہ تکرار سبق سے سرکار مقرر بننے کی فکر اخباروں اور پرچوں میں مضمون نگاری کی دھن، تاویل یہ کہ ضرورت زمانہ سے مجبوری ہے کہ تبلیغ کے لئے تحریر و تقریر نئے رنگ و مذاق کی ہو، اس کی ضرورت مسلم، لیکن اس کے اندر جو خفیہ مفسد ہیں ان پر اطلاع ضروری ہے، تجربہ یہ ہے کہ ایسی تحریر و تقریر بالعموم حُب جاہ پیدا کرتی اور اخلاص کے رنگ کو مٹاتی ہے اور طالب علمانہ رنگ و سادگی قلب سے دور ہو کر صرف عبارت آرائی اور دعوے ہی دعوے رہ جاتے ہیں اس لئے عام طلباء کو عموماً ایسی تقریر و تحریر اور نئی روشنی والوں کے ساتھ افادہ یا استفادہ کی نیت سے ملنے سے قطعاً روکا جائے کچھ اپنا رنگ چڑھانے کے بجائے خود ان کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، البتہ تبلیغ احکام اور مخالفین کے مضامین کو تحریراً تقریراً رد کرنے کے لئے ایسے منتہی طلباء کو منتخب کیا جائے جن کے ظاہر و باطن میں کچھ تو دین کی طرف خاص میلان موجود ہو اور پھر ان کو حضرات اہل اللہ کی خدمت میں رکھا جائے، جس سے ان کا اخلاص واضح اور ان کے اخلاق کی درستی ہو، یہ مطلب نہیں کہ خواہ مخواہ عربی صوفی ہو جائیں اور ضربیں لگانے لگیں، بلکہ ان کی عجت سے انشاء اللہ اخلاص کا کچھ حصہ ضرور مل جائے گا۔ حسب استعداد جب کافی مدت تک ان کی خدمت سے مستفید ہوئیں تب ان کو تحریری و تقریری تبلیغ کے منصب پر مقرر کیا جائے، اُس وقت ان کی تقریر و تحریر نئے پُرانے کسی طرز کی بھی انشاء اللہ مفید ہی ہوگی، مفسر نہ ہوگی باقی جو لوگ بے اس کے آج کل کے مذاق کی تحریر و تقریر کے عادی ہو رہے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ خود کاتب و مقرر کی بڑائی کا کچھ اثر بیوقوفوں پر ہو جاتا ہے، ورنہ اصلاح یا تبلیغ جو بتائی جاتی ہے، اس کا اثر برائے نام ہی ہوتا ہے۔
 عام مدارس کے ساتھ کاش یہ چند سطریں خاص طور سے اکابرِ زندہ کو اپنی جانب متوجہ

کر سکیں! راقمِ حق کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ان کی تحریر کے وقت اگر علماً و تجربتہ نہیں تو کشفاً و الہاماً خصوصیت کے ساتھ ندوہ ہی پیش نظر تھا۔

علوم دینیہ کے نصاب، تعلیم و تدریس میں ایک اور بڑی اہم اصلاح و **مختصر نصاب** تجدید کی ضرورت یہ تھی، کہ اس کے لئے کوئی ایسا مختصر راستہ تجویز کیا جائے جو بقدر ضرورت کافی بھی ہو، اور اتنی مدت نہ صرف ہو، کہ علوم معاش کی تحصیل کا عذر اس کی تحصیل سے لوگوں کو مانع ہو۔ حضرت جامع امجدین علیہ الرحمہ کی تجدیدی جامعیت نے اس ضرورت کا بھی پورا احساس فرمایا، اور صرف کوئی نظری خاکہ نہیں پیش کیا، بلکہ تلخیصات عشر کے نام سے مرتبہ نصاب کا (دیگر ضروری اضافوں مثلاً اخلاق و فلسفہ جدیدہ وغیرہ کے ساتھ) ایسا عطر کھینچ دیا ہے، کہ اس بحث کی بھی گنجائش نہیں رہی، کہ کون سا علم و فن قدیم نصاب کا تقلیل مدت کی ضرورت سے سرے سے خارج کر دیا جائے، اور لوگوں کو یہ وسوسہ و اعتراض باقی رہے کہ فلاں چیز کے بالکل نکل جانے سے فلاں خاص خامی رہ جائے گی۔

اس نصاب میں تمام چیزیں تجوید سے لے کر صرف و نحو، معانی و بلاغت، منطق و فلسفہ عقائد و کلام، مناظرہ و ہیئت، تفسیر و حدیث، اصول فقہ، اخلاق و تصوف سب ہی کا اتنا ضروری حصہ اور ایسا ملخص موجود ہے کہ ضروری ضروری مسائل سب کے آگے ہیں، اور حضرت کی مقررہ ہدایات کے مطابق ان کی تعلیم ہو تو انشاء اللہ ہر فن سے اتنی مناسبت حاصل ہو جائے گی، کہ پھر جس میں چاہے آگے تکمیل کر سکتا یا ذاتی مطالعہ سے استعداد بڑھا سکتا ہے یہ پورا نصاب کم و بیش تین سال کی مدت میں پورا ہو جاتا ہے۔

یہی نہیں کہ اس کی بدولت اس قلیل مدت میں سارے علوم دینیہ عربیہ سے فی الجملہ واقفیت و مناسبت پیدا ہو جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی دینی تربیت کا بھی ان تین سالوں میں اگر پورا اہتمام رکھا جائے، تو پھر علوم معاش یا دنیوی علوم میں مشغول ہونے سے بھی انشاء اللہ ایمان و عمل ایسا برباد نہ ہوگا، کہ اسلام کے نام کے سوا اس کا کام کوئی نہ رہ جائے، بلکہ خود ان دنیوی و معاشی علوم کی فہم و قابلیت اور ان میں سرعت ترقی کے لئے ذہن میں ایک مضبوط و مستحکم بنیاد قائم ہو جائیگی اس پر بھی امداد و غریب اگر سب ہی معاش و معاد دونوں کے جامع منافع کے لئے اس کو لبیک نہ کہیں، تو بڑا

”اُشی دستانِ قسمتِ را چہ سود از رہبرِ کامل“

ذیل میں اس تجویز و تجدید کے مقصد و مطلب کو مختصراً خود حضرت مجدد کی زبان سے بھی سن لینا چاہیے، جو اسی تلخیصات عشر کی تمہید سے ماخوذ ہے، سب سے پہلے اس پر متنبہ فرمایا گیا ہے، کہ یہ نصاب کوئی ایسی جدت طرازی نہیں، جو قدامت پسند حضرات کے لئے موجب وحشت ہو۔

”بلکہ نصاب قدیم کی دینیات مقصودہ یعنی تفسیر و حدیث وفقہ و کلام و فرائض کی ضروری کتابوں کی تحصیل کو زوائد پر مقدم کر دیا گیا ہے اور چونکہ یہ علوم بعض فنونِ آلیہ صرف و نحو و معقول و اصول پر موقوف ہیں لہذا ان سے پہلے یہ رکھ دیئے گئے ہیں، اس لئے یہ نصاب قدیم ہی کا ایک جز ہے۔“

اس کے بعد اس تجویز کا اصل مقصد ملاحظہ ہو، جس کی دو غرضیں بیان فرمائی گئی ہیں

”اول جن لوگوں کو تحصیل معاش کی ضرورت یا کسی اور وجہ سے مہلت کم ہے اور ساتھ ہی علوم دینیہ میں فاضلانہ استعداد حاصل کرنے کی رغبت و شوق ہے مگر متعارف درسیات کی تطویل دیکھ کر ہمت پست ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ ترک محض ہوتا ہے، ان کی تنگی رفع ہو جاوے گی، دوسرے جو نوگ تحصیل علوم دینیہ کے لئے فارغ بھی ہیں، ان کو بھی اتفاقاتِ زمانہ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا وقت نہیں ملتا، اور درمیان ہی سے چھوڑ دینا پڑتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہ جس قدر وقت ملا تھا، وہ علومِ آلیہ میں صرف ہو گیا، اور اصل مقصود سے محروم ہی رہے، اس جدید نصاب یا طریق سے اس محرومی کا بھی تدارک ہو جاتا ہے؟“

لہذا اس مصلحت کے پیش نظر عام اور رائج اوقاتِ طویل نصاب پر ہر حال میں اس مختصر نصاب کو مقدم رکھنا انبہ ہے، اس کے پورا کرنے کے بعد اگر وقت مساعد ہو تو بقیہ درسیات کو پورا کر لیا جاسکتا ہے، نیز چونکہ اس شخص کی استعداد میں ایک گونہ قوت زیادہ ہوگی، اس لئے بقیہ درسیات پر سرعت و بصیرت سے عبور کر سکے گا، اور اگر وقت نہ ملا تو اصل مقصود تو حاصل ہی ہو چکا، اگر توجہ کرے گا، تو چونکہ مطالعہ کا ملکہ پیدا ہو چکا ہے، کتب بینی سے اپنی استعداد و تبحر کو جہاں تک چاہے ترقی دے سکتا ہے۔

ایسی صورت میں چاہیے تو یہ تھا کہ دیوبند، سہارنپور، نظامیہ (فرنگی محل)، ندوہ وغیرہ سب ہی بڑی بڑی درسگاہیں اپنے ہاں بطور ایک شاخ، بلکہ بطور جڑ اور بنیاد کے اس کا التزام لازماً کریں، تاکہ ایک طرف طالبان دنیا پر طلب دین کی حجت قائم ہوتی، اور دوسری طرف خود ان درسگاہوں کے فیض و افادہ میں وسعت ہوتی، اور جوگ تین چار سال سے آگے کی ہمت و فراغت رکھ کر پوری تکمیل کرنا چاہتے، ان کے لئے یہ شاخ اسی طرح جڑ کا کام دیتی، جس طرح دینی تعلیم کا میسٹر یوٹیشن معمولی نوکریوں وغیرہ سے زیادہ حوصلہ رکھنے والوں کے لئے اعلیٰ تعلیم کی بنیاد کا بھی کام دیتا ہے۔

بلکہ اگر اس طرز کے سہ سالہ مدارس مستقلاً جا بجا ملک میں کثرت سے قائم ہو سکیں، اور دینی یا معاشی مدارس میں جانے والے مسلمان بچے پہلے اس کی تکمیل کریں، تو انشاء اللہ ایک ہی نسل میں اس بیک کرشمہ دوکار کے دینی و دینیوی منافع کا مشاہدہ ہو جائے گا، ان سہ سالہ بنیادی مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ دینی تربیت کا اہتمام بھی لازم ہو، تو ان کے طلبا دین و دنیا جدھر بھی جائیں گے، خدا سے امید ہے کہ وہی آگے ہوں گے۔

کاش ہمارے پاکستانی علماء اور دین دوست حضرات حکومت پاکستان کو اس کی طرف متوجہ فرما سکتے تو ایک ہی نسل میں پاکستان تمام دینی ناپاکیوں سے پاک ہو کر واقعی پاکستان بن جاتا، ذہنی و قلبی انقلاب کا بڑا دار و مدار تعلیم و تربیت ہی پر ہے، اگر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا کوئی انقلاب پیدا کرنا ہے تو اس کا راستہ پاکستان و ہندوستان بلکہ ساری دنیائے اسلام کے لئے اس کے سوا نہیں کہ ان کی تعلیم و تربیت کی اساس اسلام ہو، یہ بنیاد اگر کج ہے، تو پھر تاثریامی رودیوار کج کے نتیجہ کو کوئی سیاسی و انتظامی طاقت روک نہیں سکتی۔

لیکن اس محرومی کا کیا علاج کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے سر پر مغربیت یا فرنگیت کا جادو ایسا سوار ہے، کہ اسلام کا نام ملے کر بھی ان کی سمجھ میں کام غیروں ہی کا آتا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ خود اہل دین اور دینی مدارس کے اکابر تک کا دل و دماغ اس درجہ مسحور ہو رہا ہے، کہ دین کی بیدھی بات سمجھنا، اور سیدھی راہ چلنا، ان پر شاق ہو رہا ہے۔ ان یرو سبیل الرشدا لا یتخذوا سبیل الان یرو سبیل الفی یتخذو سبیلہ۔ (اعاذنا اللہ منہ)

بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کی ایک صورت اور حضرت جامع المجردین کی زندہ کرامت ہے، کہ حضرت ہی کے ایک مستعد جوان صالح خادم اور مجاز خدمت مولانا ابراہیم الحق

سَلَّمَ اللہ تعالیٰ) نے اللہ کا نام لے کر اس راہ میں قدم اٹھا دیا ہے اور اپنے وطن ہردو میں اشرف المدارس کے نام سے رہنمائی کا نشان کھڑا کر دیا ہے جس کا اصل مقصد حضرت مجدد وقت کی اس مذکورہ بالا مجددانہ تعلیمی تجویز کی تکمیل ہے بڑی بات یہ ہے کہ تربیت کی طرف تعلیم سے کم نہیں زیادہ توجہ ہے یہ سنی سانی نہیں بلکہ ذاتی تجربہ مشاہدہ کی بنا پر عرض کیا جا رہا ہے اور خود اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے باب میں بڑی بڑی نامی جگہوں سے ٹھوکر کھاکر اور مایوس ہو کر بالآخر حضرت جامع المجددین کی اس زندہ کرامت کے دامن میں پناہ ڈالنے والے ایک بڑے خاندانی مشائخ زادہ اور خود دین دار صاحب علم و فضل نے تو اس سلسلہ میں ایک مخدوم بزرگ کی مثال پیش کر کے یہاں تک تحریر فرما دیا تھا کہ فلاں صاحب دین و دنیا بزرگ باوصف غایت دین داری اپنی اولاد کو کالج ہی میں تعلیم دلا رہے ہیں اور متوسط وغیرہ طبقہ کے لئے اس سے چارہ نہیں کہ موجودہ تعلیم کو اختیار کرے یا اولاد کو نرا جاہل رکھ کر کارخانوں کا مزدور بننے پر مجبور کرے جہاں بے علمی کے ساتھ بے اخلاقی و بد اخلاقی کا بھی شکار ہوں باقی ایمان اور اعمالِ صالحہ کے لئے دعا کریں۔ انا للہ۔ ایمان و اعمالِ صالحہ کے لئے عرف و معر یہ نادان اس فتوے پر کیسے عمل کرتا جب کہ اس کے مشاہدہ و تجربہ میں خود دین کے لئے بھی خالی دنیا کے علم سے نرا جاہل بہتر اور دین کے حق میں کمتر ضرر رساں ہے کیونکہ جاہل میں کچھ بُرا بھلا ایمان و اعتقاد تو سلامت رہ جاتا ہے اور اس اعتبار سے کارخانہ کا مزدور بن جانا کونسل کے ممبر بننے سے بدرجہا اہون ہے خود حضرت مجدد کے افادات اس بارے میں آگے تعلیم انگریزی کی تحقیق میں آتے ہیں۔

ہماری عام عربی و دینی تعلیم اور تعلیم گاہوں کی بڑی کمزوری و غفلت یہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت و عمل کا بہت کم اہتمام و التزام فرمایا جاتا ہے بلکہ گویا طالب علمانہ زندگی عملی آزادی کا پروانہ دلائس، خیال کیا جاتا ہے۔ یہ تصور بھی فرنگی طالب علمی کی برکات میں ہے۔ اور اگر کوئی اس پر معترض ہو تو غلطی کو غلط کے لئے حجت بنایا جاتا ہے کہ آپ بھی اپنی طالب علم

سے مگر اہل ثروت کی بے توجہی اور مدرسہ کا خود اپنا مکان وغیرہ نہ ہونے سے قریباً سارے مصارف کا بار طلباء ہی پر پڑ رہا ہے جس کو معمولی کیا متوسط درجہ کے سرپرست بھی برداشت نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے نو محدود و ترقی مدد و ادراہقا خطرہ میں ہے۔

کو یاد کریں حالانکہ موٹی بات ہے، کہ تربیت کی بنیاد کو نچتے کر سنے کا زمانہ تو طالب علمی کے سن سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے، تو عین علم دین کی تحصیل کے زمانہ میں عمل دین سے غفلت و سہمکت کیسے روا ہو سکتی ہے۔ خود حضرت علیہ الرحمہ نے تو بے عمل طالب علموں کو سند فراغ تکمیل دے دیا موجب مواخذہ قرار دیا ہے۔ "لنخیصات عشر کی تمہید میں اس مختصر نصاب کی تحصیل کا یہ دستور العمل تحریر فرمایا ہے، اس کا آخری نمبر ۱۱، ابھی یہی ہے، کہ جو کچھ پڑھے اس پر پورا عمل کرتا رہے۔

دینی نصاب و تعلیم کی مقدار و مدت میں اختصار و تقلیل کی اس مجددانہ تجویز کی جو اہمیت و حاجت مجدد وقت علیہ الرحمہ کی نگاہ میں ہے، اس کا مزید اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، کہ بعض چیزوں کو حذف فرما کر یا ان کا بدل تجویز فرما کر ارشاد ہے کہ "اگر کوئی شخص کسی سبب سے اور زیادہ اختصار کا طالب ہو، تو ایسے شخص کے لئے یقیناً تین سال میں سے اور چھ ماہ گھٹ جاویں گے۔ پھر آگے ارشاد ہے کہ "اگر کوئی شخص صرف اپنی اصلاح و نجات آخرت کے لئے کتب دینیہ کو عربی زبان میں پڑھنا چاہے۔ تحقیق و تدقیق کی ضرورت نہ سمجھے، یا علوم عقلیہ سے دلچسپی نہ ہو، اس کے لئے اس درس کا اور بھی اختصار ہو سکتا ہے، یعنی صرف دعو کی کتب مندرجہ کے بعد قدوری کامل اور سراجی، اور متن معانی اور تجوید اور تلخیص الہدایہ اور متن عقائد نسفیہ، اور تیسیر یا مشکوٰۃ اور جلالین کافی ہے۔"

جن کی عمر زیادہ ہو چکی اور مدرسہ میں باقاعدہ تعلیم کی نہ رہی ہو، اور عربی ہی کے ذریعہ سے علوم دینیہ کے حصول کا شوق ہو جس میں وقت بھی زیادہ صرف نہ ہو اور قابلیت بقدر ضرورت پیدا ہو جائے اس کے لئے بھی ایک ہیچ مختصر و مناسب نصاب تجویز فرمایا ہے کہ

"اول ایک کتاب ادب کی پڑھا دے خواہ مفید الطالبین ہی ہو۔ مگر اس میں صرف دعو کے قواعد کو بھی ساتھ ساتھ جاری کرتا جائے، اور ایسے قواعد کچھ زیادہ نہیں پندرہ بیس ہوں گے جس سے صرف اتنا معلوم ہو جائے کہ اس کلمہ پر زیر برکیوں ہے۔ اس کے بعد قرآن شریف کا ترجمہ اسی طرح ہو کہ اس میں بھی قواعد جاری کرائیں۔ اور ایک کتاب حدیث شریف کی پڑھا دی جائے مثلاً شارق الانوار کہ بہت بڑی بھی نہیں اور ایک کتاب فقہ کی جیسے قدوری۔ اس کے بعد یا ساتھ د

تین کتابیں صرف نحو کی بھی پڑھا دی جائیں۔ اس سے مناسبت پیدا ہو کر ضروری کتابوں کا مطالعہ بہت سہل ہو جائے گا۔

ادارہ تعلیمات اسلام (لکھنؤ) نے مولانا عبدالسلام صاحب ندوی کے زیر نگرانی ہدایت قریب قریب یہی نصاب و طریق اختیار کر رکھا ہے، بلکہ اس میں ابتدا ہی کلام مجید سے ہوتی ہے، اور قواعد کے ساتھ ساتھ اجراء کے علاوہ مستقل نحو و صرف کی کسی کتاب کی بھی تجربہ سے ضرورت ثابت نہیں ہوئی۔ اور الحمد للہ کامیابی ہوئی۔ لیکن افسوس کہ یہ صرف تعلیمی ادارہ ہے، تربیت کا کوئی اہتمام و انتظام نہیں، نہ مدرسہ کی شکل ہے، نہ کوئی دارالافتاء۔ اس لئے افادہ بہت محدود اور تعلیم بالفاظ کے ایک مختصر ادارہ کی سی شکل ہے۔

لیکن نفس اپنی اصلاح و نجات آخرت کے لئے چونکہ عربی زبان میں پڑھنا بھی لازم نہیں اس لئے مزید ارشاد ہے کہ

”جو عربی زبان کی قید بھی ضروری نہ سمجھے، اس کے لئے صرف بہشتی زیور کے پانچ حصے، اور مفتاح الجنہ اور صفائی معاملات اور تعلیم الدین، اور فروع الایمان اور جزاء الاعمال اور اصلاح الرسوم، اور قیامت نامہ، اور شاہ رفیع الدین اور حقوق الاسلام اور سراج السالکین اور توارخ حبیب الہ اور مآل تہذیب کے سب حصے۔

اور عورتوں کے لئے بلکہ کم فرصت مردوں کے لئے بھی بہشتی زیور کے سب حصے پڑھ لینا اور ضرورت کے وقت علماء سے رجوع کرتے رہنا کافی ہے۔“
بہر نوع دینی تعلیم اختصار نصاب و تقلیل مدت کی یہ اصلاح و تجدید اتنی ضروری ہے کہ حضرت علیہ الرحمہ کے نزدیک سارے عربی مدارس، اور ان کے سارے طلباء کے لئے اس کی تقدیم مناسب ہے، حتیٰ کہ اگر

کسی وجہ سے سب کے لئے علی الاطلاق تقدیم نہ ہو، تو اقل درجہ حضرات علماء و اہل مدارس اسلامیہ و امت فیوضہم و برکاتہم اس قدر التزام کی تکلیف گزارا فرمائیں کہ جن کی حالت اپنی تحقیق یا ان کے استفسار سے اس تجویز کے مصالح مذکورہ بالا کی بنا پر تقدیم کی مقتضی پادیں، تو ان کے لئے ایک جدا گانہ جماعت قائم کر دیں، تو اس سے اہل حاجت کی رعایت کا ثواب بھی ملے گا، اور

امید ہے کہ مدارس میں طلبہ باخصوص امیرزادوں کی ترقی ہو جائے ، اور کوئی طالب علم باوجود کمی وقت کے محروم نہ رہے ، اور جو اہل وسعت اساتذہ کو مکان پر بٹھلا کر اس طرز سے تعلیم دلانا چاہیں استاد کو یہ نقشہ دے کر اس کی پابندی کے لئے فرمائش کر دیں۔

کاش امراء اور اہل وسعت میں دین کی اتنی حس ہو کہ وہ اس رعایت کو رعایت سمجھیں اور دنیا کی ترقی کے ساتھ اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی فلاح و نجات سے اتنی بے فکری نہ ہو ، کہ گویا مرنے کے بعد کچھ ہونا ہی نہیں ! اگر اس دنیا کی ۷۰ سال کی غیر یقینی زندگی کے لئے رادراتنی غیر یقینی کہ یقین ایک پل کا بھی نہیں ، ہم اپنی اولاد کو ۲۵-۳۰ سال ہی مسلسل تعلیم میں جوتے رہتے ہیں ، تو کس منہ سے آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں ، جب کہ آخرت کی یقینی و ابدی زندگی کو منہ وارسنے والی تعلیم و تربیت کے لئے ڈھائی تین سال بلکہ ڈھائی تین ماہ دینے سے بھی گریز کریں۔

مسئلہ معاش

ایک مخدوم بزرگ جو خود ماشاء اللہ عالم باعمل ہیں، اور ایک معرّف بزرگ و شیخ کی قائم کردہ خالص دینی درس گاہ کے ناظم ہیں، اور اسی درس گاہ میں خود اپنے بچے کو قرآن حفظ کرا رہے ہیں، باوجود اس کے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ "یہ تو بتاؤ کہ آخر حافظ و عالم ہو کر کھائیں کیا!"

اسی طرح ایک اور مخدوم و مخدوم زادہ بزرگ، جن کا ہندوستان کے ایک ایسے مشہور و مسلم خاندان سے قریب ترین تعلق ہے، جس کا فخر و امتیاز نسلہا نسل تک علوم دینیہ ہی کی طلب و خدمت رہا، اور جو ابھی ایک ہی پشت پہلے کے ایک ایسے صاحب تقویٰ و توکل مشہور و مسلم شیخ وقت کے صاحب سجادہ ہیں جن کے یہاں فاقہ ہو جانا بھی کوئی غیر معمولی بات نہ ہوتی۔ ان مخدوم کے ایک صاحبزادے جب ایم اے ہو کر ملازمت اور اس کے لئے سچی و سفارش میں سرگرداں و پریشان تھے، تو ایک موقع پر احقر نے اپنے ان مخدوم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت بے آخر اپنے خاندان کے دینی علم و توکل کے راستہ سے اولاد کو ہٹا کر اس دنیوی تعلیم و تذلیل کو کیوں پسند فرمایا! جواب دی کہ "دین اور علم دین کا پوچھنے والا اب کون ہے اور اس کو حاصل کر کے کھاتے کہاں سے! احقر نے عرض کیا، اس سے تو تجارت اور کاروبار کی کوئی راہ اہون واسلم ہوتی، اس کا جواب واقعی بڑا پر معنی اور پر لطف عطا فرمایا کہ

"میاں تجارت بڑی محنت و مشقت ہو، بشاری و بیداری کا کام ہے،

ہم تو بس ملازمت ہی کے کام کے رہ گئے ہیں، کہ سوتے جاگتے بری بھلی

طرح تیس دن کے بعد کسی پر کچھ واجب ہو جائے۔"

اس میں شک نہیں کہ ملازمت کا یہ بہترین ترجمہ ہے۔ میمن بوسرے وغیرہ نسلہا

نسل کی تجارت پیشہ مسلمان جماعتوں کا ذکر نہیں ورنہ عام مسلمانوں خصوصاً "آخوں زادوں

دیکھا کہ نوکری تودہ بڑی بھلی طرح نباہ کر اور تیس دن کے بعد کسی پر کچھ واجب کر کے
صول کر لیتے ہیں، لیکن تجارت میں اکثروں کا دیوالہ ہی نکلتے دیکھا۔

غرض جب خود ایسے ایسے خاندانی مشائخ اور دیندار علمائے دین تک اپنی اولاد
تعلیم دین سے یہ ڈر کر دور رکھتے ہیں، کہ علم دین کو حاصل کر کے کھائیں گے کہاں سے تو
پھر مادشا یا امراء کا ذکر ہی کیا جو خاندانی دنیا دار اور دینی تعلیم و روایات سے بیکر
مردم ہیں!

ایسے دیندار اور دنیا دار دونوں قسم کے مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے، کہ
کھائیں گے کہاں سے؟ یہ خوف وہی "خشیت اطلاق" (خوف افلاس) ہے جس کی بنا پر جاہلیت
کے مشرکین اپنی اولاد کو قتل تک کر ڈالتے تھے، اتنا فرق ہے کہ وہ اس خوف سے اپنی
اولاد کی چند روزہ دینی زندگی کا خاتمہ کر دیتے تھے، اور ہم ہمیشہ کی آخری زندگی کو
برباد کر دیتے ہیں! آج بھی جاہلیت جدیدہ میں ضبط تولید کی (جو قتل اولاد کی خفیہ شکل
ہے، بڑی دلیل یہی بیان کی جاتی ہے کہ آبادی بڑھتی جاتی ہے، اتنے آدمی آخر کھائیں گے
کہاں سے!

اس کا حقیقی جواب نئے اور پرانے سب جاہلوں کو قرآن نے جو دیا ہے وہ ایسے
مسلمانوں کے لئے اور زیادہ حقیقی ہے، جو "خوف افلاس" کی بنا پر اپنی اولاد کو تعلیم دین سے
محروم رکھ کر دنیا کی غیر یقینی زندگی کو بنانے سے زیادہ آخرت کی یقینی زندگی بگاڑتے ہیں۔
جواب یہ ہے کہ "تمہاری اولاد کو بھی وہی خوارزق دیگا جس نے تم کو دے رکھا ہے،

نحن نرزقہم وایاکم اگر ہم کسی درجہ میں بھی مسلمان ہیں اور قرآن پر ہمارا
کچھ بھی ایمان ہے، تو خوب یاد رکھنا چاہیے، کہ قرآن کے خدا نے انسان کو کھانے کمانے کی
فکر میں فاسد کر مرنے کے لئے ہرگز نہیں پیدا فرمایا ہمارا "زیتن برائے خوردن" نہیں بلکہ خوردن برائے
زیتن ہے، اور زندگی کا اصل مقصد و عبودیت و بندگی کے فرائض کی ادائی ہے، صاف صاف
دو ٹوک ارشاد ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ما اريد ان

منہم من رزق و ما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق

ذوالقوة المتین

میں نے جن و انس کو محض عبودیت و بندگی کے لئے پیدا کیا ہے، رزق کی فکر کے لئے نہیں پیدا کیا

ہے اور نہ اس لئے کہ مجھ کو کھلائیں رازق تو سب کا صرف اللہ ہی ہے وہی رزق رسانی کی پختہ قوت رکھتا ہے،

باقی اپنی بندگی و عبدیت کو بھلا کر رزاقیت کی تدبیر و قوت کے مدعی انسان کی واماندگی کا تماشہ جو مسلسل سالہا سال سے دیکھا دکھلایا جا رہا ہے، تاریخ نے تو کب دیکھا ہوگا، لیکن آج ہر آنکھ والے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف تو "زلیتن" کا مطلب تمام تر "خوردن" قرار دے لیا گیا ہے اور حکومت و سیاست سب کا اصل مطلب و مقصود پکار پکار کر فخریہ روٹی کپڑا بتایا جاتا ہے دوسری طرف عالمگیر جنگ کے سلسلہ میں اور خصوصاً اس کے بعد ساری دنیا جس طرح عالمگیر قحط کے چنگل میں پھنسی ہے، اس کے ازالہ کی ہر روزہر حکومت کی جانب سے طرح طرح کی تدبیروں کا اعلان کیا جاتا ہے، فراہمی غذا کی مستقل وزارتیں اور محکمے قائم ہیں ہر دن قومی و بین الاقوامی کانفرنسیں منعقد ہوتی رہتی ہیں ساری حکومتوں نے رات باندی کر رکھی ہے، یعنی ناپ تول کر دو وقت کا برا بھلا غلہ حوالہ کر دیا جاتا ہے جو اکثر صورتوں میں انسان کی معمولی مقدار غذا کا نصف سے زیادہ نہیں ہوتا ہے اس پر بھی دقت فوقتہ تحقیق و تفصیل کی دھمکی اور اطلاع شائع ہوتی رہتی ہے کہ بس ایک مہینہ یا دو مہینہ کا غلہ رہ گیا ہے، اور آئندہ فلاں مہینہ بڑا نازک آنے والا ہے۔ امریکہ جو دنیا کا سب سے دولت مند خوشحال ملک ہے ابھی روم راکتوبر ۱۹۴۷ء کے پانیریں وہاں کے غذا و زراعت کے ڈائریکٹر جنرل کا بیان چھپا ہے کہ

"اس موسم سرما میں ایسے شدید قحط سے دوچار ہونا ہے جو دنیا میں

کبھی نہ پڑا ہوگا، اور جس کا مقابلہ ہر طرح کی معاشی تدابیر اور قومی بین الاقوامی اجتماعی جدوجہد ہی سے ممکن ہوگا"

انسان نے جس طرح اپنے خالق سے منہ موڑا ہے، اس کی سمجھ میں تو آنا اب مشکل ہے، لیکن راقم ہذا کو یہ روز افزوں و عالمگیر قحط نہیں، بلکہ عالمگیر قہر ہی نظر آ رہا ہے اور قرآن مجید میں جا بجا جو رزق و رزاقیت کا ذمہ بالکلیہ حق تعالیٰ نے خود لے کر، نہ صرف یہ کہ انسان کو عبدیت و بندگی کے لئے فارغ و بے فکر فرمانا چاہا ہے، بلکہ غور کیجئے تو اس دنیا میں اس کی سب سے جامع الصفات صفت ربوبیت کا سب سے بڑا اور نمایاں مظہر رزاقیت ہی ہے، اور انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر بالکلیہ اپنے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر، نہ صرف

اللہ تعالیٰ کی اس صفت خاصہ میں اپنے کو شریک و سہیم ٹھہرا رہا ہے، بلکہ دراصل خدا کی خدائی چھین کر خود خدا بن بیٹھا ہے۔ اس کے بعد اگر اس کا قہر و عذاب اسی قبض رزق کی راہ سے ظاہر ہو، تو عین سنتہ اللہ ہے۔

اپنا تجربہ تو اپنے اکثر عزیزوں و دوستوں کے انفرادی واقعات تک میں یہی ہے اور جو بھی ذرا غور کرے گا، اس کو تجربہ ہو گا، کہ معاش و رزق کا معاملہ کچھ مِنْ حَبِثُ لَا یُحْتَسِبُ ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور تدبیر کے تیر بالعموم اپنے نشانہ سے ہٹ کر ہی گرتے ہیں، بارہا دیکھا کہ انگریزی تعلیم میں بھی طالب علمی میں جن کو بڑا ہونہار خیال کیا جاتا تھا وہ کچھ نہ ہوئے، اور جن کو آہنوں سمجھا گیا، وہ ان ہونہاروں سے میدانِ معاش میں کہیں آگے نکل گئے۔ یہی تجارت وغیرہ ہر چیز میں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، کہ بارہا جس شخص اور جس چیز کی تجارت کے چلنے کے ظاہری اسباب زیادہ ہوتے ہیں، وہ رہ جاتی ہے اور جس کے ظاہری امکانات کم ہوتے ہیں، وہ چل جاتی ہے باقی یوں لکات بعد الوقوع تو ہر واقعہ میں نکال ہی لئے جاتے ہیں۔

الغرض کوئی اور سمجھے نہ سمجھے، مگر مسلمان کو اس کے سوا

بڑی ایمانی خامی

فرانی، قبض و بسط، عطا و منع بالکلیہ ان کے رب کی ربوبیت و مشیت پر منحصر ہے۔
 اِنَّ رَبَّكَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَ یَقْدِرُ اَوْکُمْ یَعْلَمُونَ اللّٰهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَ یَقْدِرُ ————— وغیرہ کثیر آیات نے اس باب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے کہ رزق کے ظاہری اسباب بس ظاہری سے زیادہ نہیں، اس نے غیروں کی طرح ان میں اتنا غلو و فنا کہ گویا اسباب و تدابیر ہی حقیقی رزاق ہیں، نہ اسلام ہے نہ اسلام کے خدا پر ایمان، اور نہ حقیقی اسلام اور نہ حقیقی مسلمانوں کی تاریخ و زندگی ہی سے اس کی شہادت ملتی ہے۔ یہ تو دراصل زبان سے خدا کا اقرار اور عمل سے اپنی خدائی کا اعلان ہے۔ اس قسم کے تصورات کو جب تک دماغ بدر نہ کر دیا جائے، اس وقت تک اسلام کی دینی و دنیوی برکات اور انفرادی و اجتماعی ثمرات کی توقع کا حق ہی کیا حاصل ہے۔

یہ تو اس سوال کی کہ عربی یا دینی تعلیم حاصل کر کے کھائیں گے

بڑی خود فریبی

کیا بڑی خطرناک ایمانی و اعتقادی خامی تھی۔ ایک دوسری

بڑی خود فریبی اور مغالطہ یہ ہے کہ کھانے سے مراد ضروریات زندگی سے زیادہ فضولیات زندگی ہوتی ہیں، یعنی ہم نے کھانے پینے، رہنے، پہنے، شادی بیاہ، مکان اور سامان زندگی کے تمام جاری و وقتی مصارف کا ایک خود ساختہ معیار مقرر کر رکھا ہے، جب تک وہ پورا نہ ہو، اس وقت تک ہم سمجھتے، اور کہتے ہیں، کہ کھانے ہی کو نہیں مل رہا ہے۔ حدیہ کہ امراتک سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آخر آپ کو اس کی کیا حاجت ہے، کہ دینی تعلیم سے محروم رکھ کر اولاد کو کجی و کلکٹری کے لئے دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، تو جواب یہی ملتا ہے، کہ اگر ہماری آمدنی زیادہ ہے، تو ہماری حیثیت و مصارف بھی تو ویسے ہی ہیں، یعنی اس حیثیت جاہ و مال کو موجودہ آمدنی میں اضافہ اور جاہی مناصب حاصل کئے بغیر کیسے برقرار رکھا جاسکتا ہے۔ یہ ایسی منطق ہے کہ جاہ و مال کے کسی ادبے سے ادبے مقام پر پہنچ کر بھی لا جواب نہیں ہو سکتی۔

ورنہ ابھی حب جاہ و مال کی اس عالمگیر جنگ سے پہلے اسی ہندوستان میں زندگی کی نفس ضروریات پانچ ساٹ روپیہ ماہوار سے زیادہ نہ تھیں، یعنی چھوٹے بڑے چار پانچ آدمیوں کے گھر کے لئے پچیس تیس ماہوار نفس ضروریات کی حد تک بلا کسی تکلیف و تنگی کے کافی ہوتے تھے، اور بہترے مولوی بلکہ اچھے اچھے علماء اس سے بھی کم میں گذر فرماتے تھے، خود حضرت علیہ الرحمہ کی تنخواہ کانپور میں پچیس روپیہ ماہوار تھی، جو حضرت کے علم و فضل کے لحاظ سے کیا کھتی، پھر بھی حضرت نے اس کو بہت بڑی تنخواہ سمجھا تھا، اور فرماتے کہ ”میں طالب علمی میں سوچا کرتا تھا، تو زیادہ سے زیادہ دس روپیہ ماہوار کی مدرسہ اپنی ضروریات معاشی کے لئے کافی سمجھتا تھا، (اس میں بھی، پانچ روپیہ اپنے خرچ کے لئے اور پانچ گھر کے خرچ کے لئے، اس سے زیادہ کی تنخواہ پر کبھی نظر ہی نہ جاتی، نہ اس سے زیادہ کا اپنے کو مستحق سمجھتا۔“

(اشرف السوانح حصہ اول ص ۴۷)

خود راقم ہذا کو اپنے گھر کا تجربہ ہے کہ حضرت والد مرحوم دیہاتی وہ بھی **آپ بیتی** نہایت قانع و متوکل طبیعت کے طیب تھے، خرچ اوسطاً ۸، ۱۰، ۱۲ آدمیوں کا اندر باہر دو ایک نوکر چاکر بھی۔ کھانے پینے رہنے پہنے، شادی بیاہ سب کا معیار اوسط درجہ کے شرفار اور اہل برادری کا، مگر آمدنی کا اوسط شاید ہی کبھی ۳۰-۴۰ سے بڑھتا ہو۔ نہ آمدنی میں ترقی کی کبھی کوئی فکر فرمائی۔ البتہ اللہ اور اللہ والوں سے تعلق میں ترقی کی فکر آخر

دم تک رہی۔ حضرت مولانا محمد نعیم صاحب فرنگی محل رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و اجازت کے باوجود ان کی وفات کے بعد حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آخر تک برابر اصلاح استفادہ کا تعلق جاری رہا۔ زیادہ عبرت و سبق کی بات یہ کہ گھر بھر میں چھوٹے بڑے سب کو قلب کی جو راحت و طمانیت یا دل کا جو سکھ چین نصیب تھا، وہ اس نالائق نام لیوا اور اس کے متعلقین کو سیکڑوں ہزاروں کی آمدنی اور کوٹھی و موٹر میں بھی میسر نہ ہوا، ہاں گھر بھر میں والد علیہ الرحمہ کے اس رنگ و برکت کا وارث والدہ مدظلہا کا دم رہ گیا ہے (رب ارحمہا کما ربیانی صغیراً) برکت کی حقیقت بھی ان اللہ والے والدین ہی کی زندگی و آمدنی کو دیکھ کر سمجھ میں آئی۔

باقی اپنی سیکڑوں ہزاروں کی آمدنی کوٹھی موٹر نوکر چاکر سب کے چوتھائی صدی کے تجربات کی میزان اپنے ایک حکیم اور حکیم طبع استاد مولانا شیر علی صاحب مرحوم، کے ایک بڑے ہی حکیمانہ فقرہ کے سوا کچھ نہ نکلی۔ مولانا ندوہ میں جب راقم الحروف آخری جماعت میں تھا، صدر مدرس و مہتمم تھے، پھر جامعہ عثمانیہ میں شعبہ دینیات میں علم کلام کے استاد مقرر ہو گئے تھے، مشاہیرہ چھ سو ماہوار تھا، ابھی تک موٹروں کے بجائے گھوڑا گاڑی کا چلن وہاں زیادہ تھا، اکثر عہدہ دار خود اپنا گھوڑا گاڑی رکھتے تھے، مولانا کے پاس بھی کئی جس پر یونیورسٹی تشریف لاتے تھے۔ کچھ دن بعد دیکھا کہ کرایہ کی گاڑی پر تشریف لانے لگے۔ عرض کیا کہ حضرت گھر کی گاڑی کیا ہوئی فرمایا نکال دی دو گھنٹے اس پر میں سوار ہوتا تھا چوبیس گھنٹے وہ میرے اوپر سوار رہتی تھی!

اس وقت تو یہ حکیمانہ بات سمجھ میں نہ آئی، اور مولانا کی پیرانہ سالی اور کم ہمتی کا تقاضا معلوم ہوئی، لیکن اس کے بعد خود گھوڑا گاڑی بھی رکھی، موٹر بھی رکھا، سو ماہوار تک کی کوٹھی، بنگلہ کا بھی مزا چکھا، لکھنؤ میں ایکڑ بھر زمین میں خود اپنی دو منزلہ لمبی چوڑی کوٹھی بنائی لان اور پھلواری، نوکر چاکر، سامان اور فرنیچر سب ہی کا ٹھاٹ اپنی حیثیت و حوصلہ سے بڑھ کر دیکھا دکھلایا، مگر خدا کو گواہ کر کے گواہی دیتا ہوں کہ جیسا جیسا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی جوتیوں کے تعلق سے کچھ عقل ٹھکانے ہونے لگی، ویسا ہی ویسا اس سارے فخر و نمائش کے ساز و سامان کو راحت و آسائش سے زیادہ خود اپنے دل و دماغ پر سوار پالنے لگا، اور بالآخر کچھ عرصہ بعد حیدر آباد

ہی میں جب ایک محب و محسن کی ہمت و احسان سے جامعہ کے قریب ایک نو تعمیر مسجد کے احاطہ ہی میں خاص اس راقم احقر کے لئے دو حجرے تیار ہو کر ان میں قیام نصیب ہوا، تو بلا مبالغہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دل و دماغ قید کی کوئی بڑی سزا جھیل کر یا ہر آگیا ہے! اور آج کی لکھنؤ کی ذاتی طویل و عریض کوٹھی میں بیٹھ کر حیدر آباد کی کوئی چیز یاد آتی ہے، تو شہر و شہریت سے دور مسجد اقصیٰ کے یہی دو حجرے اور اسی زاویہ کے دو چار لانے گئے عنایت فرما۔ لکھنؤ کی اپنی کوٹھی کا معاملہ بھی دارم چراپنیو شتم کا ہو رہا ہے۔ ورنہ اب کوٹھی کے بجائے کوٹھری ہی کو دل ڈھونڈتا ہے، یہ تو آپ بیتی تھی، جگ بیتی بھی جو کچھ وطن و دکن ہر جگہ دیکھی اور سنی وہ یہی کہ بڑے بڑے عہدہ دار اور بلند مناصب وزراء و امراء بظاہر جاہ و مال سب کچھ رکھ کر بھی سب کے سینہ کے اندر ہل من مزید کے مقابلہ و مسابقت کی بھیڑ دیکتی رہتی رہتی ہے اور بالعموم اسی کے انگاروں میں لوٹے لوٹے دم نکل جاتا ہے۔

گو یا خدا سے کوئی واسطہ نہیں | یہ اپنی پرانی بظاہر طویل داستان اپنے مقصد و مفاد

کے اعتبار سے طویل نہیں قصیر ہی ہے، اس لئے کہ دنیا کی جس طلب میں دین و آخرت کا ہوش نہ رہے، جائز و ناجائز کی تمیز اٹھ جائے، دوزخ و جنت کا خون و شوق دل سے نکل جائے، خدا کی رضا و ناراضی کا غم نہ ہو تو یہ تو (معاذنا اللہ) مومن و ایمان کے منافی کافر و کفر کی دنیا کے سوا کیا ہے، اور یہ دنیا کی طلب نہیں، دنیا کا عشق بلکہ جنوں ہے، بقول حضرت علیہ الرحمہ کے "کسب دنیا یا دنیا کے کانے کا مضائقہ نہیں" مگر یہ نہ کہ اس میں بالکل کھپ جائے کہ گو یا خدا تعالیٰ سے بالکل واسطہ ہی نہیں یہ تو کافر کی زندگی کی خاص شان ہے، کہ گو یا خدا سے کوئی واسطہ نہیں۔

مومن کی شان | اور مومن کی زندگی کی خاص شان یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے بس مسافر اور سرائے کا سائق رکھتا ہے

لے ڈاکٹر محمد عثمان خاں رکن شعبہ تالیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ جو اپنی ذات صفات سے سراپا کرم و احسان ہیں۔ یہ مسجد شہر کے بالکل کنارے اور دور (جو لفظ اقصیٰ کے معنی ہیں) واقع ہے جہاں اب جامعہ کی بدولت کچھ آبادی ہو چلی ہے مولانا گیلانی احقر کے ساہا سال کے رفیق قیام و طعام بھی اسی مسجد کی جوار میں تشریف فرما تھے اور اس مسجد کا "مسجد اقصیٰ" نام تو ایک اور دوست نے تجویز کیا تھا مگر اس کا تائید نام ثابت ہونا مولانا ہی کی یادگار ہے۔

باقی فکر و عمل جدوجہد کا اصل تعلق خدا و آخرت سے ہوتا ہے اور جو دنیا میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے یہ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ

پورا خلل دماغ | ایسا ہی ہے جیسے کوئی سرائے میں یہ تمنا کرے کہ یہاں بھاڑ فانوس سب لگا دیئے جائیں اور

پھر اپنی کمائی سے خرید کر لگا بھی دے تو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی حماقت ہے خاص کر جب یہ بھی حکم ہو مثلاً اس سرائے میں چار دن سے زیادہ کوئی قیام نہیں کر سکے گا، اس وقت تو اپنی کمائی وہاں کی تزیین میں لگانا پورا خلل دماغ ہے۔ اور دنیا ایسی ہی محدود قیام کی سرائے ہے کہ اس حد کے بعد بلا اختیار یہاں سے نکل جانا پڑے گا، تو اول تو سرائے میں قیام اگر اختیاری بھی ہو تب بھی یہی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ گھر کا سا معاملہ نہ کرے اور جب اختیاری بھی نہیں تب تو ہرگز بھی اس میں دل نہ لگانا چاہیے۔

اور یہی معنی ہیں میرے نزدیک (الدنيا سجن المومن) | **الدنيا سجن المومن** لوگوں نے اس حدیث کے مختلف معنی لئے ہیں مگر میں

کہتا ہوں جیل خانہ تکلیف دغیرہ کی وجہ سے نہیں فرمایا، بلکہ اس لئے کہ جیلخانہ میں جی کبھی نہیں لٹا کرتا، خواہ کیسا ہی عیش ہو تو مسلمان کی شان ہے کہ دنیا میں اس کا جی نہ لگے، اگرچہ بظاہر اس میں کیسا ہی عیش و آرام ہو، کیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر ہے اور دنیا گھر نہیں، پھر جب جی نہ لگے گا، تو کیوں ہوسین ہوں گی، اور کیوں سوچے گا کہ یوں ہو اور یہ ہو، اور وہ ہو، بلکہ اب یوں سوچے گا، کہ دنیا تو پردیس ہے، یہاں جس طرح کبھی گذر جائے۔ اور دنیا کی بجائے آخرت کی سوچ ہونی چاہیے، اور یہ سوچے گا کہ اگر یہ سامان ہو گیا، تو پھر وہاں یوں بہار ہوگی، یوں عیش ہوگا، ورنہ یوں پریشانی ہوگی، یوں مصیبت ہوگی۔

لیکن ہماری زندگی ہمارے برتاؤ اور معاملات سے (إلا ما شاء الله) بس ایسا

ہی معلوم ہوتا ہے کہ

جیسے کوئی منکر آخرت ہو | کیونکہ جتنی محبت دنیا کی ہے آخرت کی نہیں، نہ اس کا اتنا

شرق ہے چنانچہ دلوں کو ٹوٹ کر دیکھ لیں کہ دنیا میں قیام کی بابت ہم لوگ کیا خیالات پکاتے ہیں، کہ یوں رہیں گے، یوں کریں گے، جائداد ہوگی، ملازم ہوں گے، ڈپٹی کلکٹر ہوں گے، وغیرہ وغیرہ

”اب انصاف سے دیکھو کہ آخرت کے متعلق بھی کبھی ایسی امنگیں ہوتی ہیں، کہ مرجائیں گے تو خدا کے سامنے جائیں گے، یوں جنت ہوگی، اس میں باغات ہوں گے، مکانات ہوں گے، حوریں ہوں گی، غالباً کبھی یہ امنگیں نہیں ہوتیں، بلکہ خیال بھی بہت کم آتا ہے۔“

”بعض ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی خوشی کا کوئی سامان نہیں، اور وہ یوں کہیں گے کہ صاحب ہم تو دنیا کی خوشیاں نہیں مانتے، بلکہ ہم تو سوچا کرتے ہیں، کہ کوئی دالی وارث نہیں، زندگی کیسے کٹے گی، تو ان سے یہ شکایت ہے کہ جیسے تم نے دنیاوی زندگی کو سوچا کبھی آخرت کو بھی سوچا، اور وہاں کی مصیبت کا بھی خیال کیا کہ وہ زندگی کیسے کٹے گی، دوزخ میں جانا پڑا، تو وہ مصیبت کیسے سہی جائے گی، پھر جیسے یہاں تکلیف کو سوچ کر تدبیر سوچتے ہو، کہ شاید فلاں تدبیر سے یہ تکلیف کٹ جائے یا فلاں تدبیر سے مشکل آسان ہو جائے، ایسے کبھی آخرت کی مصیبت کے لئے بھی سوچا حالانکہ دنیا کے

آخرت کی کوئی مصیبت لا علاج نہیں | مصائب بعض ایسے

ہیں جن کی کوئی تدبیر ہی نہیں، اور اس لئے اس کو سوچنا ہی عبث ہے، مگر پھر سوچتے ہو، اور آخرت کی کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں جو لا علاج ہو، بلکہ ہر مصیبت کی تدبیر موجود ہے، لیکن پھر اس کا ذکر نہ فکر (الرفیق ص ۳۳ و ۳۴)

خدا و آخرت سے بے تعلقی و بے فکری کا یہ حال صرف عام داروں ہی کا نہیں جو لوگ اپنے کو دیندار سمجھتے اور سمجھے جاتے ہیں، ان کا حال بھی اس معاملہ میں کچھ بہتر نہیں، ارشاد ہے کہ ”دنیا دار تو الگ رہے دینداروں کو بھی آخرت کے متعلق نہ امنگیں پیدا ہوتی

ہیں، نہ اندیشہ، حالانکہ خدا تعالیٰ صاف صاف فرماتے ہیں یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ

وَلتَنْظُرْ لِفَتْنٍ مَّا قَدْ مَتَّيْخِدِ

پھر جو لوگ علم بھی دنیا کا نہیں دیں ہی کا حاصل

حضور کی پسندیدہ زندگی

کرتے ہیں ان کو بھی اگر دین و آخرت کی اُمنگوں اور اندیشوں کے بجائے اس کی فکر دامن گیر رہے کہ کھائیں گے کہاں سے تو یہ کیسے ظلم و حسرت کی بات ہے، اُن کی زندگی تو اُمت کے لئے مثال و اسوہ ہونا چاہیے اور ان کا اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہونا چاہیے کہ حضور کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لئے کیسی زندگی پسند مامور تھی۔ اس کا اندازہ اس سے کرو کہ لوگوں کی آسودہ حالی سے متاثر ہو کر ازواجِ مطہرات کو بھی کچھ طبعاً اس طرف میلان ہوا، اور حضور سے کچھ مزید نان نفقہ اور سامان کی درخواست کی، جو حضور کے قلبِ مبارک پر اتنی گراں گزری کہ ایک مہینہ گھر میں نہ جانے کی قسم کھالی، بالآخر یہ آیت اتری۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا دَرِيئَتْهَا فِئْتَالَيْنِ
 اُتْبِعِكُنَّ رَأْسُوجِكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا فَإِن كُنْتُنَّ تَرْتَدْنَ
 إِلَهُ وَرَسُولَهُ وَالْأَرْوَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ أَخَذَ مِنْكُم مِّثْقًا عَظِيمًا۔

جس کا خلاصہ یہ کہ حضور کو امر ہوا کہ صاف صاف اپنی بی بیوں سے فرمادیں کہ اگر تم کو دنیا اور اس کا ساز و سامان مطلوب ہے تو میرا تمہارا نباہ نہیں ہو سکتا، اور اگر تم عطا اور رسول کی رضا و خوشنودی اور آخرت کے مراتب و انعامات کی طالب ہو تو ایسی نیک بی بیوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں عظیم الشان اجر و انعام مہیا فرما رکھا ہے۔

ازواجِ مطہرات، آخر ازواجِ مطہرات تھیں، سب کی آنکھیں اتنی ہی تینہ سے کھل گئیں، اور پھر مدتِ النحر حضور کے ساتھ خوشی خوشی فقر و فاقہ میں گذاردی، کیونکہ حضور کے ہاں بارہا فاقہ ہو جاتا تھا، قرض لینے کی نوبت آ جاتی تھی، اور حضور کا یہ فقر و فاقہ اضطراری نہیں بالکل اختیاری تھا، جس کو حضرت مجدد تھا نوسی علیہ الرحمہ نے فقر صادق سے تعبیر فرمایا ہے :-

”جس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ دلچسپی ہو اور دلچسپی
فقر صادق اس کو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کو فقر محبوب
 تھا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے لئے بھی اس کو تولاً و عملاً اختیار کر کے دکھلایا، تولاً
 تو یہ کہ خدا تعالیٰ سے دعا کی، اللھم اجعل رزق آل محمد قوتاً، اے اللہ
 محمد کی اولاد کو رزق بقدر گذر اوقات عطا فرما۔

اور عملاً یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سب خاندان سے زیادہ

محبوب تھیں، لیکن ایک مرتبہ جب اُن کے ہاتھوں میں چکی چلانے سے چھالے پڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی لونڈی غلام کی درخواست کی، تاکہ کچھ مدد ملے، آپ نے فرمایا کہو تو لونڈی غلام دوں اور کہو تو اس سے بھی اچھی چیز دیدوں، یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر نہ پوچھا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے، بلکہ فوراً عرض کیا کہ اچھی چیز یہ دیدیجئے، آپ نے فرمایا سوتے وقت سُبْحَانَ اللہ تینتیس بار اَلْحَمْدُ لِلّٰہ تینتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار پڑھ لیا کر دے بس یہ لونڈی غلام سے بہتر ہے، اس خدا کی بندی نے خوشی خوشی قبول کر لیا، تو دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر محبوب تھا، تو اپنی اولاد کے لئے اس کو تجویز کر کے دکھلادیا (رفیق ص ۲۴) اور جو اولاد کے لئے محبوب تھا، محبوب اصل میں وہی امت کے لئے بھی تھا جیسا کہ اس عمومی ارشاد سے ظاہر ہے کہ مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَانِي فِي جَسَدِهِ وَامْنًا فِي سَرِيهِ عِنْدَ قَوْتِ يَوْمٍ فَكَأَنَّمَا حَبَّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا حَبْزَ أَفِيرِهَا۔

یعنی جس کو جسم کی صحت و عافیت، اور دل کا امن و چین نصیب ہو، اور ایک دن کا کھانا پاس ہو تو گویا ساری دنیا جمع گئی

البتہ یہ ضعفائے امت کے حال پر ارحم الراحمین و رحمتہ للعالمین کی شان رحمت تھی کہ جائز حد تک دنیا کے کسب و طلب کی اجازت و اباحت فرمادی، لیکن دنیا کا ایسا عشق و جنون کہ "جیسے کوئی منکر آخرت ہو یا جیسے خدا سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اس کی اگر اجازت ہو تو پھر دین و دنیا کا فرد مومن کا جھگڑا ہی کیا رہا۔"

(۱) الغرض اسلامی و دینی زندگی کے لئے سب

مومن کی معاشی منطق

سے مقدم یہ ہے کہ ہر کام میں یوم دین اور

مالک یوم دین سے معاملہ و واسطہ پیش نظر ہو، اس کے بعد دنیاوی زندگی کے سارے مسائل و مشکلات از خود حل و سہل ہو جاتے ہیں، اس لئے کہ ان کی قدر و قیمت وزن و اہمیت ہی مستقل مسائل و مقاصد کی نہیں رہ جاتی نہ اپنی سی و عمل کا سارا زور کوئی ہوشمند اس دنیا کے کھانے پینے، عیش و آرام پر اس طرح لگا دینے کو راضی ہو سکتا ہے، کہ ساری جدوجہد اسی ادنیٰ یا خیس و حقیر زندگی میں گم ہو کر رہ جائے، اور پھر حسن فہم یہ کہ بڑا کار نمایاں انجام دے رہے ہیں

ضَلَّ نَعْيُهُمْ فِي الْخَيَوَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا
یہ تو بقول حضرت علیہ الرحمہ کے دیا ہی خلل دماغ ہوگا، جیسا کوئی شخص کسی منزل مقصود
کو بھلا کر ویٹنگ روم اور ہوٹل یا مسافر خانہ اور سرائے کے چند ساعت یا چند دن کے
قیام کے لئے اپنے فکر و عمل کی ساری قوت اس کی زینت و راحت پر خرچ کر ڈالے ہوائے
سفر میں تو آدمی کو اگر دو ایک وقت کھانا بھی نہ ملے، اور فاقہ ہو جائے، تو بھی زیادہ پروا
نہیں کرتا، چہ جائیکہ کسی ایسی سرائے میں مستقل جی، لگا بیٹھے، جہاں سے نکال دیا جانا یقینی ہے یہ
دُخْرِبَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنَ ابْنُهَا
تو خاص کافر و منکر آخرت ہی کا شیوہ ہے
اور انہی کو مبارک ہو۔

(۲) دوسری بات جو منکر کے مقابلہ میں مومن بالخصوص اہل علم مومن کے پیش نظر رہنے
کہ ہے، وہ ہمارا یہ ایمان و اعتقاد ہے، کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کی طرح رزق اور اس کا قبض و بسط
یا فراخی و تنگی بھی بالکلیہ حق تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور پہلے ہی سے اس کا سارا پروگرام یا نظام
عمل متعین و مقدر ہو چکا ہے، اس طرح اصل نظر اسباب کے بجائے مسبب الاسباب اور تدبیر
کے بجائے تقدیر پر رہنا عین ایمان ہے جس کے بغیر ایمان ہی صحیح اور پورا نہیں ہوتا، جو کچھ
خدا دینا چاہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو کچھ وہی نہ دینا چاہے، تو کوئی دے نہیں سکتا،
(لَا مَعْطَىٰ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَبْلَغَ لِمَا أَعْطَيْتَ) حدیث میں تو صاف صاف ہے کہ
کوئی بندہ بلا ان چار باتوں پر ایمان لائے مومن نہیں ہو سکتا، ایک توحید (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)
دوسرے رسالت محمدیہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تیسرے آخرت یا بعثت بعد الموت اور چوتھے تقدیر
(۳) تیسرے جو ان دونوں مقدمات کا لازمی نتیجہ ہے، کہ اس دنیا کی زندگی میں مومن
بس زیادہ سے زیادہ اپنی سعی و طلب کو ضروریات زندگی تک محدود رکھے، اور فضولیات زندگی
کی فکر و سعی قطعاً وقت عزیز کو گنونا ہے اور طفلانہ لہو و لعب سے زیادہ نہیں۔ البتہ بلا اضاعت
وقت اور بلا ابتلا لہو و لعب کچھ راحت کا سامان بھی میسر ہو جائے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا

۱۰ الفاظ یہ ہیں، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ
يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَيُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَالْبَعْثِ
بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ

اس طرح ایک انعام و احسان جان کر متمتع ہو جس سے خدا و آخرت کا تعلق اور بیدار و پابند رہو البتہ راحت بھی یاد رہے کہ اصل میں قلب کی راحت کا نام ہے۔

اور یہ بات کان کھول کر دین داروں ہی کو نہیں دنیا داروں کو بھی سن اور سمجھ لینی چاہیے جیسا اور اپنے اور پرانے سب کے تجربات سے واضح کیا جا چکا کہ قلب کی راحت یا دل کے سکھ چین کا راز مادی ساز و سامان یا فضولیات کی بہتات میں نہیں بلکہ ضروریات زندگی پر قناعت ہی میں پوشیدہ ہے اور ساتھ ہی اگر ایمان و عمل صالح یا دینداری کی زندگی بھی نصیب ہو تو حیات طیبہ کی موعودہ زندگی کا تجربہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے جس کا جی چاہے آزما کر دیکھ لے۔

مومن کی معاشی بے شکری

سو آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ مومن کامل کے اس سوال کا

کہ "کھائیں گے کہاں سے" کیا کامل و سہل حل موجود ہے، بلکہ جس کو معاش کی فکر پریشانی کہا جاتا ہے ایمانی زندگی سے جسم و جان کو گھلانے والی یہ فکر معاش دراصل سرے سے خارج ہو جاتی ہے اور یہ سوال سرے سے بے معنی ہو جاتا ہے، کہ دینی یا عربی تعلیم حاصل کر کے کھائیں گے کیا، خصوصاً علم دین کی تحصیل و تعلیم کی ہمت و سعادت رکھنے والوں کا یہ سوال تو اور بھی بے معنی ہے اس کے معنی تو صرف یہ ہیں کہ ابھی علم دین کی ابجد بھی نہیں سمجھی اور دستار فضیلت باندھ لی۔ اس لئے جیسا کہ اوپر تصریح و تاکید کے ساتھ عرض کیا گیا ہے زندگی میں دین پیدا کرنے کے لئے تعلیم دین کے ساتھ ساتھ تربیت دین لازم بلکہ لازم ہے کیونکہ تربیت بلا تعلیم تو دیندار بنا دیتی ہے، لیکن تعلیم بلا تربیت سے شاذ و نادر ہی دین پیدا ہوتا ہے۔

تعلیم دین کے ساتھ تحصیل معاش

تاہم انسان ایک تو بالطبع اس عالم

اسباب میں اسباب و تدابیر کا سہارا ڈھونڈتا ہے اور اس سے تسلی پاتا ہے دوسرے وقت کے حالات جبکہ ہر طرف پیٹ ہی پیٹ کی پکار ہے اور پھر ہمارے عام ایمانی و اعتقادی ضعف و اضمحلال کی بنا پر حضرت مجدد وقت نے تعلیم دین کے ساتھ بقدر ضرورت تحصیل معاش کے ظاہری اسباب کا بھی جائز و مستورہ دیا ہے۔ اگرچہ ایسے غیر مستطیع علمائے دین کی جو اپنا

سارا وقت خدمت دین میں صرف فرماتے ہوں معاشی کفالت اسلامی حکومت یا بیت المال اور اغنیائے امت کے ذمہ ہے۔ جیسا کہ اوپر خود حضرت علیہ الرحمہ "اللفقر والذین احصرو فی سبیل اللہ" کی تفسیر سے تفصیل واضح و ثابت فرما چکے ہیں، لیکن جب نہ ایسی اسلامی حکومت نہ بیت المال نہ اغنیائے امت کو اس کا ادراک نہ ہمت تو علمائے امت کی مزید سعادت اسی میں ہے کہ گذر اوقات کے بقدر تدبیر معاش کی خود ہی ہمت فرمائیں۔ اس ہمت افزائی کی مثالیں اسلاف امت کے اکابر ائمہ میں بے شمار موجود ہیں اور تلخیصات عشر کی تمہید کو بھی حضرت نے اس مشورہ پر ختم فرمایا ہے کہ جو لوگ صرف اُردو کتب دینیات کے ذریعہ احکام دین حاصل کرنے کے بجائے اور علوم دین حاصل کرنا چاہیں، (۱) تو صنعت و حرفت یعنی دستکاری و پیشہ سے معاش حاصل کرنے میں بہت آسانی و سلامتی ہے۔

(۲) اور عربی تکمیل کرنے والوں کے لئے چند صورتیں معاش کی مناسب ہیں، اسکول میں نوکری کر لینا، مطب کرنا، مفید رسالے یا حواشی تصنیف کر کے یا درسی کتابیں چھپوا کر ان کی تجارت کرنا، کاپی نویسی کرنا، کسی مطبع میں تصحیح کی نوکری کرنا اور سب صورتوں میں اوقات فراغ میں مطالعہ و تدریس کا شغل رکھنا یا کسی اسلامی مدرسہ میں مدرسہ کرنا بشرطیکہ چذہ کی درآمد و برآمد سے تعلق نہ ہو۔

باقی اصل راہ علم دین حاصل کرنے والوں کی وہی ہے، کہ
 "اگر غنائے ظاہری و باطنی یعنی ثروت یا قوت توکل حاصل ہو تو محض حبسہ لہذا پنے کو دینی خدمات تدریس و تالیف و عطا و انفا وغیرہ لیئے وقف کر دیں"

اس مشورہ کے پیش نظر اور اس میں آسانی و سہولت پیدا کرنے کے لئے راقم ہذا کے خیال میں مدت سے یہ بات ہے کہ خود عربی و دینی مدارس ہی میں اور زمانہ تعلیم و تعلم ہی میں طلباء سنت و حرفت اور تجارت کی مختلف و مناسب صورتوں سے مناسبت و ذوق پیدا کر دیا جائے، جس کی تدبیر یہ ہے کہ کم از کم ہر بڑے مدرسہ میں ساتھ ساتھ ایک مطبع بھی ہو جس میں مفید درسی و غیر درسی دینی کتابیں شائع ہوں جس کے ذیل ہی طلباء کو کاپی نویسی تصحیح جلد سازی وغیرہ طباعت و شاعت کے مختلف متعلقات سے نگہداشت و وقت کے بقدر۔

واقفیت کا موقع دیا جائے۔

اسی طرح ایسی ضروریات زندگی نہ کہ فضولیات زندگی جن کی سنت کا بآسانی انتظام ہو سکتا ہو، مثلاً کفش سازی، اُن کی سنت کا بھی انتظام ہو، اور کھانے پینے کپڑے وغیرہ دیگر ضروریات زندگی کی بڑی چھوٹی حسب موقع و محل و مکان ہو جس سے بیرونی خریداروں کے علاوہ خود طلباء و اساتذہ وغیرہ تمام متعلقین مدرسہ کی ضروریات بھی فراہم ہوں اور باری باری طلباء اس میں حقوڑا حقوڑا وقت دے کر اس قسم کی سنت و تجارت سے مناسبت پیدا کریں، تاکہ حسب مناسبت آئندہ زندگی میں اس سے تحصیل معاش کا کام لے سکیں۔

اگر کچھ زمین دستیاب ہو سکے تو باغبانی اور غلہ اور ترکاریوں وغیرہ کی کاشت کا بھی کچھ ضرور انتظام ہو جس سے معاشی مشغلہ کے علاوہ ورزشی و تفریحی مشغلہ کا کام بھی لیا جاسکتا ہے۔

اگر طالب علمی ہی کے زمانہ سے ایسی چیزوں کا مذاق پیدا کر دیا گیا، تو انشاء اللہ پھر ظاہری اسباب کی حد تک دین کے طلباء و علماء کے متعلق ضروریات زندگی کے بقدر نہ یہ سوال ہو گا کہ کھائیں گے کہاں سے، اور نہ انشاء اللہ مخلوق کی بندگی، اور ملازمت کی ذلت سے اُن کو دو چار ہونا پڑے گا۔

ایک نکتہ نہایت ضروری اس معاملہ میں یہ ہے کہ ایک درس گاہ نے دوکان وغیرہ کی قسم کی چیزیں کچھ جاری بھی کیں جن میں احقر کے مشورہ کو بھی مصالحہ مذکورہ کی بنا پر کچھ دخل تھا، لیکن ہوا یہ کہ نظر طلباء کی معاشی تربیت کے بجائے زیادہ تر مالی منفعت پر رہنے لگی، اور آگے چل کر عربی و دینی مدرسہ کے مناسب مطبع و مکتبہ وغیرہ کی کچھ مزید مفید تر تجارت ویز جو پیدا ہوئیں، اُن کے نقشے میں بھی مالی منفعت کا رنگ زیادہ بھرا تھا۔ اس کے علاوہ مزید نقص یہ تھا کہ اصل مقصد یعنی درس و تدریس کے فرائض میں خلل واقع ہونے کا قوی اندیشہ تھا، لہذا جس طرح ایک طرف وقت کے تقاضوں کی بنا پر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ معاشی تربیت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کہ مقصود بالذات دین کے طلباء و علماء کو ملک و تجارت بنانا نہیں ہے، بلکہ وہی گذر اوقات کے بقدر ضروریات زندگی کے لئے کوئی حیلہ فراہم کر دینا، تاکہ خدمت دین استغناء کے ساتھ کر سکیں، نہ یہ کہ تاجرانہ منفعت کی فکر و تدبیر میں دینی تعلیم و تعلم کے اصل مقصد ہی میں خلل و

تھا وہ واقع ہونے لگے، ماہل یہ کہ اہل دین خصوصاً علمائے دین کی دنیا کا زندگی کے ہر شعبہ میں دین اور مقاصد دین کے تابع رہنا ضروری ہے۔

علمائے متعلق تین **وعظ و افتاء و تصنیف متعلق اصلاحات** خدمات اور ہیں، وعظ

افتاء اور تصنیف ان میں بھی جو ضروری ضروری باتیں اصلاح طلب ہیں، ان کی طرف بھی حقوق العلم کی ایک خاص فصل میں متوجہ فرمایا گیا ہے۔

”وعظ میں ایک کوتاہی تو وعظ نہ کہنے کی ہے، اکثر اہل علم کو دیکھا کہ وعظ کے صرف تارک ہی نہیں، بلکہ اس کی تحقیر کرتے، اور علم کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، حالانکہ تعلیم دین کا اصلی طریقہ جس کے لئے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے یہی وعظ و ارشاد ہے، جس کے ذریعہ تبلیغ دین فرماتے تھے، باقی تدریس و تالیف وغیرہ تو اس کے تابع ہیں، سلف میں قوت حفظ و تدین کی بنا پر زبانی روایات اور خطبات عام پر قناعت و وفوق تھا، بعد میں علوم کی حفاظت کے لئے تدریس و تالیف کی ضرورت ہوئی، اس سے بھی اصل مقصود تبلیغ ہی ہے، جس کی خطاب عام کی صورت کو وعظ کہا جاتا ہے۔“

”باقی جو کوتاہیاں خود وعظ کہنے کے متعلق ہیں وہ یہ ہیں ۱، وعظ پر نذرانہ لینا یا پہلے سے کٹھرانا جس کی بدولت وعظ کا اثر نہیں ہوتا، دوسرے وعظ قوت مال کے خوف سے اٹھار حق سے رکتا ہے، تیسرا وہ لے کر وعظ کہنا اس سے مستثنیٰ ہے، جس کا اوپر مبسوط بیان ہو چکا ۲، وعظ میں غیر ضروری یا عوام کے حق میں مضر مضامین، مثلاً وقایع تصوف وغیرہ بیان کرنا ۳، مطلق تقریر کرنا ۴، کسی خاص شخص پر وعظیں تحریر کرنا، جس سے فتنہ کا دروازہ کھلتا ہے ۵، وعظ میں کسی کی فرمائش کے تابع بن جانا۔“

ظاہر ہے کہ وعظ وہی ہے جو ان شرائط کے ساتھ ہو، ورنہ وعظ کی نقالی بلکہ اس کا

تمسخر ہے۔

”افتاء میں یہ کوتاہیاں ہیں، حصول زر کا اس کو آلہ بنانا، البتہ اگر اس کی تکمیل و انتظام میں کچھ خرچ ہوتا ہو تو اس کے بقدر وہ بھی اہل استطاعت پر کچھ بطور

فیس لگا دینے میں مضائقہ نہیں، ہر سوال کے جواب کی کوشش کرنا نہ بھی معلوم ہو تو یہ نہ کہنا کہ نہیں جانتا، بلکہ کھینچ تان کر کچھ لکھ دینا، اسی طرح معلوم ہونے پر بھی ہر سائل کے سوال کا جواب دیدینا ضروری نہیں۔ اس کا اثر عوام پر بُرا پڑتا ہے، علماء کو اپنا تالچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا جو سوال فی لفسہ یا کسی سائل کے اعتبار سے غیر ضروری ہو، صاف کہہ دیا جائے کہ یہ سوال غیر ضروری ہے یا جو سائل دلیل سمجھنے کی لیاقت نہ رکھتا ہو اور دلیل معلوم کرنا چاہے، اس کو بھی صاف جواب دیدینا چاہیے، سمجھانے کی کوشش نہ کرنے لگے، جب دلیل اتنی کے متعلق یہ مشورہ ہے، تو دلیل ملی یعنی علت دریافت کرنے کی عوام کو گنجائش ہی نہ دے، کہ اس کا علم تو خود علماء کو پورا پورا نہیں، الا ما شاء اللہ مثلاً نماز کے پانچ وقت فرض ہونے کی دلیل اتنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور ملی اس کی وہ حکمتیں ہیں، جن کی بنا پر نماز فرض کی گئی۔

”بعضے فرمائش کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے پانچ وقت کی نماز کا ثبوت لاؤ، اب مجیب صاحب ہیں کہ قرآن مجید میں اس کی تلاش کرتے اور دوسروں سے مدد لیتے پھرتے ہیں، حالانکہ حکم شرعی کے لئے مطلق دلیل شرعی کافی ہے، خاص دلیل کی حاجت نہیں، اور آدہ شرعیہ چار ہیں، کتاب، سنت، اور اجماع و قیاس مجتہد۔ ان میں سے کسی ایک دلیل سے بھی جو حکم ثابت ہو جائے، وہ ثابت ہے البتہ حسب تفاوتِ اولہ ثبوت احکام کا درجہ متفاوت ہوگا۔

”بعضے استفتاء کرنے والے حیلے پوچھا کرتے ہیں، جو ہرگز نہ بتلانا چاہیے بعض اوقات سوال مہمل یا نا صاف ہوتا اور دو صورتوں کو محتمل ہوتا ہے وہاں اکثر اہل علم تحقیق سے جواب دیدیتے ہیں، کہ یہ صورت ہو، تو یہ حکم اور وہ صورت ہو، تو وہ حکم، اس سے تجربہ کاروں نے منع فرمایا ہے، کیونکہ ناخدا ترس لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق سوال تراش لینے کی گنجائش ملتی ہے کہ وہ مفید مطلب ہی شق کے مدعی بن جاتے ہیں، اور اصل واقعہ ملتبس ہو جاتا ہے۔“

”تصنیف میں بھی چند کوتاہیاں ہوتی ہیں، غیر مفید فنون میں تصنیف

کرنا، رد و قدح اور مجادلہ کو تصنیف کا بڑا مقصود بنالینا، ایسے مباحث لکھنا جن کی ضرورت عوام کو نہ ہو یا جن سے وہ تشویش میں پڑ جائیں، مثلاً تصوف و کلام کے نازک مسائل اور اگر خواص کی نفع رسانی کے لئے ایسی ہی ضرورت ہو تو خواص زبان مثلاً عربی میں لکھے، کہ عوام کی نظر تک نہ پہنچے، محض تجارت کے لئے عوام کے مذاق کی کتابیں لکھ کر اس سے روپیہ کمانا یا حق تصنیف کو بیع کرنا۔

یہ تصنیف و تالیف کی وہ موٹی موٹی خرابیاں یا کوتاہیاں ہیں جو دینی کتابوں تک میں سرایت کر گئی ہیں۔ اور جن سے اس زمانہ میں بس اللہ کا کوئی خاص بندہ ہی محفوظ ہوگا۔

متفرق اصلاحات

سب سے آخر فصل میں کچھ متفرق اصلاحات بیان فرمائی گئی ہیں :-
 "مثلاً بعض اہل علم اپنے کو خوب بناؤ سنگار سے رکھتے ہیں جو شان علم کے خلاف اور ضروری خدماتِ علم سے بے فکری کی علامت ہے کیونکہ اس فکر کے ساتھ لباس و طعام وغیرہ کے تکلفات کی طرف التفات نہیں ہوتا، اسی طرح مجلس میں صدر یا ممتاز جگہ پر بیٹھنے کا شوق، چلنے میں تقدم کی فکر مجمع میں امام ہونے کا خیال، یہ سب ریا و کبر کے شعبے ہیں، تو واضح و بے تکلفی اور سادگی ہی میں علم و دین کی شان ہے، حدیث میں ہے، (البذاذۃ من الالہمان) اس سے مسکین کو تجدد و توحش نہیں ہوتا، اور یہی لوگ دین کے زیادہ قبول کرنے والے ہیں، البتہ سادگی کے ساتھ طہارت و نظافت ضروری ہے۔

"اور مثلاً دوسرے مولویوں کو برا کہنا جس میں بعض اوقات معصیت کے علاوہ عوام پر برا اثر ہوتا ہے، وہ سب سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اگر کسی صاحب باطل کے شر سے بچانا ہی ضروری ہو تو تہذیب کے ساتھ اصلاح کر دینا کافی ہے اسی طرح دوسروں سے مولویوں کی بلکہ غیر مولویوں کی برائی سنا بھی گو کسی حالت میں جائز بھی ہو، مگر علماء کی شان کے مناسب نہیں، بعض دفعہ اس کے مفاد سے خود اپنے دین میں حرج ہونے لگتا ہے۔

"اور مثلاً کسی کے فیصلہ میں پڑنا، گو فی نفسہ طاعت ہے، لیکن حسب ارشاد نبوی کہ حضرت ابوذرؓ کو فرمایا کہ لا تقصین دین اثنتین ان علما کو جو حکام نہیں اس میں پڑنا مناسب نہیں، طرفداری کا شبہ اور بدنامی بھی ہوتی ہے اور جو دینی دفع مسلمانوں کے ساتھ یکساں تعلق رکھنے سے ہوتا وہ فوت ہو جاتا ہے البتہ ایک صورت اسلم ہے، کہ اگر فریقین درخواست کریں، تو ان سے کہے کہ دونوں سوال

لکھ کر اپنے اپنے دستخط کر دو، پھر بطور جواب کے اس پر حکم شرعی لکھ کر حوالہ کر دے کہ اس پر دونوں عمل کر لو یا کسی ثالث کو مقرر کر کے اس سے نافذ کرا لو۔ اور اسی مصلحت سے مناسب ہے کہ کسی شخص کے دینی معاملات میں دخل نہ دے اور مالی معاملات سے بھی الگ رہے، مثلاً چنہ وصول کرنا، اس کا تحویلہ بنانا اس کے صرف کا اہتمام لینا یہ سب صورتیں بدگمانی اور نہمت کی ہیں، ایسے کام متدین رؤسا کے متعلق ہوں البتہ ان کو چاہیے کہ جو کام کریں علماء شرعی حکم دریافت کر کے کریں۔

سب سے آخر میں خاتمہ کے تحت ان
 باہمی تعلقات کا بیان ہے جو اہل دنیا

اہل دنیا اور علماء کے تعلقات

اور علماء میں ہونے چاہئیں جو مختصراً یہ ہیں کہ

”دنیا دار علماء کو مخدوم سمجھیں، وہ جو کام دین کا کر رہے ہوں بددوں ان کی استدعا کے اس میں اعانت کریں، مالی بھی اور غیر مالی بھی اجوبات پوچھیں اوپ سے پوچھیں، دلائل نہ دریافت کریں، اگر کوئی شبہ رہے، معاذانہ سوال نہ کریں، مستفیدانہ پوچھیں، ان سے کوئی لغزش ہو جائے، تو ان کی مذمت نہ کریں، آخر وہ بھی بشر ہیں، اور اس حال میں بھی تمہارے نفع و ہدایت کے لئے کافی ہیں تم ان کے اقوال پر عمل کرو، افعال کو مت دیکھو تمہارا شبہ ایک سے حل نہ ہو تو دوسرے سے حل کرو، مگر ایک کا قول دوسرے کے رد برومت نقل کرو۔“ اور علماء کو چاہیے کہ دنیا داروں کو اپنا برابر کا بھائی سمجھیں، ان سے تعظیم و خدمت کے متوقع نہ ہوں، اگر بلا توقع کچھ کر دیں تو سمجھیں کہ علم دین کی خدمت تو ہمارے ذمہ تھی ہی انہوں نے احسان کیا، کہ ہماری اعانت کی، اس میں قیل و قال نہ کر، جیسے بعض کی عادت ہے، کہ کہیں تنخواہ پر شکر ادا ہے کہیں ترقی کا تقاضا کہیں نذرانہ پر بحث، اگر کسی سے کچھ بے تمیزی ہو جائے، صبر کریں کہ جب ان کو ہمارے برابر علم نہیں، تو ہمارے برابر تمیز کیسے ہوگی، اگر کسی کو قولاً یا فعلاً شرع کے خلاف دیکھیں تو جس پر قدرت و حکومت نہ ہو اس پر تشدد نہ کریں، نرمی سے بہت اصلاح ہوتی ہے، اگر عامی کوئی حق بات کہے، قبول سے عار نہ کریں، اگر کسی مسئلہ میں اپنی

غلطی ظاہر ہو، اعلان کر دیں۔

معلم و متعلم و نشر کا علم کے باہمی حقوق

اس رسالہ حقوق العلم میں چونکہ معلم و متعلم اور

شریک تعلیم کے حقوق کا ذکر نہیں فرمایا گیا تھا اس لئے بعد میں اصلاح انقلاب حصہ اول کے آخر میں اس کی تفصیل فرمائی گئی ہے، کیونکہ

”علوم دینیہ کی جس طرح تعلیم و تعلم ضروری ہے، اسی طرح اس تعلیم و تعلم کے سبب جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔“

اور یہ تمام حقوق آیات و احادیث سے ثابت و مستنبط فرمائے ہیں۔

حقوق معلم

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَقُولَ تَعَالَى يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نعمت و منت ہونے کی علت تعلیم کتاب و حکمت کو قرار دیا گیا ہے جو اس امر کی صاف دلیل ہے کہ جو شخص کسی کو دین کی تعلیم دے، وہ اس کے حق میں نعمت الہی ہے، اور اس کی قدر و تعظیم لازم ہے، اور اس تعلیم میں نہ صرف باقاعدہ سبق پڑھانا بلکہ مسئلہ وغیرہ بتلانا سب داخل ہیں، حتیٰ کہ کسی کی تصنیف سے انتفاع یہ بھی مصنف کے شاگردوں میں داخل ہو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو قصہ قرآن میں مذکور ہے، اس میں بھی استاد کے کئی آداب و حقوق ثابت ہوتے ہیں، اول یہ کہ استاد کی خدمت میں خود شاگرد جایا کرے، دوم اگر استاد کسی اعتبار سے مرتبہ میں شاگرد سے کم ہو تب بھی اس کا اتباع کرے، سوم جس بات کے پوچھنے کو استاد منع کرے نہ پوچھے چہارم اگر غلطی سے استاد کے خلاف مزاح کوئی بات ہو جائے تو معذرت کر لے پنجم اس کے تنگ ہونے یا مرض وغیرہ کی وجہ سے کسمند ہونے کے وقت سبق بند کر دے۔

”ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص تم پر احسان کرے، اگر اس کی مکافات کر سکتے ہو تو مکافات کرو ورنہ دعا کرو، تعلیم دین کے احسان ہونے سے کون انکار کر سکتا

ہے، لہذا اس کے مکافات میں ہر قسم کی جانی و مالی خدمت سے سخی کرنا چاہیے اور جب کسی قسم کی استطاعت نہ ہو یا استاد سے جدائی کے بعد نہ رہے تو کم از کم دعا ہی سے یاد رکھنا چاہیے۔

بعض طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ احتمالات نکال کر استاد کے سامنے بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں، حالانکہ خود بھی اس کو مہمل سمجھتے ہیں، مگر محض اپنی ذہانت جملانے اور استاد کا امتحان کرنے کے لئے نامعقول باتیں کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ مغالطہ ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے منع فرمایا ہے کہ (نَهَى عَنْ الْإِغْلُوطَاتِ) چہ جائیکہ استاد کو مغالطہ دینا۔

”نیز اس سے شاگردوں کا بھی ایک حق ثابت ہو گیا کہ بعض مدرسین کی عادت ہے کہ کسی مقام پر خود بھی شبہ ہو، مگر شاگرد پر ظاہر نہیں کرتے، کچھ گڑھ مڑھ کے تقریر کر دیتے ہیں، گویا اس کو مغالطہ میں ڈالتے ہیں۔“

ایک حدیث میں انس ابن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو سب سے زیادہ سخی کون ہے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ دانائے حال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخی اللہ تعالیٰ ہے، پھر تمام بنی آدم میں۔

”سب سے زیادہ میں، اور پھر وہ جس نے علم دین سکھایا، اور اس کو پھیلا یا شخص قیامت میں تنہا بمنزلہ ایک امیر کے آوے گا۔“

”اس حدیث میں تمام وہ لوگ داخل ہیں جو تدریس و تلقین و عطا و تصنیف کسی طرح بھی دین کی تعلیم و اشاعت کرتے ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ سخاوت و جود کرے، اس کا کتنا عتی ہوتا ہے۔“

حجۃ الوداع کے خطبہ کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریرؓ سے فرمایا کہ لوگوں کو چپ کر دو، جس سے معلوم ہوا کہ استاد کی تقریر کے وقت بالکل خاموش و متوجہ رہنا چاہیے، کسی سے بات یا کسی کی طرف التفات نہ کرے۔

”حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا

ایک نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے اور اس کو پڑھنا شروع کیا جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمرؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے انور کو تو دیکھو کہ ناخوشی کے آثار پائے جاتے ہیں، حضرت عمرؓ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے غصہ سے پناہ مانگتا ہوں۔

اس سے ثابت ہوا کہ اگر کسی بات پر غصہ کرے، تو شاگرد کو معذرت کرنا چاہیے دوسرا حق شاگرد کا یہ ثابت ہوا کہ اس سے کوئی امر نامناسب صادر ہو تو اس کو تنبیہ کرنا ضرور ہے، تاکہ اس کی اصلاح ہو، اور تیسرا حق شریک علم یا رفیق سبق کا یہ ثابت ہوا کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جس پر وہ خود مطلع نہ ہو تو غیر خواہی کے ساتھ اس کو مطلع کر دے، تاکہ تدارک کر لے۔

راقم ہذا کے نزدیک ایک ضروری امر اور بھی اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے کہ اگر کسی کتاب کے متعلق شاگرد کو معلوم ہو جائے کہ استاد کسی وجہ سے اس کے لئے اس کا پڑھنا پسند نہیں کرتا، خواہ کم استعدادی یا اور کسی مفرت و مصلحت کی وجہ سے تو اس سے باز رہنا چاہیے۔

”ایک اور حدیث میں استاد کا یہ ادب صراحتاً مذکور ہے، کہ علم سیکھو اور اس کے لئے سکینہ و وقار اختیار کرو اور جس سے علم سیکھو اس کے ساتھ تواضع و ادب سے پیش آؤ۔“

آگے طلباء کی ان مختلف موٹی موٹی کوتاہیوں پر یکجا متنبہ فرمایا گیا ہے جو محتاج اصلاح ہیں مثلاً :-

”استاد کے ظاہری ادب و تعظیم و سلام کا لحاظ نہ رکھنا، اس کی پوری اطاعت نہ کرنا، کوئی بات مان لی، تو کسی کو بلا عذر ٹال دیا، خلوص میں کمی، بدنی یا مالی خدمت میں کمی، بلکہ بدنی خدمت پنکھا وغیرہ جھلنے کو تو اب بہت سے شاگرد عار و ذلت سمجھنے لگے ہیں۔“

یہ ہیں کہ
خاص طالب علمانہ کوتاہیاں
 مثلاً مطالعہ نہ دیکھنا، یا کم

دیکھنا، جس سے سبق سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اور استاد کو بار بار تقریر کرنا پڑتی ہے، یا اس کم سمجھنے کی بدولت فضول سوال کرنے سے استاد کو تنگی و پریشانی ہوتی ہے، اور مثلاً استاد کی تقریر کے وقت دوسری طرف التفات کرنا کہ استاد تو اس کی طرف متوجہ ہے، اور وہ دوسری طرف جس سے استاد کو بہت کوفت ہوتی ہے، یا بعض کا اپنی ذہانت جملانے یا استاد کا امتحان کرنے کے لئے فضول سوالات کرنا، یا مقدار سبق و کتاب وغیرہ کے معاملہ میں استاد کی رائے نہ ماننا کہ ہم تو اتنا ہی سبق پڑھیں گے یا فلاں ہی کتاب شروع کریں گے۔

”یہ تو زمانہ طالب علمی کی بعض کوتاہیوں کا بیان تھا، بہت سے لگ طالب علمی کے بعد یا استاذ سے جدائی کے بعد کوئی حق نہیں سمجھتے، یا سمجھتے ہیں مگر ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی خط تک نہیں بھیجتے کہ استاد کی خیریت ہی معلوم کریں حالانکہ چاہیے کہ استاد کی وفات کے بعد بھی اس کے حقوق طوفا رکھے، جس کا خلاصہ دعائیں ہیں، ایک اس کے لئے دعائے مغفرت ہمیشہ کرتے رہنا، دوسرے اس کے اقارب و احباب اور معاصرین کی تعظیم و خدمت کا خیال رکھنا، جیسا کہ والدین کے اس قسم کے حقوق کی حدیث میں تاکید ہے۔“

”کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو کسی نفسانی غرض سے استاد کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور تحریراً یا تقریراً ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ استاد وہ چیز ہے، کہ اگر دینی ضرورت سے بھی اس کے خلاف کرنا پڑے تو بھی کافر باپ کی طرح دین میں مخالفت کرنے کے باوجود ادب و احترام ترک نہ کرے۔“

”جو اساتذہ کسی مدرسہ سے تنخواہ پاتے ہیں، ان کے حقوق اور بھی ضعیف سمجھے جاتے ہیں، اتنا نہیں سمجھتے کہ ان حقوق کی جو بنیاد ہے وہ تنخواہ پانے سے معدوم نہیں ہو گئی، کیا تنخواہ تعلیم دین جیسے احسان کا بدل ہو سکتی ہے، اگر اس نے محض تنخواہ یا دنیا کی نیت سے بھی تعلیم دی تو بھی خواہ ثواب کم ہو جائے، مگر احسان تو ویسا ہی ہے۔“

”بعض شاگرد استاد کی تعظیم و تکریم اس کی کسی دینی و جاہلیت و عظمت کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ بھی شاگردی کی خوبی نہیں، چنانچہ اگر استاذ جاہ و شہرت میں

شاگرد سے کم ہو تو بعض ناخلف اپنے کو اس کی طرف منسوب کرنے میں بھی عار کرتے ہیں، مبارک وہ ہے جو ایسے استاد کا بھی حق استادی ادا کرے۔

اس کے بعد اب کچھ متعلم و شاگرد کے حقوق، معلم و استاد بھی اپنے اوپر سن لیں

متعلم کے حقوق

”أُذِّعَ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ“

اس آیت سے نصاً معلوم ہوا کہ مستفیدین کے ساتھ اگرچہ وہ طالب نہ ہوں کیونکہ آیت میں مدعوین ایسے ہی لوگ ہیں، ان کے مذاق و استعداد اور رفق و ملامت کی رعایت ضروری ہے، ابتدائی خطاب مثلاً کتاب کی تقریریں میں بھی جیسا کہ اُدع سے مراد ہے اور سوالات کے جواب میں بھی جیسا کہ ”جادلہم سے یہی مفادلت مراد ہے۔

”اور حدیث میں توصاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمارے پاس دور دراز ملکوں سے علم دین سیکھنے آویں گے، ان کے بارے میں میری وصیت ہے کہ بھلائی سے پیش آنا۔“

”اسی طرح حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری طرف سے کوئی بات بیان کرے اور جانتا ہو کہ وہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے جس سے معلوم ہوا کہ سبق میں غلط سلف یا مستفتی کو غلط فتویٰ بتلا دینا حرام ہے، جیسا کہ بعضوں کی عادت ہے کہ اپنا جہل چھپانے کے لئے غلط سلف ہانک دیتے ہیں، اتنا کہنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی سوچ کے بتائیں گے، یا دوسرے سے پوچھ لیں، یا طالب علم ہی کو پوچھنے کی اجازت دیدیں، اس سے عار آتی ہے، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون عالم ہوگا، آپ بارہا کسی سوال کے جواب میں فرمادیتے کہ نہیں معلوم اور جب وحی نازل ہوتی اُس وقت بتلا دیتے، اور حدیث ہی میں ہے کہ ”اگر کسی نے بلا علم کے مسئلہ بتا دیا تو اس کا وبال بتانے والے پر ہوگا۔“

”اس میں کئی خرابیاں ہیں، اگر طالب علم کو پتہ لگ گیا کہ استاد نے غلط سلف بتلادیا تو اس سے نفرت اور دل میں حقارت پیدا ہوگی، جس سے استادی کے حقوق

ادا کرنا دشوار ہوگا، اور اگر نہ پتہ لگا تو طالب علم بیچارہ عمر بھر جہل میں مبتلا رہا جس کا سلسلہ آگے معلوم نہیں کہاں تک جائے پھر استاد کے اخلاق اکثر شاگرد میں سرایت کرتے ہیں، تو یہ ہٹ دھرمی اور سخن پروری کا عیب شاگردوں میں بھی پیدا ہوگا

حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو دعا فرمایا کرتے تھے، کسی نے عرض کیا کہ حضرت روزانہ فرمایا کریں، تو فرمایا کریں تم کو تھکانا نہیں چاہتا، اور میں تمہارا ایسا ہی خیال رکھنا چاہتا ہوں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال فرماتے تھے کہ ہم تھک نہ جائیں۔

اس حدیث سے مستفیدین علم کا یہ حق بھی معلوم ہوا کہ ان کے شوق و نشاط کو باقی رکھنے کا بھی خیال رکھے، مثلاً اتنا سبق نہ پڑھا دے یا اتنی کتابیں نہ شروع کرادے کہ طالب علم اتنا جائیں بعضے تعطیل میں بھی، طالب علموں کی جان مارتے، اور اس کو اپنی بڑی کارگزاری جانتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں، کہ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، اور ایسے وقت آکر ملے کہ نماز کا وقت آگیا تھا، اور ہم وضو کر رہے تھے، جلدی میں کسی وجہ سے پاؤں دھونے میں کچھ سوکھا رہ گیا، تو آپ نے دو تین مرتبہ زور سے فرمایا کہ خبردار عذاب ہے ان ایڑیوں کے لئے جو سوکھی رہ جائیں۔

اس سے تین حق شاگردوں کے ثابت ہوئے، ایک تو یہ کہ صرف تعلیم ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ ان کے احوال کی بھی نگرانی رکھے جس کی طرف اب بالکل ہی توجہ نہیں کی جاتی اساتذہ صرف سبق پڑھا دینے کو ضروری سمجھتے ہیں دوسرا حق یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کا احتمال ہو کہ بدوں آواز بلند کئے آواز نہ پہونچے گی، مثلاً حلقہ درس بڑا ہو تو تقریر بلند آواز سے کرے، تیسرے اگر احتمال ہو کہ ایک بار کی تقریر سے طلباء نے نہ سمجھا ہوگا، تو دوسری تیسری بار بھی تقریر کر دینا مناسب ہے، اور یہ تو حضور کی عام عادت تھی، کہ جب کوئی بات مہتمم بالشان ہوتی تو تین بار فرماتے تاکہ لوگ خوب سمجھ لیں۔

بعض اہل علم کو ضرورت بلا ضرورت اپنے علم کے اظہار کا عارضہ ہوتا ہے، جس سے بعض جماعتوں کو ضرر بھی ہوتا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت معاذؓ سے فرمایا کہ جو شخص مرے اور خدا سے اس حال میں ملے، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو حضرت معاذؓ نے عرض کیا، کہ کیا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں آپ نے فرمایا نہ سناؤ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اس پر تکیہ نہ کر لیں۔

”دیکھو یہ مضمون اپنی جگہ صحیح اور شریعت کے مقاصدِ عظمیہ میں سے تھا، پھر بھی آپ نے لوگوں کے ضرر کے خیال سے اس کی اشاعت ناپسند فرمائی جس سے معلوم ہوا کہ جو مسئلہ یا کتاب کسی طالب علم کے لئے مضر یا نامناسب معلوم ہو اس سے روک دینا بھی استاد کے ذمہ ہے، اور طالب علم کو اس میں استاذ کی اطاعت لازم ہے۔

”حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خواب میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب سیر ہو کر پیالہ کو ناخن تک سیرابی کا اثر محسوس ہوا، پھر بچا ہوا دودھ عمر کو دیدیا، لوگوں نے عرض کیا حضور اس کی تعبیر کیا ہوئی، فرمایا دودھ سے مراد علم ہے۔

”اس سے دو امر معلوم ہوئے ایک باعتبار صورت بن کے، اور ایک معنی بن کے، اول یہ کہ شاگرد کو گاہ گاہ اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا کرے، جس سے اس کا دل بڑھتا، اور محبت زائد ہوتی ہے، اور جس قدر استاذ سے محبت ہوگی، اسی قدر علم میں برکت ہوگی، دوسرا یہ کہ اگر حق تعالیٰ کسی کو کوئی باطنی برکت عطا فرمائے، تو شاگرد سے دریغ نہ کرے، غرض ظاہری و باطنی غذا کا کچھ حصہ اس کو بھی دے۔

”ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص کی نماز اتنی طویل ہوتی ہے کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ نہ پاسکوں (یعنی بدول ہو کر جماعت چھوڑ دوں)، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنا برا فروختہ ہوئے کہ کبھی اتنا برا فروختہ ہوتے نہ دیکھا تھا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو متفرکرتے ہو جو نمازیں امامت کرے اس کو چاہیے کہ (قرأت) میں تخفیف سے کام لے، کیونکہ نمازیں مریض ضعیف و حاجتمند سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔

اس سے بھی دو امر ثابت ہوئے ایک یہ کہ اگر کچھ اسباق اپنے شاگرد یا ماتحت مدرس کے سپرد کئے جائیں اور اس کی شکایت ہو تو شکایت سنا اور تحقیق کے بعد انتظام کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ شکایت کرنے والے کو محض طالب علم سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ اگر کسی شاگرد یا طالب سے کوئی نامناسب حرکت ہو اور معلوم ہو کہ غصہ ہو کر کہنے سے زیادہ نفع ہو گا تو اس کی مصلحت سے غصہ ہی کرنا افضل ہے۔

”عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم پر مرد غالب آگئے ہیں، کہ آپ کا وعظ سننے کا موقع ہم کو نہیں ملتا، ہمارا بھی ایک دن مقرر کر دیا جائے، آپ نے مقرر فرما دیا اس سے اوقات کی تعین و تقسیم اور طلباء کی جماعت بندی کا مصلحت ہونا معلوم ہوا ایک عظیم مصلحت یہی ہے کہ جن کے لئے جدا سبق مناسب ہے، وہ ایک ہی میں کیسے شریک ہوں۔

اس قسم کی خاص خاص باتوں کے ساتھ شاگردوں کا ایک عام اور بڑا حق یہ ہے کہ ان کے حق میں علم کی دعا بھی کیا کرے، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سینہ سے لگایا اور فرمایا کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرمائے۔

آگے شرکائے علم کے حقوق کا
بقدر ضرورت بیان فرمایا گیا ہے

شرکائے علم کے حقوق

مثلاً ایک حدیث میں ہے کہ

”حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری پڑوسی عوالی مدینہ میں کچھ فاصلہ پر رہا کرتے تھے اور باری باری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، جس دن میں جاتا، جو کچھ سن کر آتا اُن سے بیان کر دیتا، جس دن وہ جاتے، مجھ سے بیان کر دیتے۔“

”اس سے معلوم ہوا کہ اپنا شریک تعلیم اگر کسی سبق میں حاضر نہ ہو تو ناغہ شدہ سبق اس کو تکرار کر دیا جائے، اور یہ اس کا حق ہے، نیز مدرسوں میں باری باری سے پڑھنے کی بھی اس سے اصل نکلتی ہے۔“

”باقی خود کلام مجید میں و الحجار الجنب اور و الصاحب بالجنب یعنی ہمایہ و

ہم صحبت یا ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں کے ساتھ احسان کا جو حکم ہے، وہ حسب موقع شرکائے تعلیم کا بھی ایک دوسرے پر حق ہے، جیسا کہ مفسرین نے شریک تعلیم کے ساتھ اس کی تفسیر کی بھی ہے، اس کے علاوہ شرکائے تعلیم کے باہمی حقوق کی پوری پوری تفصیل و تکمیل کے لئے حضرات صحابہ کی باہمی معاشرت و طرز عمل کا پیش نظر رکھنا کافی ہو گا۔ اس لئے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہی تھے۔

ضروری تنبیہات

آخر میں تین ضروری تنبیہات فرمائی گئی ہیں "ایک یہ کہ گو متعلم کے مفہوم میں متعارف استاد کی طرح پیر، داعظ اور مصنف جس سے بھی افادہ و استفادہ کا تعلق ہو سب داخل ہیں لیکن حقوق سب کے مساوی نہیں، بلکہ متعارف معنی میں جس کو استاد کہا جاتا ہے، اس کا حق زیادہ ہے، اولاً تو اس لئے کہ یہ استاد شاگردوں کے لئے جتنی مشقت برداشت کرتا ہے، دوسرے اہل افادہ نہیں کرتے بعض طرق افادہ میں تو چنناں مشقت ہی نہیں، اور بعض میں اگرچہ مشقت ہے، مگر وہ کسی خاص مستفید کے لئے برداشت نہیں کرتا، حالانکہ و وصینا الانسان بوالد یحہ تملکتمہ کڑھا و دصحتہ کڑھا کی نص قطعی سے مشقت کی بنا پر حق کا عظیم ہونا ثابت ہے، ثانیاً شاگرد استاد کی تابیت کا التزام کرتا ہے، اور التزام ایک وعدہ ہے اور وفائے عہد لازم ہے۔

"عام لوگ اس میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ پیر کی تعظیم اور خدمت و اطاعت میں تو حدود شرعیہ سے بھی تجاوز کرتے ہیں، لیکن استاد کے حقوق ادا کرنے میں حد شرعی کے قریب بھی نہیں پہنچتے اور یہ شریعت کی تغیر کے سوا اور کیا ہے۔

دوسری قابل تنبیہ بات یہ ہے کہ استاد اور پیر کا حق زیادہ ہے یا باپ کا اس میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر اور استاد روحانی مربی ہیں، اور باپ جسمانی اور روحانی مربی کا درجہ جسمانی سے بڑا ہے، اس دعویٰ کی غلطی اجمالاً اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ نصوص میں جس شد و مد سے باپ کے حقوق بتلائے گئے ہیں استاد اور پیر کے نہیں بتلائے گئے۔

دوسرا مغالطہ یہ ہے کہ باپ نہ روحانی مربی ہے، حالانکہ اس کے ذمہ روحانی تربیت

ہی ہے، خود نہ کر سکے تو کسی اور استاد کے پاس یا مدرسہ میں بھیجے جیسا بہت سے کرتے ہیں
اتنا بھی نہ کرے، تو قابلِ مواخذہ ہے، جیسے کوئی باپ جسمانی تربیت یا کھلانے پلانے
کو تاہی کرے، بہر حال باپ باپ ہی ہے، جہل کی اور بات ہے، ورنہ اس کی برابر جسمانی و روحانی
عتبار سے خیر خواہ کون ہو سکتا ہے۔

پھر سب سے بڑے روحانی مربی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور
حق تعالیٰ تو جسم و روح دونوں کے مربی ہیں اور جب خدا و رسول ہی نے باپ کا
حق زائد فرما دیا، تو ان کی اطاعت بڑے مربی کی چھوٹے مربی کے حق پر تقدیم ہے۔
”البتہ واجبات شرعیہ کی مخالفت میں نہ باپ کی اطاعت ہوگی نہ استاد و پیر کی اور
مباحات میں باپ کا حق مقدم ہوگا“ تیسری جہت یہ ہے کہ آیا مقولات فارسی
اور حساب وغیرہ کے استاد بھی حقوق مذکورہ کے حقدار ہیں یا نہیں، اسی طرح
کافر استاد بھی، اس میں قواعد سے تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو چیزیں مضر ہیں
ان کا استاد تو خود مضر و مصل ہے، اور استاد کا جو کچھ حق تھا، وہ بوجہ مفید و محسن
ہونے کے اور جو چیزیں مضر نہیں ہیں، ان میں تفصیل ہے کہ اگر علوم دینیہ میں
نافع و معین ہیں تو چونکہ مقدمہ کا حکم مقصود کا ہوتا ہے، اس لئے ایسے اساتذہ
حقوق مذکورہ کے مستحق ہوں گے، گو استاد مقاصد کے درجہ میں نہ سہی، جس
طرح اقارب کے حقوق میں قوت قرابت کے تفاوت سے حقوق میں تفاوت
ہو جاتا ہے، اور اگر نہ مضر ہیں نہ مفید تب بھی ایک دنیاوی احسان ہے، اور
دینیوی احسان پر شکر گزاری نصوص عامہ سے ثابت ہے، اس لئے اس کا بھی حق
ثابت ہوگا، گو دینی احسان کے برابر نہ سہی۔

اقتباسات بالا میں صریح نصوص سے جو استنباطات فرمائے گئے ہیں، اور ان سے
طلباء و اساتذہ کو تعلیم و تعلم کے جن حقوق و آداب کی طرف متوجہ اور جن کوتاہیوں پر متنبہ
فرمایا ہے، دینیوی درسگاہوں یا انگریزی اسکولوں اور کالجوں کے اکابر و اصاغر کی خدمت میں
تو اس سلسلہ میں کچھ عرض کرنا ہی عبث ہے، ان کی تو دنیا ہی الگ ہے۔ البتہ عربی و دینی مدارس کے
اساتذہ و تلامذہ کی ان سے غفلت بلکہ الٹے انگریزی اسکولوں اور کالجوں ہی کے استادوں اور
شاگردوں کی نقالی کو فخر جاننے کی جو وبا ان میں بھی پھیل گئی ہے اس کی بنا پر حضرت مجدد کی

اس باب میں تجدیدات و اصلاحات بالا کی کچھ مزید و تفصیل و تشریح کا جی چاہتا تھا، مگر کس کس چیز کی کہاں کہاں تک شرح کی جائے،

”تن ہمہ داغ داغ شد پنبہ کجا کجا ہم“

باقی مدارس دینیہ کے مخلص داہل فکر حضرات کے لئے جن کو دل سے کچھ اصلاح کی فکر ہے حضرت کے یہ اجمالی اشارات و ارشادات بھی رہنمائی کے لئے کافی ہیں، ورنہ اکثر دل سے اندیشہ تو ان باتوں کو محقرات امور کہہ کر مال دینے کا ہے، کہ اپنے عیوب کی پردہ پوشی اور ان کی اصلاح سے بے فکری کا یہ بھی ایک چلتا ہوا بہانہ بنایا گیا ہے، کہ یہ چھوٹی اور حقیر باتیں ہیں جس کا جواب دی ہے، جو حضرت ایسے مواقع پر فرمایا کرتے تھے، کہ ”اچھا تو ایک چھوٹی سی چنگاری اپنے کپڑوں کے صندوق میں رکھ دو۔“

اصلاح متعلیم نسوان

وقت کی رائج و مقبول بولی اگر بولی جائے تو کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی نظام تہذیب و تمدن میں عورت کو چونکہ اصلاً و اصولاً کسب معاش کی فکر و ذمہ داری سے آزاد رکھا گیا ہے اس لئے خالص معاشی و دینی تعلیم کی تو بجز استثنائی حالتوں کے اس کو حاجت ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کچھ گھریلو اور ہلکی قسم کی ایسی دستکاریوں کی تعلیم کافی ہے جو اتفاقی صورتوں میں عزت و آبرد کی حفاظت کے ساتھ گزراوقات میں معین ہوں۔ اسی طرح دینی تعلیم میں بھی عام وعظ و تبلیغ یا مدارس میں درس و تدریس وغیرہ کی متحدی خدمات دین بھی عورت کے فرائض میں داخل نہیں اس لئے قدرۃً اس کی تعلیم کا معیار و معاملہ خود اپنے دین کی فکر و درستی، اپنے بچوں کی تربیت و نگرانی یا خاص شرطوں کے ساتھ خود اپنی ہم جنسوں کی دینی تعلیم و خدمت تک محدود رہ جاتا ہے۔

اس محدود ضرورت کی تمام اطراف و جوانب کی جامعیت کے ساتھ خود حضرت جامع المجہدین علیہ الرحمہ نے بڑی حد تک بہشتی زیور کے ذریعہ تکمیل فرمادی ہے لیکن عورتوں کی تعلیم کی یہ محدودیت مردوں کے مقابلہ میں اس کی اہمیت میں کمی کو ہرگز مستلزم نہیں بلکہ ابتدائی تربیت کے ذریعہ بچوں میں دین کو راسخ کرنے کے لئے یہ زیادہ اہم و الزم ہے اس لئے حضرت نے مختلف مواعظ و مضامین وغیرہ میں اس کی مستقلاً اور جا بجا تفصیل و تاکید فرمائی ہے۔ ایک طویل مضمون "اصلاح تعلیم نسوان" کے عنوان سے رسالہ القاسم میں شائع فرمایا تھا، پھر کچھ رد و بدل کے ساتھ بطور ضمیمہ بہشتی زیور میں شامل فرمادیا، اس مضمون میں افراط و تفریط کی اور کوتاہیوں کی اصلاح فرمائی گئی ہے جو بالعموم عورتوں کی تعلیم کے معاملہ میں لوگ کرتے ہیں۔

"تین خیال بکے لوگ ہیں، ایک وہ جو نہ تعلیم نسوان کے مخالف ہیں نہ حامی، مگر تعلیم کا اہتمام نہیں، دوسرے

مختلف خیالات

جو مخالفت ہیں، اور سرے حامی، ان سب سے مختلف کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں

کی سب سے اشد و اعظم کوتاہی یہ ہے کہ ایسے خیال کے **طبقہ اول** مردوں اور خود عورتوں کے نزدیک عورتوں کو تعلیم دینے

کی سرے سے ضرورت ہی نہیں اور دلیل یہ ہے کہ کیا عورتوں کو نوکری کرنا ہے ان لوگوں نے نہ تعلیم کی غرض سمجھی اور نہ نصوص و روایات میں غور کیا جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے تحصیل علم کو ایک درجہ میں فرض و واجب قرار دے رہی ہیں۔

"ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ علم سے غرض نوکری نہیں، کیونکہ جس علم کا حاصل کرنا ہر شخص پر واجب ہے وہ علم معاش نہیں علم دین ہے، جس سے انسان کے عقائد اعمال، معاملات، معاشرت اور اخلاق درست ہوں، جس کا ثمرہ دنیا میں اُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی راہ پر ہیں اور آخرت میں اُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی بشارت کہ انہی کے لئے کامیابی ہے، لہذا اس تعلیم کا وجوب نقلاً و عقلاً ظاہر ہے، نقلاً تو طَلِبُ الْعِلْمِ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ۔ طَلِبُ الْفَقْدِ حَتَّمٌ وَاجِبٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالْعِلْمِ اور دلیل بَلَدٌ لَا يَعْلَمُ وغیرہ روایات ہیں۔

جن سے معلوم ہوتا ہے، کہ اس علم کے وجوب و فرضیت کی بنیاد نفس اسلام کے لئے ہے۔ نہ کہ عورت یا مرد کی خاص جنس و صنف کے لئے، اس لئے کہ اسلام کی حقیقت ہی خاص عقائد و اعمال کے علم و عمل کے سوا کیا ہے، اور عمل بلا علم کے کیسے ممکن ہے اس لئے عقلاً بھی ثابت ہے، کہ جب اصلاح عقائد و اعمال فرض ہے، اور وہ موقوف ان کا علم حاصل کرنے پر، اور فرض جس پر موقوف ہو، اس کا فرض ہونا بدیہی ہے۔ البتہ اس کے لئے عرفی یا کتابی علم فی نفسہ واجب نہیں، صحیح اعمال و عقائد کا کسی نہ کسی طرح سن سنا بھی جان لینا کافی ہے۔

"لیکن یہاں تین باتیں قابل غور ہیں، اول یہ کہ واجب کا مقدمہ بھی واجب ہوتا ہے جیسے جو شخص پیدل سفر کرے پر قادیان نہ ہو، اور ریل و جہاز وغیرہ کی استطاعت رکھتا ہو، تو اس پر واجب ہوگا کہ سفر کا عزم کرے، اور ریل و جہاز کا

ٹکٹ لیکر اس پر سوار ہو، سواریل یا جہاز کا ٹکٹ خریدنا اور اس پر سوار ہونا فی نفسہ شرعاً واجب نہیں، لیکن ایک فرض کا ذریعہ ہے، اس لئے یہ بھی فرض ہوگا، مگر بالآخر دوسرے تجربہ سے معلوم ہوا، کہ اب علم کا محفوظ رہنا کتابوں ہی کے پڑھنے پڑھانے پر موقوف ہے، جو تعلیم کا متعارف طریق ہے، اور علم دین کا محفوظ رکھنا واجب ہے، لہذا بطریق متعارف تعلیم کا جاری رکھنا بھی واجب ہے، البتہ یہ واجب علی الکفایہ ہے، یعنی ہر مقام پر اتنے آدمی دینیات پڑھے ہونے چاہئیں کہ اہل حاجت کے دینی سوالوں کا جواب دے سکیں۔

تیسری بات بھی تجربہ سے یہ ثابت ہے کہ مرد علماء مستورات کی دینی ضروریات کے کافی و روانی نہیں، اولاً پردہ کے سبب سے سب عورتوں کا علماء تک پہنچنا قریباً ناممکن، دوسرے اگر گھر کے مردوں کو واسطہ بنایا جائے تو بعض گھروں میں تو ایسے مرد میسر ہی نہیں اور بعض مردوں کو خود اپنے ہی دین کی فکر نہیں ہوتی، تو عورتوں کے لئے کیا اہتمام کریں گے، پھر گھر میں باپ بیٹا بھائی کوئی عالم ہو بھی تب بھی عورتیں بعض مسائل ان سے پوچھ نہیں سکتیں اور سب شوہروں کا عادیہ عالم ہونا ناممکن، لہذا عورتوں کی عام احتیاج رفع ہونے کی صورت اس کے سوا نہیں کہ اگر سب نہیں تو کچھ عورتیں پڑھی ہوں تاکہ عام مستورات ان سے دین کی ہر قسم کی تحقیقات کر لیا کریں اس لئے لکھے پڑھے مردوں کی طرح عورتوں میں بھی ایسی تعلیم ہونا واجب و ضروری ہے۔

دوسرا طبقہ | وہ ہے جو تعلیم نسواں کا بالکل مخالف اور اس کو نہایت مضر جانتا ہے خصوصاً نکھنے کی تعلیم کو کہ جس کو چاہا خط لکھ دیا، یا دوسروں نے اپنے نفسانی جذبات ان تک پہنچا دیئے، تو اس راہ سے شیطان کا جال پھیل جانا زیادہ عجب نہیں..... اور جب تعلیم زیادہ ہو تو یہ مفسدہ بھی اس صورت میں زیادہ ہوگا، جب کہ کسی عورت کے مضامین نشر و نظم اخبار میں چھپنے لگیں، جن کو دیکھ کر سخن شناس شیطانی کا تہہ کے رنگ اور جذبات و خیالات کا اندازہ کرتے اور شرارت کے شرارے زیادہ پھیلنے لگتے ہیں اور غضب یہ کہ فز کے لئے صاحبہ مضمون کا نام و پتہ تک صاف لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں کی بیوی

فلاں کی بیٹی اور فلاں مقام

ایک خرابی ان تعلیم یافتہ عورتوں میں یہ ہوتی ہے، کہ ہر طرح کی کتابیں منگاکر پڑھتی ہیں، عشق بازی کے قصے، سازش اور لگاوٹ کے ناول، شوق انگیز غزلیں پھر ان سے طبیعت بگڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ، ان واقعات سے انکار نہیں، لیکن ان کی حقیقت کے سمجھنے میں کوتاہ نظری سے کام لیا گیا ہے۔

اصل یہ ہے کہ ان سب خرابیوں کی ذمہ دار تعلیم نہیں بلکہ نصاب تعلیم، طرز تعلیم، طرز عمل، یا سو، تدبیر ہے، یعنی یا تو ایسی کتابیں نہیں پڑھائی گئیں جن سے حلال و حرام کے احکام، ثواب و عذاب کی تفصیل اور تہذیب اخلاق کا طریقہ معلوم ہو، اور جن سے دل میں خوف و خشیت اور حق کی معرفت و عظمت پیدا ہو، یا یہ ہوا کہ باوجود نصاب تعلیم کے مفید و کافی ہونے کے، مضامین کو قلب میں جملنے کی کوشش اور ان پر عمل کی نگرانی نہیں کی گئی، مثلاً جس روز لڑکی یہ پڑھے کہ غیبت گناہ ہے، اس کے بعد جب غیبت کرے تو فوراً اس کو ٹوکا اور یاد دلایا جائے کہ دیکھو تم نے کیا پڑھا ہے، اور اس کے خلاف کرتی ہو..... اس طرح اگر ان کو برابر متنبہ کیا جاتا رہے، تو امید ہے کہ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ کا ان میں ملکہ پیدا ہو جائے گا، ہاں اگر طبیعت ہی میں خرابی ہے، تو

ناکس بہ تربیت نہ شود اسے حکیم کس

”غرض مفسدہ کے اسباب یہ ہیں، تو اس میں عورتوں کی کیا تخصیص ہی اسباب مفسدہ مردوں کو پیش آئیں تو وہ بھی ویسے ہوں گے، البتہ عرفاً ان قبائح کا عورتوں سے صدور یا ان کی نسبت رسوائی و ذلت کا زیادہ موجب خیال کی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس باب میں مرد و عورت یکساں ہیں، اور عرف کو شرع پر اس طرح ترجیح دینا، بہت بڑا شعبہ ہے جاہلیت کا..... جس کے معنی صاف یہ ہیں کہ مردوں کے لئے ایک معصیت کو ضعیف سمجھتے ہیں اور عورتوں کے لئے شدید جس پر استخفاف دین کے فتوے کا اندیشہ اور سخت اندیشہ ہے۔

”باقی جو تعلیم نسواں کے حامی ہیں، اُن سے اس تعلیم

کی تعین اور اس کے طریقہ کی تجویز میں غلطی ہوتی ہے،

تیسرا الحقیقہ

ان کی بعض غلطیوں کا بیان اور طبقہ ثانیہ کی اصلاح کے ضمن میں گذر چکا مثلاً ان کو صرف پڑھا کر چھوڑ دینا کہ جس قسم کی واہیات خرافات کتابوں اور رسالوں کا چاہیں آزادی سے مطالعہ کرتی رہیں یا تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت اور عمل کی نگرانی کا خیال نہ رکھنا۔

”ان کے علاوہ بعض یہ ہیں کہ مستورات کو بجائے علوم دینیہ پڑھانے کے تاریخ، جغرافیہ یا اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انگریزی پڑھاتے ہیں جس کی وجہ صرف یورپ کی تقلید ہے، حالانکہ ہمیں ان کے رسوم و عادات وغیرہ کے علاوہ سب سے بڑا فرق مذہب کا ہے، وہ یا تو کوئی مذہب نہیں رکھتے، اور زیادہ ایسے ہی ہیں، اور یا ان کا مذہب ہمارے مذہب سے الگ ہے، اس لئے ان کو یا تو مذہبی تعلیم سے سزاوارک ہی نہیں یا اپنے مذہب کی تعلیم ہوگی، یا صرف دینی معلومات اور زبان کی۔“

لہذا جب ان کی غرض تعلیم اور ہے، اور ہماری اور جس کا اور طبقہ اولیٰ کی اصلاح خیال میں ذکر ہوا، یعنی ہماری غرض تعلیم اسلامی عقائد و اعمال، معاملات معاشرت، اور اخلاق کا علم، اور ان کی اصلاح ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی تقلید کرنا ہمارے لئے بالکل بے جوڑ ہے۔

”بعضے لوگ اپنی لڑکیوں کو آزاد و بیباک عورتوں سے تعلیم دلاتے ہیں اور صحبت کا اخلاق و جذبات پر ضرور اثر پڑتا ہے، خاص کر جب ہم صحبت بڑا اور ایسا ہو جس کی اطاعت کی جاتی ہو، اور ظاہر ہے کہ استاد کی عظمت و اطاعت دونوں ہوتی ہے۔ اگر آستانی آزاد و بیباک نہ ہو، لیکن ہم سبق لڑکیاں ایسی ہوں تب بھی اسی کے قریب قریب مضرتیں واقع ہوں گی۔“

”اس تقریر سے تعلیم کی دو خاص صورتوں کا حال بھی معلوم ہو گیا، جن کا اس وقت بے تکلف رواج ہے، ایک لڑکیوں کے لئے عام زمانہ اسکول بنانا، اور عام مدرسوں کی طرح اس میں مختلف قوم اور مختلف طبقات و خیالات کی لڑکیوں کا روزانہ جمع ہونا، گو آستانی مسلمان ہی ہو، اور پردہ کا بھی اہتمام ہو، تاہم واقعات تجربہ نے دکھلا دیا کہ یہاں بھی ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں جن کا اخلاق پر برا اثر

پڑتا ہے، اور اگر استانی بھی کوئی آزاد اور مکار مل گئی، تو کر بلا نیم چڑھا۔
 "دوسری صورت یہ کہ اگر کہیں مشن کی میم صاحبہ سے بھی روزانہ یا ہفتہ وار
 تعلیم کی نگرانی یا صنت سکھانے کے بہانہ سے اختلاط ہونے لگا، تب تو نہ آبرو کی
 خیر ہے نہ ایمان کی، مگر افسوس صد افسوس کہ بعض لوگ ان آفات کو مایہ افتخار
 سمجھ کر خود اپنے گھروں میں بلاتے ہیں۔

"اسلم طریقہ لڑکیوں کے لئے یہی ہے جو زمانہ دراز سے چلا آتا ہے، کہ دو دو
 چار چار لڑکیاں اپنے تعلقات کی جگہ آویں اور پڑھیں، اگر ایسی استانی مل جاوے
 جو تنخواہ نہ لے تو تجربہ سے یہ تعلیم زیادہ بابرکت و بااثر ثابت ہوتی ہے، ورنہ
 بدرجہ مجبوری تنخواہ کا بھی مضائقہ نہیں، اور جہاں کوئی استانی بھی ایسی نہ ملے
 گھر کے مرد پڑھا دیا کریں، نصاب تعلیم یہ ہو کہ اول کلام مجید حتی الامکان صحیح
 پڑھایا جائے، پھر سہل زبان کی دینی کتابیں جن میں تمام اجزائے دین کی مکمل
 تعلیم ہو (اس وقت بہشتی زیور کے دسوں حصے ضرورت کے لئے کافی ہیں)، اور اگر
 گھر کا مرد تعلیم دے تو جو مسائل شرم کے ہوں ان کو چھوڑ دے اور اپنی بیوی
 کے ذریعہ سمجھوادے۔ اور یہ انتظام بھی نہ ہو سکے تو ان پر نشان کرا دے، کہ وہ
 سیانی ہو کر خود سمجھ لیں، یا عالم شوہر میسر ہو تو اس سے پوچھ لیں گی، یا شوہر کے ذریعہ
 عالم سے تحقیق کرائیں گی۔

"بہشتی زیور کے آخر میں کچھ اور مفید رسالوں کے نام بھی لکھ دیئے ہیں، جن
 کا پڑھنا اور مطالعہ عورتوں کے لئے مفید ہے، اگر سب نہ پڑھے تو ضروری مقدار
 پڑھ کر باقی کو مطالعہ میں ہمیشہ رکھیں نیز تعلیم کے ساتھ عمل کی بھی نگرانی رکھیں، اور
 اس کا اہتمام بھی رکھیں، کہ ان کو پڑھنے پڑھانے کا شوق پیدا ہوتا کہ عمر بھر علمی شغل
 رہے تو اس سے علم و عمل کی تجدید و ترمیم ہوتی رہتی ہے۔

"اور ضروری نصاب کے بعد اگر طبیعت میں قابلیت دیکھیں تو عربی کی طرف
 متوجہ کریں تاکہ قرآن و حدیث و فقہ اصلی زبان میں سمجھنے کے قابل ہو جائیں، البتہ
 قرآن کا خالی ترجمہ جو بعض لڑکیاں پڑھتی ہیں، میرے خیال میں سمجھنے میں زیادہ
 غلطیاں کرتی ہیں، اس لئے اکثر کے لئے مناسب نہیں۔

”یہ تو سب پڑھنے کے متعلق بحث تھی، رہا لکھنا تو اگر قرائن سے طبیعت میں بیا کی معلوم نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں، کیونکہ خالگی ضرورتوں کے لئے اس کی بھی حاجت ہوتی ہے، اور اگر خرابی کا اندیشہ ہو تو مفاسد سے بچنا غیر واجب مصالح کے حاصل کرنے سے اہم ہے، ایسی حالت میں لکھنا نہ سکھلا دیں۔“

تحقیق تعلیم انگریزی

یہ تو تفصیل تمام تر دینی تعلیم سے متعلق اصلاح و تجدید کی تھی، جو تعلیم دین کے تمام اطراف و جوانب کو محیط ہے، دینی مدارس، ان کے اساتذہ و طلباء ان کے نصاب تعلیم و طرز تعلیم علماء و عوام کا باہمی افادہ و استفادہ، وعظ و افتاء، تالیف و تصنیف، عورتوں کا مسئلہ تعلیم، غرض تعلیم دین کے جس گوشہ میں جو خلل و فساد نظر آیا، اس پر تہنید اور اس کے انداد کی تدبیر فرمائی گئی، اور مجدد دین کو اصلاً و اصولاً تعلیم دین ہی کی تجدید سے سروکار تھا جو گویا اصلاح کا ایجابی پہلو تھا۔

لیکن اس ایجاب کا ایک سلب بھی بہت تحقیق طلب تھا، پرہیز کے بغیر کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکتا، لادینی حکومت و سیاست کے غلبہ و تسلط کی بدولت ساری دنیا پر ایک ایسا نظام تعلیم مسلط ہو گیا ہے، جو اپنی فطرت و ساخت، اپنے آثار و نتائج کے اعتبار سے بالکل دنیوی و دنیا پرستی کا معلم اور دین کی بالکل ضد اور نفی واقع ہوا ہے۔ یہ وہ جدید یا ہمارے ملک میں انگریزی تعلیم ہے، جو دین کے لحاظ سے گویا مکھیوں کا پکا ہوا سالن ہے، یا طاعونی جراثیم میں لپٹا ہوا چوہا، جس کو جلا دینے یا جس سے بھاگ کھڑے ہونے ہی میں جان کی سلامتی ہے، اسی طرح ایمان کی سلامتی بھی، جس کو ایمان عزیز ہو اس جدید یا انگریزی تعلیم سے بعد و فرار ہی میں ہے یہی خلاصہ ہے اس مختصر و محققانہ مضمون کا جو حضرت جامع المجددین علیہ الرحمہ نے تحقیق تعلیم انگریزی کے عنوان سے تحریر فرمایا ہے، اور جو محض معنی ہی محققانہ نہیں، صورت بھی چند مسلم و بدیہی مقدمات پیش فرما کر ان کے منطقی نتائج کو واضح فرما دیا گیا ہے اس طرح کہ پہلے دس مقدمات پھر ایک ایک مقدمہ کے حوالہ سے ان کے لازمی نتائج بیان فرمائے گئے ہیں۔

لیکن چونکہ آج کل کے خطابت پسند دماغ بالعموم اتنی منطق کے متحمل نہیں رہے ہیں اس لئے ذیل میں خفیف لفظی رد و بدل کے ساتھ ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ خصوصاً نتائج کو

سب مقدمات کے بعد نہیں بلکہ ساتھ ساتھ پیش کر دیا گیا ہے تاکہ ذہن کو ہر نتیجہ کی گرفت اور مقدمہ سے اس کے ربط میں دشواری نہ ہو۔

پہلا مقدمہ۔ کسی شے کا قبیح ہونا یا تو ذاتی ہوتا ہے، یا عارضی، جیسے زنا و سرقہ کہ قباحت ان کی ذات ہی میں داخل ہے، کسی عارضی چیز کی وجہ سے نہیں آتی، اس لئے یہ کبھی کسی حالت میں جائز و مباح نہیں ہو سکتے، اور عارضی چیز کی مثال جیسے اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت ہے، کہ یہاں نفس بیح میں کوئی خرابی نہیں، بلکہ ایک عارضی سبب یعنی فاسَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ۔ کے حکم کی وجہ سے جمعہ کی اذان کے بعد بیح ناجائز و ممنوع ہوگی۔

تو اب ظاہر ہے کہ انگریزی اپنی ذات میں محض ایک زبان ہے، اور اس کی تعلیم متعارف نہاب کے اعتبار سے چند علوم و فنون کا نام ہے، اور کسی زبان یا علم و فن کا سیکھنا، اپنی ذات میں ممنوع نہیں ہو سکتا۔

دوسرا مقدمہ۔ البتہ جو چیز کسی عارضی و خارجی سبب سے مفاسد کا ذریعہ بن جائے، تو بذاتِ خود مباح ہونے کے باوجود ان مفاسد کی وجہ سے عارضی طور پر حرام ہو جا سکتی ہے، جیسے ہتھیار فروخت کرنا بذاتِ خود جائز ہے، لیکن دشمن یا غداروں کے ہاتھ بوجہ غدر و دشمنی کے فساد کے حرام ہے۔

لہذا اگر انگریزی تعلیم پر بھی مفاسد مرتب ہوتے ہوں، تو فی نفسہ جائز و مباح ہونے کے باوجود ان مفاسد کی وجہ سے حرام و ممنوع قرار پائے گی۔

تیسرا مقدمہ۔ دین، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ صرف چند ظاہری اعمال ہی کا نام نہیں، بلکہ سب سے بڑھ کر عقائد کا جزو ہے، جس پر نجات کا مدار ہے، اور ایک جز صبر و شکر، اخلاص و تواضع وغیرہ اخلاق حمیدہ کا ہے، وہ بھی محققین کے نزدیک نماز و روزہ ہی کی طرح فرض ہے، اگر کوئی صرف چند اعمال ظاہری کو پورا کر لے، نہ عقائد ٹھیک ہوں نہ اخلاق تو اس کو پورا مسلمان ظاہر ہے کہ نہ کہا جائے گا۔

اب انگریزی تعلیم کے جو آثار و دن رات مشاہد ہیں، وہ ملاحظہ ہوں کہ نماز و روزہ میں کاہلی بلکہ اعراض، عقائد میں ضغف بلکہ تشویش و انکار، اخلاق میں

تکبر و نمائش و تصنع اور کافروں کی تقلید بلکہ دینداروں کو ذلت و حقارت کی نظر سے دیکھنا۔

چوتھا مقدمہ۔ جس دنیا کی قرآن و حدیث میں ممانعت ہے، اس کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، حُب مال اور حُب جاہ یعنی مال و جاہ کا ایسا محبوب ہونا کہ ان کے مقابلہ میں دین کے ضائع ہونے کا صدمہ نہ ہو، یعنی جس چیز سے مال و جاہ کی ترقی لیکن دین کا تنزل ہو تو مال و جاہ کو ترجیح دینا اور دین کی پروا نہ کرنا قرآن و حدیث پر جن کی نظر ہے، اُن کے نزدیک یہ مقدمہ اہل بدیہیات میں ہے۔

انگریزی تعلیم یافتہ دماغ کا کام دن رات مالی ترقی اور جاہ و منصب کے حصول کی ہوس پکاتا، ان کی تحصیل کے پیچھے شرعی احکام کی ذرہ برابر بھی نظر میں وقعت نہ رہتا ہے یہی وہ دنیا ہے جو اللہ و رسول کے نزدیک مبغوض و ملعون ہے۔ پانچواں مقدمہ۔ شریعت کے احکام کا دار و مدار حقیقت پر ہے نہ کہ نام پر، پس اگر شراب کو مشرب یا زنا کو نکاح کا نام دیدیا جائے، تو اس سے ان کا حکم نہ بدل جائے گا دولوں بدستور حرام ہی رہیں گی۔

تو گو اس وقت ہوسنا کون نے اسی ملعون و مبغوض دنیا کا نام اور لعزی و ترقی رکھ لیا ہے لیکن نام یا عنوان بدل جانے سے حقیقت یا معنوں تو نہیں بدل جاتا۔

چھٹا مقدمہ۔ کسی شے پر جو حکم لگایا جاتا ہے، وہ غلبہ و اکثریت کی بنا پر ایک آدھ استثناء اس حکم کو غلط نہ ٹھہرائے گا، مثلاً سکھیا کی ایک خاص مقدار عام طور سے مہلک ہوتی ہے، لیکن اگر اتفاق سے کوئی شخص ہلاک نہ ہو، تو اس سے سکھیا کے مہلک یا زہر قاتل ہونے کے حکم میں فرق نہ آئیگا۔

اسی طرح اگر بعض لوگوں میں انگریزی تعلیم کے مذکورہ بالا آثار نہیں پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔

ساتواں مقدمہ۔ کسی چیز پر کسی خاص اثر کے مرتب ہونے کا اگر حکم لگایا جائے تو اس کے اسباب کا معلوم ہونا ضروری نہیں، مشاہدہ و تجربہ بالکل کافی ہے۔ مقناطیس کی کشش کی علت و سبب نہ بھی معلوم ہو تو بھی اس کے اثر کا حکم لگانے

کے لئے کشش کا مشاہدہ و تجربہ کافی ہے۔

لہذا صحتِ حکم کے لئے اس سے بحث ضروری نہیں کہ انگریزی تعلیم کے اثرات ملاحظہ کی صحبت، مصنفین کے خیالات، سائنس وغیرہ کسی خاص فن کی تعلیم یا تعلیم دین کے عدم اہتمام وغیرہ کس سبب سے پیدا ہوتے ہیں، جب تک یہ آثار پیدا ہوتے رہیں گے، عدم جواز کا حکم بدستور قائم رہے گا۔

ہاں اس کی اصلاح کے لئے ان اسباب پر بحث ہوگی، جس کا ذکر راقم ہذا آگے کرتا ہے۔ آٹھواں مقدمہ۔ جس شے کو حاصل کیا جاتا ہے، وہ یا تو خود مقصود ہوتی ہے یا مقصود کا ذریعہ ہوتی ہے، ذریعہ تو بقدر ضرورت ہی حاصل کیا جاتا ہے، مثلاً غذا خود مقصود ہے تو وہ ہمیشہ حاصل کرنے کی چیز ہے، بخلاف اس کے دوا تو وہ دفع مرض کا ذریعہ ہے، جب مرض نہ رہے گا، دوا سے روک دیا جائیگا۔ اس لئے جو شخص دنیا کی ایسی ضرورت سے انگریزی پڑھنا چاہے، جو شریعت کی نگاہ میں بھی ضرورت ہو اور بڑے بڑے عہدوں کے لئے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، جس میں شریعت کی طرح طرح کی مخالفت کرنا پڑتی ہے وہ حد ضرورت سے خارج ہے، یا کسی دینی ضرورت سے پڑھے، مثلاً مخالفوں کو اسلام کی دعوت دینے یا ان کے اعتراضوں کو رفع کرنے کے لئے تو اس کے لئے بقدر ضرورت اجازت ہوگی نواں مقدمہ۔ جس امر میں اہل رائے کا اختلاف ہو تو وہ دراصل دلیل کے کسی مقدمہ میں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا، کہ دلیل تو مسلم ہو اور پھر نتیجہ میں مخالفت رہے، مثلاً زید آدمی ہے اور جو آدمی ہو وہ لکھنے کی قابلیت رکھتا ہے، اب اگر کوئی شخص زید کسی گدھے کا نام رکھ دے، اور کہے کہ زید چونکہ گدھا ہے اور گدھا لکھ نہیں سکتا اس لئے زید لکھ نہیں سکتا، تو یہ اختلاف نتیجہ میں نہیں، مقدمہ یا دلیل میں ہے، جو ذرا سے غور کے بعد اٹھ جا سکتا ہے کہ اگر زید آدمی کا نام ہے تو پہلا نتیجہ صحیح اور دوسرا غلط ہے اور اگر زید گدھے کا نام ہے تو دوسرا صحیح اور پہلا غلط ہے۔

لہذا اگر کسی مستند عالم کا قول یا فتویٰ انگریزی تعلیم کے نتیجے یا جواز کے خلاف پایا جائے تو حقیقت میں یہ اختلاف کسی مقدمہ میں ہوگا، نہ کہ نتیجہ میں، سو یہاں دو مقدمے ہیں، ایک یہ کہ انگریزی کی مروجہ تعلیم سے فلاں فلاں خراب یا بے دینا کے

اثرات پیدا ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ جس تعلیم سے ایسے خراب اثرات پیدا ہوں وہ قبیح یا ناجائز ہے، سو پہلا مقدمہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، بلکہ ایک واقعہ کی تحقیق ہے، اور اسی کی تحقیق سے ایک رائے کی صحت اور دوسری کی غلطی کا فیصلہ ہو سکتا ہے لیکن دوسرا مقدمہ شرعی مسئلہ اور کُلی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک طرف کوئی مستند عالم یہ بھی تسلیم کرے کہ انگریزی تعلیم سے الحاد و بے دینی پیدا ہوتی ہے، اور پھر بھی اس کے جواز کا فتویٰ دے۔

آخری دسواں مقدمہ۔ یہ ہے کہ جو حکم یا فتویٰ کسی عارضی سبب سے ہوتا ہے وہ قدرۃً اس عارض کے بدل جانے سے بدل جاتا ہے، اس لئے اگر کسی طرح انگریزی تعلیم کے ان خراب اور مخالف دین آثار کا انسداد ہو جائے جن کی اوپر تفصیل گذری، اور اس تعلیم کی عام و اکثری مضرت کا دفعیہ ہو جائے، تو اس کے قبیح یا عدم جواز کا حکم بھی اٹھ جاوے گا، گو موجودہ حالت میں اس کی امید بہت کم ہے۔

کم کیا بس منطقی امکان سے زیادہ نہیں، راقم ہذا چوتھائی صدی سے زیادہ انگریزی کی نئی تعلیم گاہوں کالج اور یونیورسٹی ہی میں خدمت کرتا رہا، خصوصاً عثمانیہ یونیورسٹی (حیدرآباد) میں اس تعلیم کی دینی مضرتوں کے انسداد کا دنیا بھر سے زیادہ ظاہری سامان فراہم اسکول ہی سے دینیات کی تعلیم لازم، جن کا سلسلہ برابر ہی اے تک قائم، باقاعدہ امتحانات جس میں کامیابی کے بغیر سند نہیں مل سکتی۔ پھر اسکول سے لیکر کالج اور میٹرکولیشن سے لے کر ایم اے تک بلکہ پی ایچ ڈی تک علوم جدیدہ کے پہلو بہ پہلو تفسیر و حدیث وغیرہ علوم دینیہ کا مستقل انتظام، اور پورا شعبہ موجود۔ اساتذہ کی تنخواہیں بھی بیش قرار اور قریب قریب وہی جو مغربی علوم و فنون کے اساتذہ کا۔ طلباء کے لئے حکومت کے محکموں اور نوکریوں میں بھی وہی حقوق جو مغربیات کے طلباء کے۔ وظائف کا دروازہ بھی یورپ تک کے لئے دینیات والوں کے حق میں بھی کھلا ہوا۔ شیعہ دینیات کے اساتذہ بھی خصوصاً دور اول کے ماشاء اللہ ایسے کہ اپنے لائق سے لائق مغربی تعلیم کے ہم چشموں یا اپنے شاگردوں کے سامنے کسی طرح شرمندہ نہیں۔ تعطیل اتوار کی نہیں جمعہ کی، رمضان شریف میں روزہ داروں کی رعایت میں اوقات صبح کے، بلکہ گرمیوں کے رمضان میں سرے سے تعطیل، پھر حکمران کے متعلق سب کو معلوم کہ دینی علوم و روایات کے برقرار رکھنے پر مصر۔

الطائفة

غرض مغربی علوم اور مغربیت کے دینی اثرات کے مقابلہ میں علوم دین کے لزوم و اہتمام اور اہل دین کی وقعت و عظمت وغیرہ کے بہت کچھ ظاہری اسباب مہیا ہونے پر بھی غلبہ طلبا و اساتذہ سب پر مغربیت اور لادینی اثرات ہی کا وہ بھی مغربی علوم و فنون ہی کی حد تک نہیں، شعبہ دینیات کے تفسیر و حدیث و فقہ و کلام خالص دینی علوم فنون کے پڑھنے والے جن کے لئے انگریزی محض زبان کی حد تک لازم ان تک کے عادات و اطوار، افکار و خیالات، صورت و سیرت ظاہر و باطن سب پر رنگ اپنے مغربی رفقاء ہی کا غالب ہے، (آلما شاء اللہ) طلبا تو طلبا اساتذہ میں بھی چند قدیم دینی درس گاہوں کی صورتیں رہ گئی ہیں جن کے رخصت ہونے پر دینی علوم کے اساتذہ کو صورتہ بھی لادینی علوم کے اساتذہ سے الگ کرنا دشوار ہو گا، رہا استثناء سو وہ استثناء ہی ہے۔ اور اب تو لادینی یا سکولر حکومت شعبہ دینیات کے نام کی ہی روداد نہیں!

جامعہ ملیہ

یہی حال کم و بیش جامعہ ملیہ دہلی کا۔ جو ملیہ سے زیادہ اپنی تعلیم و تربیت میں اسلامیت ہونے کی مدعی ہے، اور اس سے بڑھ چڑھ کر حال نام نہاد مسلم یونیورسٹی (علیگڑھ) کا ہے، ان تجربات سے بہر حال حضرت جامعہ المجددین علیہ الرحمہ کی اس رائے کی توثیق ہوتی ہے، کہ اس قسم کی الہادی تدابیر کے باوجود "موجودہ حالات میں اس کی امید بہت کم ہے" کہ انگریزی تعلیم کی ان عام و اکثری مضرتوں کا دفعیہ ہو سکے، جن کی تفصیل اوپر گزری، خصوصاً لادینی کے ساتھ ساتھ محض دینی تعلیم کا پیوند لگا دینا یہ تو تجربہ نے ثابت کر دیا کہ بالکل ہی نامکام ہے، بلکہ اس پیوند کاری کا خود دینی تعلیم والوں پر الٹا ہی اثر پڑتا ہے کہ:

”وہی نماز روزہ میں کاہلی، بلکہ اعراض وہی عقائد میں ضعف و تشویش وہی اخلاق میں تکبر و تصنع وہی کفار کی تقلید کا فوق و شوق وہی مال و جاہ کی محبت کہ ان کی طلب میں دین کے ضائع ہونے کا صدمہ نہ ہو اور دن رات دماغ میں بس مالی ترقی اور جاہ و منصب کی ہوس پکاتے رہنا، جس چیز سے مال و جاہ کی ترقی، لیکن دین کا تنزل ہو تو مال و جاہ کو ترجیح دینا اور دین کی پروا نہ کرنا۔“

سے بزرگانِ ندوہ نے نیک نیتی سے، اور لادینی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا نہیں، بلکہ دینی تعلیم کے ساتھ انگریزی تعلیم کا اور سا پیوند لگا دیا تھا، اس نے بھی بعض اور اسباب کے ساتھ مل کر دینی و اخلاقی اعتبار سے (بقیہ جانشیہ ص ۱۲۲ پر ملاحظہ ہو)

دین کی پروا

جن کو دین کی کچھ بھی پروا ہے، وہ خوب جانتا ہے، کہ دین کا مطلوب دنیا نہیں، دنیا صرف راستہ ہے منزل نہیں، لہذا اگر ایسی صورت ہو کہ راستہ میں چند گھنٹوں یا ایک آدھ دن کی کھانے پینے کی بھی تکلیف ہو، سفر بھی تھوڑا کلاس میں بلکہ آج کل کی طرح ریل کے پائڈان پر تنک کر ہی، جس میں جان تک کا خطرہ ہے، اٹے کر لینا پڑے اور منزل پر پہنچ کر مستقل سکونت کے لئے باغ و بہنگہ لو کر چاکر عیش و راحت کے سارے لوازم مہیا ہوں، تو اس سے بڑھ کر کون احمق ہو گا، جو اس عیش و راحت کو قربان کر کے چند گھنٹوں کے سفر میں فرسٹ یا سیلون واسپٹل کے پیچھے جان دیتا پھرے، اور منزل پر پہنچ کر جھوٹا بھی نصیب نہ ہو، بلکہ دن رات نیچے تپتی ہوئی صحرائے آفریقہ کی ریت کا بستر ہو، اور اوپر دماغ کھولانے والے خط استواء کے سورج کا ساٹھان، ہاں اگر منزل کے کامل و دائم عیش و آرام میں کچھ خلل آئے بغیر سفر میں کچھ انٹر سکند کی راحت میسر آ جائے تو مضائقہ نہیں، نہ خواہ مخواہ سفر میں مصیبت اٹھانا فرض ہے۔ غرض جس شخص کو کچھ احساس ہے، کہ مسلمان ہونے کے معنی اس حقیقت پر ایمان لانے کے ہیں، کہ دنیا کی ساٹھ ستر سال کی عارضی زندگی، وہ بھی ایسی غیر یقینی کہ یقین ایک سانس کا بھی نہیں، کے سفر کے بعد ایک ابدی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہماری اصلی منزل ہے، جہاں کے روحانی انعامات و درجات کا تو تصور ہی کون کر سکتا ہے۔ لباس و طعام، تزک و احتشام عیش و آرام جس کے لئے ہم اس دنیا میں مرتے ہیں، وہ بھی یہاں سے ہزار ہا ہزار درجہ بہتر ہو گا اور یہ تمام احکام شریعت کی متابعت اور خدا و رسول کی رضا و اطاعت پر موقوف ہے تو وہاں کی جنت کے مقابلہ میں بھلا یہاں کی ہفت اقلیم کی سلطنت کو بھی کون ترجیح دے گا؟ غالباً

(بقیہ حاشیہ ص ۱۲۱) کچھ اسی طرح کے آثار و رجحانات پیدا کئے، جو حضرت محمدؐ نے ان چار سطروں میں خالص انگریزی تعلیم کے جمع فرمادیئے ہیں، الحمد للہ کہ اب نسبت کچھ اصلاح ہے، مگر نسبت ہی علامات کے ساتھ اسباب مرض کی طرف توجہ اب بھی نہیں۔

انگریزی اب بالکل نکال دی گئی ہے۔ تمام طلباء کے لئے اس کے ردوم کا ختم کر دینا یقیناً بڑا مستحسن قدم ہے۔ البتہ جن طلباء میں ذہنی صلاحیت اور دینی استقامت کا تجربہ و اطمینان اور جن سے امید ہو کہ جدید علوم و فنون افکار و تصورات کے مقابلہ میں دین کی حمایت و تبلیغ کی کوئی تحریری یا تقریری خدمت انجام دے سکیں گے صرف ان کے لئے اس انتظام کا بہتر قرار رہنا ضروری ہے کہ فراغ کے بعد دو تین سال صرف انگریزی اور اس جدید علم و فن کی تعلیم دلائی جائے جس سے طبیعت کو خاص مناسبت ہو۔

حضرت ابراہیم ادہم کی حکایت ہے کہ اُن سے کسی نے بہت تعجب سے کہا کہ آپ نے کمال ہی فرمایا، کہ بادشاہی پرلات مار دی، فرمایا میں نے کیا کمال کیا، کمال اُن کا ہے جنہوں نے جنت پرلات مار دی۔

جب تک دین و دنیا کے تعلق کا یہ دینی تصور دل و دماغ پر غالب نہ ہو، اُس وقت تک دینی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا خالی پیوند لگا دینے سے ہرگز دل و دماغ میں دنیا پر دین کی ترجیح و تفوق کا رنگ و رجحان پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ رنگ پورا تو جب ہی چڑھ سکتا ہے کہ موجودہ لادینی تعلیم و تہذیب جس کا نصب العین سرتاسر "حیات دنیا کی زمیت ہے" اور اس نصب العین کی پشت پناہی کرنے والے نظام حکومت و سیاست کا سرے سے تختہ الٹ جائے، اور اس کی جگہ تعلیم و تمدن، حکومت و سیاست سارے ماحول پر عملاً دینی تصورات کی حکومت ہو جائے۔

باقی خالص دنیا پرستی کے موجودہ تعلیمی و تمدنی نظامات کے رہتے اُن کے لادینی اثرات کے السداد کی تھوڑی بہت اگر کوئی صورت ہے تو باہمت اہل دین کے لئے تو یہ کہ اس تعلیم کے مقابلہ میں اپنی اولاد کو سرے سے جاہل رکھنا گوارا فرمائیں یا جو کچھ برسی بھلا خالص دینی تعلیم دلا سکیں دلائیں، خواہ اس کی بدولت دنیا میں اولاد کو "کارخانوں کا مزدور بننا پڑے" لیکن اس مزدور کا اگر عمل نہیں تو انشاء اللہ کچھ نہ کچھ ایمان سلامت رہ جائے گا۔ یا پھر دوسرے درجہ پر جن کو اتنی ہمت نہیں وہ اس موجودہ انگریزی تعلیم سے پہلے بقدر ضرورت دینی تعلیم اور اس کے ساتھ لیکن اس سے بڑھ کر دینی تربیت کا اہتمام کریں، اور یہ اہتمام بالخصوص تربیت کا انگریزی تعلیم کے اختتام تک جاری رہے، اور ولایت مآب "دیورپ رٹیرن" بنانے کا نام تو کسی حال میں نہ لیں، کیونکہ وہاں سے اپنے دین کو بس کوئی پیدائشی ذاتی "ولایت مآب" ہی بچا لا سکتا ہے۔ دینی تعلیم سے پہلے بقدر ضرورت دینی تعلیم و تربیت کی عام صورت یہ ہے کہ ابتدائی تعلیم اور ختم قرآن و ترجیحاً حافظہ ورنہ ناظرہ، کے بعد حضرت علیہ الرحمہ کا سہ سالہ تلخیصات عشر والا دینی تعلیم کا نصاب اس دینی تربیت کے اہتمام کے ساتھ پورا کرایا جائے

۱۔ جس میں ہندوستان و پاکستان کی سیاسی آزادی کے بعد بھی قطعاً اب تک کوئی فرق نہیں۔

جس کا نمونہ ہر دوری کا اثر شدت المداہس ہے، اور اس نمونہ پر جہاں جہاں اور جتنے زائد سے زائد مدارس قائم کئے جاسکیں گئے جائیں۔

اس لازمی دینی تعلیم اور تربیت کے معتد بہ رسوخ کے بعد اسکول و کالج میں اس شرط کے ساتھ داخل کیا جاسکتا ہے، کہ قیام ہاسٹل میں ہرگز نہ ہو گھر ہی پر ہو اور سرپرست اس تربیت کی پوری حفاظت کریں جو اثر شدت المداہس یا اس کے ہم رنگ مدارس میں بچوں نے حاصل کی ہے۔ یا ایسے ہی اسلامی اقامت خانے (ہاسٹل) قائم کئے جائیں جن میں اثر شدت المداہس کے رنگ کی دینی تربیت کا پورا انتظام ہو اور دینی تعلیم کے اس سارے دوران میں حضرت علیہ الرحمہ کی کتابوں خصوصاً ملفوظات و مواعظ کا مطالعہ لازماً بلا ناغہ روزانہ کچھ نہ کچھ جاری رہے، یا ایسے اقامت خانوں کا نگران روزانہ آدھ گھنٹہ لڑکوں کو جمع کر کے لازماً سنا دیا کرے، باوجود اس کے پھر بھی اگر اسکول یا کالج میں کسی لڑکے کا رنگ بگڑنا دیکھے تو اس کو فوراً ہٹالے اور اس کے لئے جدید تعلیم کا خیال بالکل ہی ترک کر کے کسی اور معاشی راہ پر ڈال دے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، ان شاء اللہ وہ بھی دنیا میں محتاج و مضطر نہ ہوگا، گو کلکٹر و کمشنر نہ ہو مگر خدا اور رسول کے حضور میں مسلمان کی حیثیت سے تو حاضر ہوگا۔ باقی جن قلوب میں دین کی اتنی بھی قیمت و وقعت نہیں، ان سے نہ خطاب ہے، نہ ان کی خدمت میں عرض کرنے کا کچھ حاصل سَيَعْلَمُونَ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔

دنیا کی آٹھ بند ہوتے ہی دین کی آنکھ خود کھل جائے گی، مگر اس وقت اس حسرت کے سوا کیا حاصل کہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكْذِبْ بَاٰیٰتِ رَبِّنَا وَلَٰكُنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

ہائے کیا اچھا ہو کہ ہم پھر دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں اور اگر ایسا ہو تو ہم اپنے رب کی آیات کی پھر تکذیب نہ کریں، اور ضرور مومن ہو جائیں۔

انگریزی تعلیم اور اس کے اسکولوں کالجوں کی نسبت اوپر جو کچھ کہا گیا یہ انگریزی زبان و حکومت کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ جو تعلیم بھی ان اسکولوں کالجوں کے رنگ میں ہوگی اس کا اثر یہی ہوگا، جیسا کہ ترکی اور مصر وغیرہ میں ہو رہا ہے۔ اور اس اثر کے روک بھتام کی ممکن تدابیر بھی وہی ہیں جو اوپر عرض کی گئیں۔

لے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، اور جس کا اصل امتیاز خالص دینی تربیت ہے۔

اردو کی شرعی حیثیت

آخر میں چند سطریں اردو کے متعلق بھی لائق توجہ ہیں۔ اوپر تعلیم سے متعلق جن تجدیدات و اصلاحات کو پیش کیا گیا وہ تو کم و بیش سب ہی ایسی ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ان کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، لیکن اردو زبان کا معاملہ صرف پاکستان و ہندوستان کے مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ادیہی نہیں کہ یہاں کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ اس زبان کو عموم و قبول حاصل ہے، بلکہ اس نے اپنے اندر اسلامی و دینی علوم و فنون کا اتنا سرمایہ پیدا و منتقل کر لیا ہے، جو نہ صرف مسلمانوں کی عام ضروری دینی تعلیم کے لئے کافی ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کے وسیع تر مطالعہ کا شوق رکھنے والوں کی تشفی کے لئے بھی عقلی و نقلی دونوں اعتبار سے بہت کچھ ذخیرہ فراہم ہو گیا ہے، اور راقم احقر کے نزدیک تو اردو کی اہمیت و نفیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ محدود وقت کی خدمات و تجدیدات کے قریب قریب سارے خزانوں کی کنجی یہی ہے۔

غالباً اردو ہی سے متعلق کسی کالفرنس میں عام اشتہار اور خاص خط کے ذریعہ حضرت سے شرکت کی درخواست کی گئی تھی، جواب میں تحریر فرمایا کہ

”اس خط و اشتہار کو پڑھ کر قلب میں ایک حرکت پیدا ہوئی، کہ اس خدمت میں کسی قسم کا حصہ لیا جاوے، چونکہ متعارف خدمتوں کی نہ صلاحیت نہ قوت، اور غالباً ایک خاص خدمت کی طرف کسی نے توجہ بھی نہیں کی۔“

ظاہر ہے دینی اعتبار سے ہر چھوٹی بڑی چیز کی طرف توجہ تو وقت کے مجدد اور جامع الجہدین ہی کی ہو سکتی ہے، بہر حال وہ خاص خدمت۔

”اس کی تحقیق ہے کہ اس تحریک کا شرعی درجہ کیا ہے، اس کی ضرورت بھی اس لئے محسوس ہوئی کہ اس وقت اس مسئلہ نے تمدن و قومیت سے آگے بڑھ کر مذہبیت کی صورت اختیار کر لی ہے۔ اس لئے خیال ہوا کہ اس کے متعلق ایک

مختصر تحریر منضبط کر کے بھیج دی جائے۔

اس تحریر میں پہلے چند آیات اور حدیث و فقہ کی روایات نقل فرمائی گئی ہیں اور پھر ان سے اردو کی دینی و شرعی حیثیت و درجہ کے متعلق نتائج اخذ فرمائے گئے ہیں، جو تلخیص و تسہیل کے ساتھ درج ذیل ہیں:-

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زبانوں کے اختلاف و تنوع اور قدرت بیان کو خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی آیات و دلائل میں شمار فرمایا گیا ہے

”وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافَ اَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاوَانِكُمْ لَا اِیْدَ“

اور قدرت بیان کی تعلیم کو بطور احسان و انعام جتلا یا گیا ہے کہ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ اس سے معلوم ہوا کہ تمام زبانوں کا استعمال بجائے خود جائز و مباح ہے۔ لیکن اسباب و خصوصیات عادیہ کی بنا پر جو بمنزلہ لازم کے ہو گئی ہیں بعض زبانوں کو بعض پر فوقیت و فضیلت بھی حاصل ہے، چنانچہ عربی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو تین وجہ سے محبوب رکھو، ایک تو میں عربی ہوں، دوسرے قرآن عربی ہے اور تیسرے اہل جنت کی گفتگو عربی ہوگی (احبوا العربیة لثلاث کلائی عربی و القرآن عربی و کلام اهل الجنة عربی)۔ اسی طرح مثلاً اعراب و دیہاتیوں کے بعض محاوروں کے استعمال سے منع فرمایا گیا ہے اَلَا تَغْلِبُكُمْ اَلْاَعْرَابُ عَلَیْ اَسْمِ صَلَاتِکُمْ فَاتَّهَا فِی کِتَابِ اللّٰهِ الْعِشَاءُ وَانْتُمْ یَقِیْمُونَ بِجَلَابِ الْاَبْلِ

”ان دونوں روایتوں میں غور کرنے سے صاف معلوم و مفہوم ہوتا ہے کہ کسی زبان کی فضیلت یا مذمت یا مدح و قبح کی بنیاد اس زبان کا کسی فضیلت یا مذمت کی چیز سے تعلق و تلبس ہے، خواہ وہ چیز کوئی عین ہو یا معنی۔“

عربی کے بعد فارسی کو اسی تعلق و تلبس کی بنا پر چند وجوہ سے فضیلت حاصل ہے

فارسی کی فضیلت

ایک تو اس کا مقبولین کی جماعت سے تعلق، چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ”ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، کہ سورہ جمد اور اس میں یہ آیت نازل ہوئی، وَ اٰخِرِیْنَ مِنْهُمْ مَلَا یَلْعَنُوْا بِہُمْ۔“

لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس آیت میں کون لوگ مراد ہیں؟ اس وقت سلمان فارسی بھی حاضر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے اوپر رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان لڑیا میں ہوتا تو یہ لوگ اس کو ضرور حاصل کر لیتے۔ اس کی شرح لمحات میں ہے کہ مراد لَمَّا یَذْهَبُوا بِهْمُ سے عجمی یا فارسی حضرات تابعین رضی اللہ عنہم مراد ہیں، کیونکہ وہ صحابہ سے لاحق تھے اور اکثر تابعی اہل عجم میں سے ہی ہوئے ہیں، اور علم و اجتہاد جس درجہ کا ان عجمی تابعین میں ظاہر ہوا دوسروں میں نہیں ہوا۔

”بعض محققین نے لکھا ہے کہ فارسی کی اسی فضیلت کی بنا پر امام صاحب نے ایک وقت میں فارسی میں نماز کی قرأت کو جائز فرما دیا تھا، گو بعد میں رجوع فرمایا، لیکن رجوع فرمانے سے اصل بنا کا معدوم ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ رجوع کسی اور قوی تر معارض کے سبب ہے نہ کہ اصل بنا کے ضیف کے سبب۔ اسی طرح بخاری وغیرہ کی بعض روایات نقل فرمائی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا فارسی الفاظ استعمال فرمانا ثابت ہے۔ اور بعض روایات میں فارسی کے استعمال کی جو کراہت آئی ہے، اس کی سند کو خود امام بخاری نے راہی یا پوچ قرار دیا ہے، اس کے علاوہ یہ کراہت جب ہے کہ کوئی فارسی کو عربی پر ترجیح دے۔

اسی طرح درمختار وغیرہ فقہ کی بعض کتابوں میں فارسی کو عربی سے اقرب اور دوسری زبانوں کے مقابلہ میں اس کی فصاحت کی بنا پر اشراف قرار دیا ہے، بخلاف بعض دوسری زبانوں کے جن میں نقل و تنافر بکثرت ہے۔

ان تمہیدی مقدمات سے حضرت علیہ الرحمہ نے اردو کے متعلق جو تفریح فرمائی ہے، وہ کم و بیش بالفاظ ملاحظہ ہو:

”جس طرح فارسی کو عربی سے مناسبت ہونے کی بنا پر فضیلت حاصل ہے، اور چونکہ اس فضیلت کا اثر احکام دینیہ میں بھی ہے، اس لئے وہ فضیلت دینیہ ہے، اسی طرح بلاشبہ عربی و فارسی کے ساتھ ایسی ہی ایسی ہی قومی مناسبت ہونے سے اردو کو بھی دینی فضیلت حاصل ہے۔ بلکہ فارسی کو تو عربی سے صرف مشابہت ہی کی مناسبت ہے، اور اردو کو فارسی و عربی سے جزیت کی مناسبت

ہے، فارسی و عربی کے جس کثرت سے مفرد الفاظ اردو میں ہیں کسی زبان میں بھی نہیں، مفرد الفاظ ہی کیا بہت سے جملے ایسے ہوتے ہیں کہ بجز کمالی وغیرہ روابط کے پورا مادہ فارسی و عربی میں ہوتا ہے، یہ تو فضیلت والی زبانوں سے اردو کا تعلق و تلبس ہوا۔

دوسری فضیلت اردو کی یہ ہے کہ دینی علوم خصوصاً صحیح و مقبول تصوف کا اس میں غیر محدود و غیر محصور ذخیرہ ہے، جس کو علماء و مشائخ نے صدیوں کی مشقت اور اہتمام سے جمع فرمایا ہے، خدا نخواستہ اگر یہ زبان ضائع ہوگئی تو یہ تمام ذخیرہ ضائع ہو جائے گا۔ بالخصوص عام مسلمانوں کے لئے تو علم دین کا کوئی ذریعہ ہی نہ رہے گا، کیونکہ عربی نہ جاننے کی وجہ سے ان کا استفادہ اردو ہی پر موقوف ہے، اور کیا اس طرح ضائع ہوتے دیکھنا اور انداد نہ کرنا شرعاً جائز ہے

ایک اور خصوصیت اردو کی اس کا سلیس و آسان ہونا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ حصول دین کے لئے زبان کی آسانی اور تیسیر کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ قَدْ اَنْمَأَیْسَرْنَا لَیْسَانَکَ لِتُبَشِّرَہِ الْمُنْقِیْنَ، وَقَالَ تَعَالٰی قَدْ اَنْمَأَیْسَرْنَا لَیْسَانَکَ لَعَلَّہُمْ یَتَذَکَّرُوْنَ۔ وغیرہ آیات سے ظاہر ہے۔ غرض اس وقت اردو زبان کی حفاظت دین کی حفاظت ہے، اس بنا پر یہ حفاظت حب استطاعت واجب و طاعت ہے، اور یاد وجود قدرت کے اس میں غفلت کرنا معصیت و موجب مواخذہ آخرت ہوگا، واللہ واعلم

(النور رمضان ۱۳۵۸ھ)

آخر میں بلکہ اول و آخر زیادہ یاد رکھنے کی باتیں دو ہیں، ایک یہ کہ جن علوم و فنون کا تعلق انسان کی خالص دنیاوی و مادی و حیوانی زندگی کی حاجات یا آرائش و نمائش سے ہو وہ دین کی نگاہ میں سرے سے علم ہی نہیں۔ علم وہی ہے جو انسان کے انسانی مقصد وجود اور اس کی تکمیل کی راہ دکھلائے۔ ثانیاً اس زمانہ میں پتھر کے بتوں سے بڑھ کر جو نئے نئے بت تراش لئے گئے ہیں ان میں سے ایک "علم برائے علم" ہے۔ یعنی علم و فن کو بذات خود ایک صنم اعظم بنا لیا گیا ہے۔ غرض ضروری سے غیر ضروری شے کی تحقیقات عالیہ (درسج) بھی فی نفسہ مطلوب و مہبود بن گئی ہے، اگر فردوسی کی قبر کا پتہ لگا کر اس پر بھی کوئی ایک مقالہ لکھ ڈالے تو

وہ بھی ڈاکٹر یعنی علم کا مستند محقق و ماہر بن جاسکتا ہے !
 سو خوب معلوم رہنا چاہیے، کہ توحید کامل کے دین (اسلام) میں خدا یا خدا کی
 رضا جوئی کے سوا کسی شے کو بھی مطلوب و مقصود بالذات بنانا اگر جلی نہیں تو خفی شرک
 یقیناً ہے، حتیٰ کہ خود علم دین بھی محض خدا شناسی اور خدا کی رضا طلبی ہی کے لئے مطلوب ہے
 نفس دینی معلومات کا جان لینا یا مسائل و اصطلاحات کا یاد کر لینا قطعاً مقصود بالذات
 نہیں۔ بالفاظ دیگر "علم علم کے لئے نہیں" بلکہ "علم عمل کے لئے مطلوب ہے" خواہ یہ عمل قلب
 کا ہو یا قالب کا، ایمانیات و اعتقادات تک کا فقط جان لینا مطلق نافع نہیں، ان کا بھی
 اصل مطلوب ماننا یعنی قبول و یقین کرنا ہے، جو قلب کا عمل ہے، علم بلا عمل یا علم غیر نافع سے
 تو صراحتہً پناہ مانگی گئی ہے۔

ماننے کے دو درجے | ماننے کا بھی ایک نرا اعتقادی درجہ ہوتا ہے جیسا کہ
 عام مسلمانوں کا اور ایک حالی درجہ ہے جس میں
 قلب کا قبول و یقین پوری زندگی کا حال بن جاتا ہے، اور زندگی کے سارے اعمال و افعال
 حرکات و سکنات میں ابھرتا ہے۔ کامل یا پورا علم بھی پوری طرح کا ماننا ہے، یعنی خدا کا تعلق
 یا اس کی رضا و ناراضی، محبت و خشیت قلب کا ایسا حال بن جائے کہ نہ اختیار بھر طاعت میں
 کمی ہو اور نہ دیدہ و دانستہ محصیت پر جرات العلم و الخشیت نام کے وعظ میں ارشاد ہے کہ
علم کی دو قسمیں | اور یہی قسمیں خشیت میں بھی جاری ہیں ایک
 عقلی اور ایک حالی، عقلی کو کبھی اعتقادی
 اور حالی کو طبی بھی کہہ دیتے ہیں، پس جہاں علم اعتقادی ہے وہاں خشیت بھی
 اعتقادی ہے، اور جہاں علم حالی ہے، جس کو کہا ہے کہ
 ع علم گر بردل زنی بارے بود
 وہاں خشیت بھی حالی ہوگی۔

مگر کمال دین کے لئے خشیت اعتقادی کافی نہیں، بلکہ خشیت حالی کی ضرورت
 ہے، اور اسی درجہ کمال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 "لَا يَزِنِي إِلَّا الْإِيمَانُ بِرَبِّي وَهُوَ مُؤْمِنٌ"۔ یہاں محض ایمان (یا علم و
 تصدیق) اعتقادی مراد نہیں، بلکہ ایمان کامل مراد ہے، جس کے ساتھ خشیت

حالی ہوتی ہے اب یہ اعتراض بھی رفع ہو گیا کہ ہم بہت مسلمانوں کو زنا کار دیکھتے ہیں جواب یہ ہے کہ یہاں مراد مومن اعتقادی نہیں مومن حالی ہے۔

ایسا علم جو خشیت سے خالی ہو علم ہی نہیں
کون علم میراث انبیاء ہے | صاحبو! علم کو میراث انبیاء کہا جاتا ہے تو

اب دیکھ لو کہ انبیاء کی میراث کونسا علم ہے کیا انبیاء کا علم بھی نفوذ باللہ ایسا ہی تھا جس میں محض مسائل و اصطلاحات کا تلفظ ہو اور خشیت کا نام نہ ہو ہرگز نہیں وہاں تو یہ حالت تھی کہ جتنا علم بڑھتا تھا اتنی ہی خشیت بڑھتی تھی حدیث میں ہے کہ اَنَا عَلَّمُكُمْ بِاللّٰهِ وَآخِشَاكُمْ بِاللّٰهِ میں تم سب سے زیادہ خدا کو جاننے والا اور تم سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں۔

اب ہماری حالت یہ ہے کہ علم حاصل کرتے ہیں پھر پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اسی کو مقصود سمجھتے ہیں تحصیل خشیت کا اہتمام نہیں کرتے حالانکہ غیر مقصود کو مقصود بنالینا مکروہ ہے فقہائے اس راز کو خوب سمجھا فرماتے ہیں کہ ایک وضو سے جب تک نماز نہ پڑھ لی جائے دوسرا وضو کرنا مکروہ ہے ظاہر میں تو شبہ ہوتا ہے کہ فقہانے ایک عبادت کو منع کیا مگر یہ لوگ حکمائے امت ہیں واقعی خوب سمجھے کہ جب اس نے غیر مقصود کو ادا کے مقصود سے پہلے مکر کیا تو غیر مقصود کو مقصود بنالینا اور یہ حد سے تجاوز ہے اسی طرح تعلیم و تعلم کو مقصود بالذات سمجھ لینا بھی حد سے تجاوز ہے۔

غرض دین کی نگاہ میں حقیقی و کامل علم وہی ہے جو عمل و اثر سے خالی نہ ہو یعنی جو اطاعت کا باعث و موجب اور معصیت سے مانع و حاجب ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں كَرَّاسْئَلَاكَ مِنْ خَشْيَتِكَ مَا

تَحُولُ بِهِ بَيْنِي وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ (اس سے

معلوم ہوا کہ خشیت مطلوبہ وہی ہے جو گناہ سے حائل (مانع) ہو جائے پس جس کو یہ حیولت حاصل نہیں اس کو خشیت مطلوبہ ہی حاصل نہیں اور جب خشیت نہیں تو علم حاصل ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں گو کتابی علم حاصل ہو مگر شریعت میں جو علم مطلوب ہے وہ محض کتابی نہیں بلکہ وہ علم مطلوب ہے جو دل میں اتر جائے

غرض مطلوب شرعی وہی علم ہے جو اپنے اثر کے ساتھ ہو، جیسے تلوار وہی مطلوب ہے جس میں کاٹ بھی ہو ورنہ برائے نام تلوار ہوگی، لہذا جو علم اثر سے خالی ہو وہ مطلوب ہی نہ ہوگا، خوب سمجھ لو اسی کو کہتے ہیں کہ

علم چه بود آنکہ رہ بنایدت زنگ گراہی نودل بزدایدت

این ہو سہا از سرت بیرون کند خوف و خشیت در دلت افزودن کند

تو ندانی جز یجوز ولا یجوز خود ندانی تو کہ حوری یا عجوز

اور جب تمہارے علم کی یہ حالت ہے کہ سوائے یجوز ولا یجوز (جائز و ناجائز) کے کچھ خبر نہیں، اور دل پر اس کا کچھ اثر نہیں، تو پھر اس پر بے تکلف اس خطاب کو مرتب کر سکتے ہیں کہ

ایہما القوم الذی فی المداہدہ

کلّ ما حصلتموه وسوسہ

علم نبود غیر علم عاشقی مابقی تلبیس ابلیس شقی

مگر ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ "علم عاشقی" سے کیا مراد ہے۔

علم دینا فقہ است و قرآن و حدیث ہر کہ خواند غیر ازین گرد و خبیث

یہ اس واسطے کہدیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ علم عاشقی سے مراد علم دین ہے

کیونکہ ایمان ہی عشق ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ اور جب

ایمان عشق ہے، تو اسی کا علم عاشقی ہے۔

دین کے مدرسوں کا بھی ایسا علم جو عشق و اثر سے خالی، اور صرف مسائل و اصطلاحات کا حفظ ہو، جب وہ "تک" و "سوسہ" اور تلبیس ابلیس کے سوا کچھ نہیں تو دنیا کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کے علوم و فنون اور تحقیقات عالیہ (ریسرچ) کو علم کا نام دنیا حقیقی علم کی نظر میں زندگی کو کافور کا نام دینے کے سوا کیا ہے۔

تجدید تبلیغ

جس طرح تعلیم کے صحیح معنی انسان کو اس کے مقصد وجود اور اس مقصد کی تحصیل و تکمیل کا علم عطا کرنا ہیں، اسی طرح تبلیغ کے معنی اس علم کو حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانا ہیں۔ حضرات انبیا اور حضرت خاتم الانبیا نبی الاسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو انسان کے مقصد وجود اور اس کی تحصیل و تکمیل کے وسائل کا علم راست اللہ تعالیٰ سے وحی و تنزیل کے ذریعہ عطا ہوا ہے۔ پھر تمام انبیا اور نبی الانبیا صلی اللہ علیہم وسلم آخر دم تک اسی کو دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ دراصل " (رسول اللہ) یا پیغمبر خدا کی لفظی و معنوی حقیقت اور نبوت کا بنیادی فریضہ و منصب مبلغ ہونا ہی ہے۔ یعنی وہ اللہ کے رسالہ یا پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔

آخری رسول نے اپنے آخری رج — حجۃ الوداع — کے موقع پر امت کو وداع درخست فرماتے ہوئے رسالت و نبوت کے اسی منصب و فریضہ کی اہمیت بتلا کر اس کی کما حقہ ادائی پر اس طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم کو گواہ فرمایا کہ "دیکھو کیا میں نے (خدا کا پیغام) پہنچا دیا؟ نیز تم سے اللہ تعالیٰ کے یہاں میری نسبت سوال ہوگا تو کیا جواب دو گے؟ سننے والوں نے گواہی دی کہ ہم "عرض کریں گے کہ آپ نے (اللہ کا پیغام) پہنچا دیا اور اپنا فرض پورا فرما دیا" بندوں کی اس گواہی پر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ فرما کر خود حق تعالیٰ کو تین بار گواہ فرمایا کہ "اے اللہ آپ بھی گواہ رہیں اے اللہ آپ بھی گواہ رہیں۔ اے اللہ آپ بھی گواہ رہیں" ساتھ ہی اپنے بعد امت کو یہ فریضہ سپرد فرماتے ہوئے حکم دیا کہ "حاضر غائب کو پہنچاتا رہے" یہی معنی ہیں امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے

لے الْاَهِلْ بِلَغَتِیْ۔

لے اللّٰهُمَّ اشْهَدْ لّے فلیبلغ الشّاهد الغائب۔ یہ سب اجزا بخاری شریف

مشکوٰۃ شریف کی روایات حجۃ الوداع سے ماخوذ ہیں۔

امت مبعوث ہونے کے کہ تبلیغ یا پہونچانے کی جو خدمت حضرات انبیا کے سپرد انفرادی طور پر ہوئی تھی وہ ختم نبوت کے بعد ساری امت پر مجموعی حیثیت سے عائد فرمادی گئی ہے۔

اس بنا پر حضرت مجدد تھانوی علیہ الرحمہ کی نگاہ تجدید میں یہ پہونچانا یا تبلیغ نہ صرف دین کی تمام دیگر علمی و تعلیمی خدمات سے اہم و اقدم ہے بلکہ دیگر خدمات علم کی جو کچھ بھی قیمت و اہمیت ہے وہ تبلیغ ہی کے اسباب و وسائل کے درجہ میں ہے۔ — جا بجا فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت و تشریف کا اصلی مقصد احکام دین کی تبلیغ تھی باقی جو کچھ ہے سب اسی کی تائید و اعانت کے لئے۔ در نہ ظاہر ہے کہ حضرات انبیاء نہ مدرسے کھولنے تشریف لائے تھے اور نہ کتب خانے قائم فرمائے بلکہ وہاں تو بالذات نفس نوشت و خواند تک مامور و مطلوب نہ تھے نہ متعارف علوم و فنون یا نوشت و خواند کا وحی یا انبیاء علیہم السلام کی زبان میں علم نام ہے نہ ان علوم و فنون کو حضرات انبیاء یا حضرات صحابہ کے کمالات و درجات کی فہرست میں کوئی مقام حاصل ہے۔

تاہم درس و تدریس تالیف و تصنیف وغیرہ سب چیزیں در اصل حسب ضرورت چونکہ تبلیغ ہی کے مقدمات و وسائل ہیں اس لئے یہ بھی واجبات تبلیغ میں داخل ہیں اور اس لئے حقوق العلم کے عنوان سے مستقلاً اور مواعظ وغیرہ میں متفرقاً ان کی اصلاح و تجدید کا بتفصیل حق ادا فرمایا گیا ہے۔ البتہ وسائل کو مقاصد بنانے کی غلطی و غلو اس باب میں بھی اتنا ہوا کہ بالعموم مدارس و مدرسین علماء و مشنفین کی نظر اصل مقصد سے ہٹ گئی۔ اس لئے ایک نہیں آداب التبلیغ، الدعوة الی اللہ، محاسن الاسلام وغیرہ مواعظ میں براہ راست اور دیگر مواعظ و مضامین کے سلسلہ میں جا بجا بکثرت احکام دین کی تبلیغ و اشاعت اور دعوت الی الحق کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے اور خود حضرت علیہ الرحمہ کی ساری تصنیفات تالیفات سارے مواعظ و ملفوظات کا محور تو کہنا چاہیے کہ احکام کی تبلیغ و اشاعت اور حق کی طرف دعوت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔

حضرات انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا خاص طریق پند و نصیحت یا وعظ و تذکر تھا اور یہی حضرت علیہ الرحمہ کے نزدیک تبلیغ و دعوت کا سب سے عام اور النفع طریق ہے اور جب تک حضرت کی قوت نے سفر کی اجازت دی کثرت سے اور زیادہ تر وعظ ہی کے لئے

سفر فرماتے رہے اور اس کو مقبولیت اور نافعیت ہر طبقہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس درجہ بخشی تھی کہ کئی کئی گھنٹوں کے وعظ میں بھی سیری نہ ہوتی اور مشکل ہی سے کوئی متنفس اپنی جگہ چھوڑتا پھر جتنی کثیر تعداد میں قلم بند ہو کر ان مواعظ کی حق تعالیٰ نے حفاظت فرمادی اس کی نظیر امت کی ساری تاریخ میں نظر نہیں آتی اور نفع کا تجربہ تو آج بھی ان کو پڑھ کر جس طبقہ کے جس فرد کا جی چاہے کر سکتا ہے۔ مسلمان ہی نہیں غیر متعصب غیر مسلم بھی اگر کچھ بھی طلب صادق اور ذوق سلیم ہے تو انشاء اللہ نہ صرف یہ کہ بے ختم کئے چھوڑنے کو جی نہ چاہے گا بلکہ چند ہی وعظ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق و طاعت کی ایک نئی حیات و حرکت اپنے اندر محسوس کرے گا راقم ہذا یہ محض خوش اعتقاد سی کی بنا پر نہیں بلکہ بارہا کے تجربات اور وہ بھی زیادہ تر نئی تعلیم کے آزاد طبائع پر تجربات کے بعد عرض کر رہا ہے۔

حضرت کی قریباً ساری اصلاحی و تجدیدی خدمات کی زبان اردو ہے۔ اگر اردو کی حقارت یا معاصرت کا حجاب مالمح نہ ہو تو سب سے زیادہ

یہ مواعظ دراصل دعوت و تبلیغ ہی کا علمی و عملی ذخیرہ و نمونہ ہیں

حضرات اہل علم کی خدمت میں درخواست ہے کہ وہ حضرت کے مواعظ کو معمولی قصہ گو و اعظوں کا وعظ یا محض کسی لفظاً خوش بیان کی تقریر ہرگز نہ تصور فرمائیں۔ وہ دراصل پورے دین اور اس کے سارے ابواب و احکام کی تبلیغ و دعوت کا نہایت ہی محققانہ حکیمانہ و عالمانہ اور مجتہدانہ و مجددانہ ذخیرہ ہیں اور اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ — میں جس حکمت و مواعظت حسنہ اور جدال احسن کے عنوان سے تبلیغ و دعوت کے جن تین طریقوں کا ذکر فرمایا گیا ہے اُن سب کا نہایت جامع اور دین کے مبلغ و داعی کے لئے قابل تقلید نمونہ ہیں۔ اس لئے جہاں تک تبلیغ و دعوت کا تعلق ہے حضرت نے صرف اس کے اصول و حدود کی اصلاح و تجدید ہی نہیں فرمائی بلکہ مواعظ کی شکل میں اس اصلاح و تجدید کا کامل و مکمل عملی سرمایہ امت کے ہاتھ میں رکھ دیا ہے حتیٰ کہ احقر کے نزدیک تو موقع و محل کے اعتبار سے اجمال و تفصیل اور جزئی تغیر و تبدیل کے ساتھ انہیں کا اعادہ نہ صرف انشاء اللہ دین کے ہر شعبہ میں امت کی اصلاح کے لئے کافی و کافی ہے بلکہ غیروں کو بھی سبیل رب کی طرف بلانے اور مائل کرنے میں نہایت کارگر اور نافع ہے

امتحان و تجربہ شرط ہے، انشاء اللہ خود ہی اطمینان ہو جائے گا۔

سیکڑوں ہزاروں تبلیغی و دعوتی
مواعظ کے علاوہ شہادت تبلیغ

تبلیغی حکمت کی ایک عجیب مثال

یا تبلیغ کی وقتی ضرورتوں سے بھی صرف نظر نہیں فرمایا گیا۔ فتنہ ارتداد کے زمانہ میں بنفس نفیس ایسے مقامات کا دورہ فرمایا جہاں اس کا اندیشہ قوی تھا اور وہاں بھی جیسے محتہدانہ و مجد دانہ طرز سے کام لیا، اس کا اندازہ صرف ایک واقعہ و مثال سے ہو سکتا ہے جس کا یقین بھی اس جماعت و مسلک کے کسی فرد کی جانب سے نہیں کیا جاسکتا ہے جس کی طرف حضرت کی نصیحت ہے اور جو اپنے مخالفوں میں اپنی بدعات و دشمنی کی بدولت زیادہ مبغوض و بدنام ہے۔ بھلا اس کا کون یقین کر سکتا ہے کہ جماعت دیوبند کے ایک مسلم و مستند عالم بلکہ امام نے کسی موقع پر کسی شخص کو تعزیہ داری کی تاکید فرمائی ہوگی کہ ”دیکھو تعزیہ ضرور بنایا کرو“

گجنیر نام مقام کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ آریوں کے اثر سے وہاں کچھ لوگ مرتد ہو جانے والے ہیں وہاں پہنچ کر حضرت نے اول ان کے سرداروں سے گفتگو کو مناسب تصور فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نٹھو سنگھ اور ادھار سنگھ دو بڑے سردار ہیں ان دونوں سے حضرت نے الگ الگ ملاقات فرمائی۔ تاکہ آزادی سے ہر ایک کے خیالات معلوم ہو سکیں اور گرمی کا زمانہ تھا تو ان کو شربت بھی پلانا چاہا مگر انہوں نے عذر کر دیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھ کا کھایا پیا نہیں کرتے اور بھی ایسی بالکل اسلام کے خلاف باتیں ان لوگوں میں رائج تھیں مثلاً سر پہ چوٹی وغیرہ ختنہ صرف اس کے یہاں ہوتا تھا جو برادری کو کھانا دے سکے۔

”اور جہل کا یہ حال کہ پوچھا تم ہندو ہو؟ تو کہا نہیں مسلمان ہو؟ جواب دیا نہیں پھر آخر کیا ہو؟ بتلایا نو مسلم! گفتگو کرنے پر نٹھو خاں نے تو کہا کہ آریہ مذہب میں نیوگ کا ایسا گندہ حکم ہے کہ کوئی بھلا مانس اس مذہب میں جانا گوارا نہیں کر سکتا اور ادھار سنگھ نے کہا کہ ہم تو تعزیہ بناتے ہیں ہم ہندو کیوں بننے لگے۔“

اسے سرکاری کاغذات میں تو ان کا نام نٹھو خاں اور ادھار خاں تھا مگر عام طور سے ان کو کاقرانہ

نام نٹھو سنگھ اور ادھار سنگھ ہی سے پکارا جاتا تھا۔

اب حضرت مجدد کا حکیمانہ و مجتہدانہ جواب ملاحظہ ہو فرمایا "دیکھو تعزیر ضرور بنایا کرو۔ بعض ہمراہیوں کو اس پر اشکال بھی ہوا تو فرمایا کہ ان کے لئے یہ بدعت کفر کا وقایہ ہے (اشرف السوانح جلد سوم صفحہ ۳۳)

یعنی کم از کم باقاعدہ کافر یا آریہ ہونے سے بچے رہیں گے اور اصلاح ہو سکے گی۔

اس تبلیغی خدمت کی بنیاد میوات کے علاقہ میں پڑی۔ حضرت علیہ الرحمہ کے حکم و ہدایت کے تحت بھی بعض خدام وہاں اس پر مامور تھے۔

حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے والد بزرگوار اور بڑے بھائی سے اس علاقہ کے لوگ پہلے سے ارادت و عقیدت کا تعلق رکھتے تھے۔ اس لئے مولانا موصوف کا قدرۃ خاص اثر تھا جن کے ہاتھوں آگے چل کر اس نواح میں بتوفیق اللہ بڑا کام ہوا۔ اشرف السوانح میں حضرت اقدس مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کے متعدد مکتوبات منقول ہیں جن میں اس خدمت کے خادموں کو "بہ شہادت قلب" کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک عریفہ کے جواب میں ارشاد ہے کہ

"حالات سے بہت کچھ امیدیں ہوئیں۔ اور مجھ کو اس سے پہلے بھی صرن آپ جیسے مخلصین کا جانا اور پھر مولوی محمد الیاس صاحب کا ساتھ ہو جانا یقین کامیابی کا دلاتا تھا علم غیب تو حق تعالیٰ کو ہے۔ مگر میرا قلب شہادت دیتا ہے کہ انشاء اللہ سب وفود سے زیادہ نفع آپ صاحبوں سے ہوگا۔ بخدمت مولوی (محمد الیاس) صاحب سلام مسنون مکتوب الیہ نے اس کے جواب میں عرض کیا کہ

ان ارشادات کا مقصد صرف یہ خیال میں آتا تھا کہ حوصلہ افزائی فرمائی جا رہی ہے۔ لیکن جب تقریباً ڈیڑھ سال بعد ایک جماعت نے تمام تبلیغی علاقہ کا مفصل حال شائع کیا اور اس روئداد میں اس کی تصریح بھی تھی کہ تحصیل پلوں جہاں احقر اور مولوی عبد المجید صاحب (حسب حکم و ہدایت حضرت دالہ) کا تبلیغ

انجام دے رہے تھے اول نمبر کامیاب رہی تب معلوم ہوا کہ یہ بشارت پیشگوئی تھی جو بالکل صحیح ہوئی۔

اب اشرف السوانح میں ان چیزوں کو پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ خود راقم ہذا سے ایک موقع پر خود حضرت مولانا الیاس صاحب نے جو یہ فرمایا تھا کہ "حضرت ہی کی دعاؤں کی یہ برکت ہے اس کا کیا مطلب تھا۔ موقع یہ تھا کہ احقر بستی نظام الدین حضرت موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا۔ غالباً دوسرے ہی دن قصبہ نوح میں اس تبلیغی سلسلہ کا بڑا سالانہ اجتماع تھا جس میں باصرار ساتھ چلنے کا حکم ہوا۔ دو تین دن مسلسل حضرت کی میت اور تبلیغی خدمات کے معائنہ و مشاہدہ کی سعادت حاصل رہی۔ دہلی سے سیدھے تھانہ بھون حاضری تھی۔ جب رخصت ہونے لگا تو فرمایا کہ حضرت (مولانا تھانوی) کی خدمت میں سلام عرض کرنا یہاں کے کام کا ذکر کرنا اور جو کچھ فرمائیں مجھ کو ضرور لکھنا۔ چنانچہ سلام رسانی کے بعد راقم احقر نے بستی نظام الدین کی بندگہ زالی مسجد سے لیکر قصبہ نوح تک کے جو تاثرات تھے مختصراً عرض کئے۔ فرمایا "اصل کام تو یہی ہے۔"

ننگہ تجدد میں کام کی اس درجہ اہمیت و عظمت کے باوجود کام کا طریق حضرت کے مذاق و معیار سے مختلف تھا حضرت کا خاص مذاق ہر چھوٹے بڑے کام میں قدم قدم پر توازن و توسط حدود اور اعتدال کا غایت اہتمام تھا۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ بڑا عاشقانہ تھا۔ احقر کو جب زیارت ہوئی اسی کا تجربہ ہوا لیکن بڑوں کی ہر بات نقل و اتباع کی نہیں ہوتی۔ عشاق میں جو چیز جو شش عشق است دے ترک ادب ہوتی ہے اس کی نقالی بارہا "زشت باشد روئے نازیا و ناز ہو جاتی ہے۔"

مثلاً تبلیغی گشت کے بعض مواقع پر دیکھا کہ لوگوں کو زبردستی پکڑ پکڑ کر مسجد کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے۔ کسی کی کمریں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے کسی کے گلے میں کہ بھائی چلو بس اسی وقت سے نماز شروع کر دو۔ کسی نے نہانے کا عذر کیا تو زبردستی کنوئیں پر لے جا کر نہایا جا رہا ہے۔ بعضے اس سے بچنے کے لئے بھاگتے اور منہ چھپاتے ہیں بعضوں کی زبان سے سخت کلمات نکل

جاتے ہیں! یہ سب وہی "فاما من استغنی" والوں کے ساتھ فانت لہ تصدی والی "نازیبا" صورتیں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لئے ناپسند فرمائیں۔ حالانکہ حضور کے ہاں کسی نازیبا غلو کا نام بھی نہ تھا۔

غلو اور حدود ناشناسی کی ایسی مثالوں کو بعض اکابر جماعت سے کبھی کبھی راقم ہذا عرض بھی کرتا رہا اور ان کی توجہ سے الحمد للہ کہ اب بہت کچھ ان میں اصلاح ہے۔ البتہ ایک دوسری نوع کی باطل تائید مثال عین ان سطور کی تحریر کے دوران میں علم میں آئی۔ ایک اچھے طالب صادق لیکن ان پڑھ "عامی جو مہینوں سے اس جماعت سے کچھ نہ کچھ تعلق رکھتے ہیں" جمہرات کے شبانہ اجتماعات میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک ضرورت سے اتفاقاً میرے پاس آ گئے۔ تجربہ ہے کہ ایسے عامیوں کی تمنا میں بالعموم بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لئے ان کو معلوم کر کے درستی کی طرف متوجہ کر دیتے کی عادت ہے۔ ان سے بھی کہا کہ میاں الحمد اور جو دو ایک سورتیں یاد ہوں ذرا سناؤ۔ الحمد پڑھا تو "مالک یوم الدین" کے بعد "کنعبد" یعنی ایسا سرے سے اللہ اور مصوت کے متعلق کہا کہ انا یتنا (انا اعطینا) یاد ہے!

انا للہ! نماز دین کی ساری عمارت کاستون ہے۔ اس کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جو عامی آدمی ایک مرتبہ بھی اس جماعت یا اس کے کسی خادم کے قریب آجائے تو کلمہ کی تعلیم و تصحیح کے بعد ہی سب سے مقدم کام اس کی نماز کی خامیوں کا امتحان لے کر اس کی درستی کی تاکید و اہتمام تھا۔ یقیناً ایسی مثال استثنائی اور اتفاقی بھول چوک ہی کی ہوگی اور گو ہے یہ بڑی ہی دو لگے کھڑے کر دینے والی بھول۔ تاہم اس کے مقابل یہ ہرگز نہ بھولنا چاہیے کہ ایک دو نہیں سیکڑوں بلکہ ہزاروں الحمد للہ ایسی مثالیں ملیں گی جن کو ایک سجدہ نصیب نہ ہوتا تھا وہ اس جماعت کی برکت سے پانچوں وقت مسجد و جماعت کے پابند ہیں اور بہتر سے شب بیداری کے بخت بیدار سے ہلکار اصل یہ ہے کہ طول و عرض کے ساتھ کام کے عمق و رسوخ یا گہرائی اور پختگی پر مزید توجہ کی ضرورت ہے۔ گشت کی صورت بھی ایک آندھی کی سی ہوتی ہے کہ آئی اور لکل گئی۔ جب تک مسلسل و مستقل انتظام و سعی سے خود گشت کے مقام پر مقامی جماعت ایسی تیار نہ ہو جائے جس میں اس کام کی نگہ اور سنبھالنے کی صلاحیت ہو اس وقت تک ایسے سرسری گشتوں کی خالی تکرار سے بھی کوئی پائدار نفع نہیں ہوتا۔ البتہ خود گشت کرنے والوں یا مبلغین کے حق میں ایسے گشتوں کو جو "متحرک خانقاہ" خیال کیا جاتا ہے درست ہے اور دینی شور کو بیدار کرنے کا کارگر ذریعہ ہے۔ بشرطیکہ اس

شعور و بیداری سے کام لینے کے لئے ان کی اصلاح کی ضروری تدابیر بھی ساتھ ساتھ جاری رہیں۔ لیکن یہ تو بہر حال عقلاً و نقلاً کسی طرح درست نہیں کہ خود مبلغین کے اس نفع کے ساتھ دوسروں کے نفع و اصلاح کی ممکن صورتیں اختیار نہ کی جائیں۔

لفس طول و عرض کی افادیت میں بھی کلام نہیں۔ حق بات کا ایک بار بھی کالوں میں پڑ جانا بڑی بات ہے لیکن ثمرات تو گہرائی اور پختگی ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ خود اس تبلیغی نظام کے بڑے رکن رکین بلکہ مقدمہ الجیش نے ایک موقع پر بڑی حسرت کے ساتھ فرمایا تھا کہ ”صحابہ گنتی کے تھے اور تمام دنیا پر بھاری تھے اور ہم لاتعداد ہیں اور زمین پر بھاری ہو رہے ہیں“ یہ زمین و آسمان کا فرق وہی رسوخ و غمق کے فرق کے سوا کیا ہے۔

غرض کیفیت و رسوخ اور حدود و اعتدال کی رعایات کے ساتھ حضرت مجدد وقت علیہ الرحمہ کی جو تبلیغی تجاویز و اصلاحات پیش کش کتاب میں پیش کی گئی ہیں اگر ان کو پیش نظر رکھا جائے تو انشاء اللہ سونے میں سہاگنا ہو گا اور اس تبلیغی خدمت کا کئی کے ساتھ کیفی فیض خصوصاً بہت بڑھ جائے گا جماعت کے بعض اچھے اہل اعتدال حضرات کی خدمت میں یوں بھی جب کبھی عرض کرنے کا موقع آیا تو مسرت ہوئی کہ وہ بھی ایسی بعض باتوں کو محسوس اور اصلاح کی سہی فرما رہے ہیں۔

ورنہ ہم احقریں تو ان باتوں کے باوجود اس وقت دین کی جتنی متعدی و جماعتی خدمات ہو رہی ہیں، شاید ہی کوئی اس سے اہم و اقدم ہو۔ خصوصاً ہندوستان کے بدلے ہوئے حالات میں ہم نام کے مسلمانوں کے نام کے بھی بدل جانے کے جو حالات درپیش ہیں ان کی روک تھام کے لئے اس تبلیغی نظام سے بڑھ کر ہمارے حق میں حق تعالیٰ کی کوئی رحمت نظر نہیں آتی۔ پھر بھی اس سے انتفاع میں اپنی غفلت دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ آخری مہلت اور اتمام حجت نہ ہو! اعاذنا اللہ آج کی دنیا میں دین کے لئے بڑا فتنہ سیاست ہے۔ اچھے اچھے اہل علم و اخلاص افراد اور جماعتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ رسالت و نبوت کی ساری تبلیغی حقیقت و معنویت کو سیاست و حکومت کے آشوب و طغیان میں اس طرح کھویا جا رہا ہے کہ گویا پیام بر اسلام کا اصل پیام کوئی خاص سیاسی نظام اور اس کی حکومت کا قیام ہی تھا۔ نیت کچھ ہو نتیجہ یہی ہو رہا ہے کہ اپنے پرانے سب کی نظریں اسلام و مسلمان بھی اسی دنیا کی سیاست و حکومت کے لئے لڑنے مرنے والی کوئی ایڈیالوجی

اور اسی کی حامل جماعت ہے۔ یہ نتیجہ و اثر بالکل نفسیاتی ہے جو دین کی روح کے ساتھ نادان دوستی کی بڑی دشمنی ہے۔

آخر کچھ تو بات تھی کہ حضرات انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کی بھی دعوت میں قیام حکومت یا حکومت وقت سے مقابلہ کو براہ راست شریک نہیں فرمایا گیا صراحتاً امر ہوا تو صرف قتال و جہاد فی سبیل اللہ کا یعنی اللہ کی راہ پر چلنے چلانے میں اگر ظلم و زیادتی کے ساتھ کوئی مزاحمت کرے تو اس کو دور کرنے کے لئے تن من دھن سب کی بازی لگا دو۔ وہ بھی جہاد کے خاص شرائط کے اجتماع اور خاص حدود کی پابندیوں کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نظر میں اگر ہمارا "ایمان و عمل صالح" اس درجہ کا ہوا کہ زمین پر اپنی جانشینی (خلافت) کی سعادت و عزت سے نوازا جائے تو غیبی نصرت اس کے شہادت کی اسباب بھی فراہم فرمائیگی۔ اسی بنا پر احقر اسلامی یا الہی حکومت کے داعیوں سے عرض کیا کرتا ہے کہ حصول حکومت کا دعویٰ و دعوت مقصود بالذات باطل نہیں۔ بلکہ "ایمان و عمل صالح" کے عند اللہ معلوم و مقرر درجہ پر موعود ہے وہ بھی حکومت نہیں خلافت رکھنا۔ کما قال اللہ تعالیٰ ﴿عَدَدُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُ فِي الْأَرْضِ﴾ بالذات موعود ہم صریح ایمان و عمل صالح کے تمام ابواب و احکام کے موافق اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کرنے اور دوسروں کو حال و قال سے اس کی طرف بلانے کے ہیں۔ نبوت و رسالت کی اصل دعوت "ایمان و عمل صالح" کے ساتھ حکومت و سیاست کی دعوت کو غلط ملط کرنے کے مفاسد کو دیکھ دیکھ کر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کی اسرا عہد میں سب سے بڑی حکمت و دانائی اور نبوت و رسالت کی منصب شناسی یہی ہے کہ اپنی دعوت اور طریق دعوت کو حکومت و سیاست کی آلودگی سے بالکل بچائے رکھا۔

ان اصول کے ساتھ اگر طریق کار کے فروع میں بھی حدود کا اہتمام اور غلو سے احتیاط ہو تو سبحان اللہ "نور علی نور" یا رما آں دارد دایں نیز ہم۔ یونقنا اللہ لما یحب ویرضی۔

اس غلط ملط سے بہرہ ور نہ بننا شکل تو بطور ایک سیاسی ایڈیالوجی کے خالص خلافت کی دعوت ہوگی۔

میں نے اپنے نفس پر بالکل اعتماد نہیں۔ خدا نہ کرے ان معروضات میں کوئی نفسانیت شریک ہوئی تو اللہ تعالیٰ نصیحت کے اجر کی جگہ اٹھے رہنا عالجیہ کے دزر کا مستوجب ہوں گا۔ اسی تقدم و تاخیر کی ہفتے گزر گئے اور تین تین مسودوں کی کانٹ چھانٹ اور جماعت کے اندر اور باہر کے چار چار ثقہ و اہل علم کے مشورہ کے بعد اب بھی ڈرتے ڈرتے ان معروضات کو پیش کیا جا رہا ہے۔

فراط و تفریط کے بعض بعض تجربات و مشاہدات پر سب متفق ہیں۔ البتہ ان کے اظہار و بقیہ حاشیہ ص ۱۱۱ پر ملاحظہ فرمائیں۔

ورنہ نفس تبلیغ عام کی جس درجہ اہمیت خود حضرت جامع المجددین علیہ الرحمہ کی نظر میں تھی، اس کا اندازہ اس مختصر مضمون سے کیا جاسکتا ہے جس میں "تفہیم المسلمین" کے عنوان سے حضرت نے اس کی ضرورت و اہمیت کی طرف عموماً سارے مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے اور اپنے کفش برداروں کو خصوصاً تاکید فرمائی ہے۔ البتہ جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، حضرت علیہ الرحمہ کے پیش نظر کامل دین کی کامل اصلاح و تجدید تھی، اس لئے اس تبلیغ عام میں بھی خالی کلمہ طیبہ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج ہی کی نہیں بلکہ دیگر احکام کی تبلیغ کو بھی شریک فرمایا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ

"علماء اور ان کے وعظوں کے علاوہ اس وقت فضا، زمانہ کا مقتضی یہ ہے کہ احکام الہیہ کے پہنچانے کا کام ہر مسلمان اپنے ذمہ لازم سمجھے اور ہر شخص اسی دھن میں لگ جائے جیسا اسلاف کا طریقہ تھا کہ علماء و صوفیاء امراء و غرباء، خواجہ و ناخواندہ سب کو یہی دھن تھی کہ جس کو جو احکام معلوم ہوں، دوسروں تک پہنچایا جائے۔ علماء و وعظ و تذکیر کرتے تھے، صوفیہ اپنی مجلسوں میں نور باطن اور پاکیزہ باتوں سے بندگان خدا کو خدا کی طرف متوجہ کرتے تھے، تاجر و غیرہ اپنے معاملات و ملاقات میں اللہ کو نہ بھولتے تھے اگر یہ کام تنہا علماء کے ذمہ ڈال دیا جاتا تو حق کی روشنی ان مقامات میں نہ پہنچ سکتی، جہاں کسی عالم یا فاتح کا قدم نہیں پہنچا، لہذا تمام مسلمان عموماً اور میرے ساتھ تعلق رکھنے والے خصوصاً آج ہی سے اس دھن میں لگ جائیں کہ جتنا جس کو اسلام کے متعلق علم ہے اس کو دوسروں تک پہنچائے اور غیب کے نصرت کا امیدوار رہے۔ اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَتُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ"

اس کے متعلق دستور العمل اور نظام یہ مقرر فرمایا گیا ہے کہ

(۱) ہر شخص اولاً دین میں خود بخوبی مضبوط ہو، احکام پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے میں نہ کسی سے مرعوب ہو، نہ کسی کی مروت و تخلیق کی پروا کرے، اللہ تعالیٰ

دستور العمل

"(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۴۰) اور عنوان اظہار میں کچھ اختلاف تھا۔ لیکن اس آخری مسودہ پر الحمد للہ کہ سب کا کم و بیش اتفاق ہے۔ خود جماعت کے اندر کے ایک بڑے ستمند علیہ ذی علم کو اندیشہ تھا کہ جملہ کا نام ظاہر کر دینے سے خود اس کے حضرات کا انتفاع و استفادہ محدود ہو جائیگا۔ لیکن راقم اعتر کو ان حضرات کے اخلاص و انصاف سے یہ بدگمانی بھی نہیں۔

سے بڑھ کر کون ہے جس کے لئے احکام آلہیہ کو ترک کیا جائے۔

(۲) ہر شخص کو چاہیے کہ کسی جلسہ و مجلس کو احکام آلہیہ کے پہنچانے سے خالی نہ رکھے مگر باریک و اختلافی مسائل میں دخل نہ دے کہ یہ علماء کا کام ہے۔ سختی کا جواب سختی سے نہ دے صبر و تحمل سے کام لے۔

جب کسی دنیاوی غرض تجارت یا ملازمت وغیرہ کے سلسلہ میں بھی کسی سے ملنا ہو تو حسب موقع باتوں باتوں میں کلمہ حق ضرور پہنچا دیا جائے۔

(۳) رات دن میں کوئی وقت اس کام کے لئے بھی نکالا جائے جس میں بندگان خدا و مسلم غیر مسلم، کو احکام اسلام پہنچائے جائیں اور برے کاموں سے روکا جائے۔

(۴) احکام کے پہنچانے میں ہمیشہ نرم ہوتا چاہئے، البتہ جن پر اپنی حکومت ہے جیسے بیوی بچے، نوکر شاگرد وغیرہ ان کو اول نرمی سے نصیحت کی جائے پھر بتدریج سختی سے سمجھایا جائے۔

تبلیغ احکام کی ترتیب یہ ہوگی

(۱) جن کو کلمہ معلوم ہو ان کو لا اِلهَ اِلَّا اللہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ - سکھایا جائے اور اس کے معنی سمجھائے جائیں۔

(ب) جن کو کلمہ معلوم ہو ان کو اس کے معنی سمجھائے جائیں اور کہا جائے کہ رات دن میں کم از کم سو مرتبہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ - اور اس کے ساتھ کبھی کبھی مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہ ضرور پڑھ لیا کریں حدیث میں ہے کہ لا اِلهَ اِلَّا اللہ - کہہ کر اپنا ایمان تازہ کرتے رہا کرو (ج) جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو پابندی نماز کی اور مردوں کو مسجد میں باجماعت نماز کی تاکید کی جائے جن کو نماز کا طریقہ نہ معلوم ہو ان کو سکھایا جائے اور ممکن ہو تو پوری نماز کا ترجمہ بھی کرا دیا جائے یعنی سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ سے لے کر التَّحِيَّاتِ اور درود شریف تک، اور وضو پاکی و ناپاکی کے مسائل سے وقتاً فوقتاً آگاہ کیا جائے۔

(د) جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی تاکید کی جائے جن پر قربانی واجب ہے ان کو قربانی کی ترغیب دیں۔

(۴) رمضان شریف کے روزے کی تاکید کی جائے۔

(۵) جن پر حج ہے اُن کو حج کی تاکید کی جائے۔

(ز) ہر بستی میں تعلیم قرآن شریف کے مکاتب ضرور ہونا چاہئیں جن میں تعلیم قرآن کے ساتھ اردو رسائل بہشتی زیور بہشتی گوہر راء نجات وغیرہ بھی پڑھائی جائیں تاکہ بچوں کو ضروری احکام کی اطلاع ہو۔

(ح) سب مسلمانوں کو باہم اتفاق و اتحاد سے رہنے اور کالی گھلوچ، لڑائی جھگڑا بند کرنے کی تاکید کی جائے۔

(ط) بستی کے کسی با اثر دیندار کو یا چند با اثر دینداروں کی جماعت کو اپنا بڑا بنالیا جائے

جن کا کام یہ ہو کہ لوگوں میں اتحاد و اتفاق قائم رکھیں، اور امور مذکورہ بالا کو رواج دیں اور جب کسی معاملہ میں نزاع ہو اس کا شریعت کے موافق علماء سے پوچھ کر فیصلہ کر دیں اور سب اسی فیصلہ کی تائید کریں۔

(د) جھوٹ، غیبت، حسد و کینہ، دشمنی، کسی کی بیجا طرفداری، چغل خوری کرنا، بدنگاہی، بے پردگی، شراب نوشی، لڑکوں سے ناجائز تعلقات، سودی لین دین، بیکاری، آوارہ گردی کا افساد کریں۔
بچ بولنے، باہم تواضع و محبت کا برتاؤ کرنے، انصاف و عدل پر مضبوطی کے ساتھ جے رہنے اور جائز ذرائع معاش میں لگے رہنے، کفایت شعاری اور آمدنی سے زیادہ خرچ نہ کرنے کی بہت تاکید کریں، تنگی برداشت کریں مگر حتی المقدور زیادہ خرچ نہ کریں۔

تقریبات اور روزمرہ کے خرچ میں کفایت کرنے والے پر طعن و تشنیع نہ کریں بلکہ اس کی ترغیب دیتے اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کسی جائز پیشہ کو عار نہ سمجھیں، بیکاری اور سوال کی ذلت (خواہ قرض ہی کا سوال ہو) کے مقابلہ میں گھاس کھودنے کو ترجیح دیں اور نیک عمل اختیار کرنے کی خود بھی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی تاکید کرتے رہیں۔

(ک) حیات المسلمین، تبلیغ دین، تعلیم الدین، محاسن اسلام، بہشتی زیور کو مطالعہ میں رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان کے مضامین دوستوں، ملنے والوں اور سب بندگان خدا کو پہنچاتے رہیں (د)، جو علماء کسی دینی خدمت درس و تدریس، تالیف و تصنیف وغیرہ میں مشغول ہیں وہ بھی اپنے ملنے جلنے میں بندگان خدا کو احکام پہنچانے میں سستی نہ کریں اور فرصت کے اوقات جیسے جمعہ کی تعطیل، طویل رخصت کا زمانہ ہے اس میں وعظ و نصیحت کے ذریعہ بندگان خدا کو احکام اسلام پہنچانا اپنا فریضہ جانیں۔

میں اپنے ساتھ خاص تعلق رکھنے والوں کو خاص طور پر مکرر تاکید کرنا ہوں کہ امور مذکورہ بالا کی پوری پابندی کریں اور اس میں کوتاہی ہرگز نہ کریں اور تمام اہل اسلام سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس دستور العمل کو حرز جان بنا کر ہر شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لئے آمادہ ہو جائے! تو مصائب و پریشانیوں کا جو اس وقت مسلمانوں کے سامنے ہیں بہت جلد خاتمہ ہو جائے گا اور نصرت الہی ان کے ساتھ ہوگی۔

اور اس دستور العمل کو چند روز تک نہیں ہمیشہ ہمیشہ قائم و جاری رکھیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا
وَأَسْرَأْنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْكَافِرِينَ ۝

تبلیغ کے اس دستور العمل کی بڑی خصوصیت وہی ہے کہ کلہ اور ارکان اسلام کی اقدیمیت و اہمیت کے باوجود حضرت جامع الہدیین کے پیش نظر جامع و کامل دین کی جامع و کامل تجدید و اصلاح ہے اور اس کی تفصیل میں ایمان و عمل معاش و معاملت، اخلاق و معاشرت کی مرنی موتی باتوں کا ایک پس قابل علم نظام العمل تجویز فرما دیا گیا ہے جس میں اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ جو کچھ ہو مضبوط و موثر بنیادوں پر ہو اگر اس کو مسلمان اب بھی مضبوطی کے ساتھ تھام لیں تو انشاء اللہ کسی سے مقابلہ و مقاتلہ کے بغیر ہندوستان و پاکستان بلکہ سارے اسلامی ممالک کی دس سال کے اندر کایا پلٹ جانا یقینی ہے۔

باقی غیروں کی نقالی اور سیاسی ہٹ ہنگاموں کے سوا دین کی صحیح راہ سے خدمت اگر کچھ کرنا ہی نہیں تو اس کے جو نتائج اب تک رہے وہ بھی سامنے ہیں اور آئندہ ان سے بدتر کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی نصرت تو اللہ ہی کی راہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوگی اور راہ وہی ہے جس کی طرف حضرت نے اس دستور العمل کے خاتمہ کی آیت میں ارشاد فرمایا ہے جس میں دعا کی صورت میں یہ تعلیم ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں اور دین و دنیا کے معاملات میں اپنی زیادتیوں یا حدود ناشناسیوں سے تائب و مغفرت خواہ ہو کر دُوبَا اَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِیْ اَمْرِنَا — آئندہ کے لئے دین کے راستہ پر قدموں کو جمایا جائے (وَبَدَّلِثْ اَقْدَامَنَا) تو کفار کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی نصرت یقینی ہے (وَالنَّصْرُ نَا عَلَی الْفَاقُوْمِ الْکَافِرِیْنَ) یہ سنت اللہ کی منطق اور اس کے مقدمات ہیں جن سے گریز کر کے مسلمانوں کے لئے کسی کامیابی کی توقع قطعاً کتاب و سنت کے محکمات و نصوص کے خلاف اور بڑی خام خیالی ہے۔ قرون اولیٰ کی تاریخ نے کوئی سبق ہمارے لئے چھوڑا نہیں۔ حضرت عمرو ابن العاصؓ، مصر کا ایک مہینہ سے محاصرہ کئے ہوئے ہیں اور فتح نہیں ہو رہا ہے، ایک مہینہ کی مدت کسی ملک کی فتح کے لئے کیا تھی پھر بھی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ :-

”اس کی کیا وجہ ہے کہ اتنے دن محاصرہ کو ہو گئے اور اب تک کامیابی نہیں ہوئی“ معلوم ہوتا ہے کہ لشکریوں میں تفویض و تقویٰ کی کمی ہو گئی ہے، اس لئے سب اپنے محاصرے سے توبہ اور اپنی اصلاح کریں، چنانچہ سب نے مل کر توبہ کی پھر جو حملہ کیا تو ایک ہی دن میں شہر فتح ہو گیا۔ حضرت عمرؓ نے

اس ناکامی کو ظاہری اسباب و تدابیر کی کمی و بے سرو سامانی پر محمول نہیں فرمایا۔ بلکہ
دین کی سستی و غفلت پر،

بہر حال اب تک جس راہ پر ہم دوسروں کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ تو نفس حکومت و
جاہ طلبی کی وہی فرعونی و شدادی راہ ہے اور مسلمان جب تک اسلام کا نام بھلے نام لیکر
خود فریبی اور خدا فریبی میں گرفتار ہیں، اُس وقت تک ناکامی اور رسوائی کے سوا کسی دوسرے
نتیجہ کی امید رکھنا اسلام کی حقیقی تعلیم اور اصلی تاریخ دونوں سے آنکھیں بند کر لینا ہے۔

وقت ہے کہ اب بھی آنکھیں کھل جائیں ورنہ حکومت کا غیر اسلامی یا لادینی جبری نظام
تعلیم دس سال کے لئے بھی اگر سہادی اس غفلت میں چل گیا، کہ ہم نے خود یا حکومت پر زور ڈال
کر مسلمان بچوں کے لئے حضرت کی تجدید و تاکید کے مطابق، اسلامی مکاتب و مدارس گاؤں گاؤں و

۱۰ الافاضات الیومیہ ص ۲۵

یہ حکومت کی طرف سے جبری تعلیم کا نفاذ یہ اب کوئی فرضی امکان و احتمال نہیں بلکہ اہل واقعہ ہو رہا ہے۔
ذرا غور فرمائیے کہ اقلیت کے حق میں اس کا نقشہ کیا ہوگا، ایک طرف تو پڑھانے والے شاذ ہی کسی مدرسہ میں
مسلمان ہوں گے یا دس پانچ میں ایک آدھ دوسری طرف دن رات ساتھ لکھنے پڑھنے والوں کا تناسب
کم و بیش یہ ہوگا کہ اگر ۵-۶ مسلمان بچے ہیں تو ۵۰، ۶۰ غیر مسلمان کتابوں کے مضامین قریباً تمام غیر اسلامی
روایات و رجال سے پُر۔ زبان تک مسلمان بچوں کی مادری یعنی اُردو نہیں بلکہ ہندی وہ بھی سنسکرت سے
لدی ہوئی۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ ایسے جبری نظام میں جکڑے ہوئے بچے بطور خود بھی اگر چاہیں تو اُردو سے
ناواقف ہونے کی بدولت اپنے دینی معلومات و روایات نہ جان سکیں گے حکومت بد نیت نہ بھی ہو اور غیر مسلم
اُستاد دیدہ و دانستہ مسلمان بچوں کو ان کے دین و ایمان سے برگشتہ نہ بھی کرنا چاہیں تو بھی اس ماحول و صحبت و
تربیت میں بسر کرنے والے وہ مسلمان بچے کتنے مسلمان رہ جائیں گے جو زیادہ تر اب بھی صرف اتنے مسلمان
ہیں کہ نام کے مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آج بھی جو ایسے مدرسے ہیں جن میں غیر مسلم پڑھنے پڑھانے
والوں کا غلبہ ہے، خود کانگریسی حکومت کے ایک مسلمان کانگریسی عہدہ دار کی عینی شہادت ہے کہ ایسے مدرسہ
کے مسلمان بچے سلام کے بجائے ہاتھ جوڑ کر منسکار کرتے ہیں۔

حکومت کی حد تک چارہ کار صرف یہ ہے کہ مختلف سیاسی و غیر سیاسی جماعتوں کے مسلمان بالاتفاق کھل کر
راضی کر دیں کہ جبری تعلیم کے لئے ہم بخوشی تیار ہیں لیکن ناگجہ اثر پذیر بچوں کی کسی ایسے ماحول میں (بقیہ حاشیہ ص ۲۵) پر ملاحظہ ہو

قصبہ قصبہ میں نہ قائم کر دیئے تو ایک نسل کے بعد ہی اسلام کا خالی نام لینے والے بھی ہندوستان میں خدا ہی جانتا ہے کہ کتنے رہ جائیں گے!

تعلیم المسلمین | تفہیم المسلمین کے مندرجہ بالا دستور العمل سے پہلے تعلیم المسلمین کے عنوان سے اسی مقصد کے سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ دعا اور دعاغظوں کے لئے بھی ایک دستور العمل ضروری اصلاحات و تجدیدات کے ساتھ تجویز فرمایا گیا ہے اس کی تمہید میں بھی ارشاد ہے کہ :-

”نصوص کثیرہ میں صلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی تاکید بھی وارد ہے اور سورہ والعصر تو بلا شرکت خاص اسی موضوع کے لئے نازل ہوئی۔ اس میں جہاں تصحیح عقائد و اصلاح اعمال کو نجات کی شرط فرمایا ہے جو حاصل ہے خسران سے بچنے کا وہی ”وَتَوَّاصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّاصُوا بالصَّبْرِ“ میں دوسروں کی تعلیم عقائد و اعمال کو بھی شرط نجات میں داخل فرمایا ہے اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں اسی مضمون کے اور بے شمار نصوص امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعا و دعاغظ تذکیر کے عنوان سے نہایت تاکید و اہتمام کے ساتھ مذکور ہیں اور اس میں سستی و ترک پر خفید و حیدین بھی وارد ہیں نیز انبیاء علیہم السلام کا خاص فریضہ ہی رہا ہے باقی دین کے جتنے شعبے ہیں مثلاً افتاء، درس و تصنیف وغیرہ سب اسی کے آلات و مقدمات ہیں خود تنظیم یا حکومت جس کی ضرورت سب کو تسلیم ہے بلکہ آج کل ساری دنیا آزادی و خود مختاری کے نام سے اسی پر جان دے رہی ہے!

بقیہ حاشیہ ص ۱۴۷ ملاحظہ ہو! تعلیم پر ہرگز راضی نہیں ہو سکتے جس میں ان کے دین ایمان پر کسی ناموافق اثر کا دانے احتمال بھی ہو حکومت اگر نیک نیت ہے تو تھوڑے بہت مصارف کی زیادتی سے بآسانی مسلمان بچوں کی جبری تعلیم کا ان کی خاص تہذیبی و دینی روایات کی حفاظت کے ساتھ انتظام کر سکتی ہے۔ ساتھ ہی مسلمان بچائے خود اپنے کو دیانات، معاملات، معاشرت اور اخلاق غرض زندگی کے تمام شعبوں میں پورا مسلمان بنانے کے لئے اپنی دینی صلاح و اصلاح اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے واجبات کا وہ اہتمام کریں جو خود ان کے دین ہی نے مقرر کر دیا ہے اور جس کی مجدد وقت نے تمام و کمال تجدید فرمادی ہے۔ یہ حاشیہ احقر کے مضمون نئی شکل کا پرانا حل سے ماخوذ ہے۔ جو صدق مبلووعہ ۱۳۲۸ ہجری شمسی میں شائع ہوا ہے، پوری تفصیل قابل ملاحظہ ہے۔

اسلام میں وہ بھی (اسی مقصد اصلاح ایمان و عمل) کے تابع اور اس کا مقدمہ ہے چنانچہ اس آیت ”الَّذِينَ إِذَا مَكَتَاهُمْ فِي الْأَرْضِ“ میں جہاں تمکین کے مقاصد ذکر فرمائے ہیں ان میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بھی جزو مقصود فرمایا گیا ہے۔

غرض صحیح اسلامی حکومت یا تمکین فی الارض کی اصلی غرض بھی خود مختاری قطعاً نہیں بلکہ خدا مختاری ہے یعنی حکومت و سیاست سب خدا کی زمین پر خدا کی مرضیات و احکام پر چلنے چلانے کے لئے اور انہیں مرضیات و احکام کی مخالفت یعنی۔

”ارتکاب معاصی کو قرآن و حدیث میں صراحۃً دنیا و آخرت کے سارے مصائب کا سبب قرار دیا گیا ہے اور خدا و مان ملت نے اس باب میں مستقل تالیفات بھی لکھی ہیں اور ایک مختصر رسالہ جزائر الاعمال احقر کا بھی شائع ہو چکا ہے اور حیوۃ المسلمین کے خطبہ میں بھی دل نشین عنوان سے اس کی تقریر کی گئی ہے۔ لہذا اس کے بعد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ضروری ہونے میں کیا شبہ رہا جس کے ذرائع میں سب سے سہل اور نفع کے اعتبار سے عام و تمام وعظ کا ذریعہ ہے۔

اس کے بعد وعظ اور واعظوں کا انتظام و اصلاح کے متعلق جو اصلاحی ہدایات

بجوز فرمائی گئی ہیں وہ مختصراً یہ ہیں:-

”ہر اسلامی مدرسہ و انجمن کم از کم ایک واعظ بھی مقرر کرے اور یہ سمجھے کہ ضرورت تعلیم کے لئے ایک مدرس کا اضافہ کیا کیونکہ جس طرح مدرسہ کے معلمین طلباء کے مدرس ہیں واعظین عوام کے مدرس ہیں اور اہل انجمن یہ سمجھیں کہ یہ تعلیم عوام کے لئے ان کی انجمن کی ایک شاخ ہے۔ جہاں مدرسہ و انجمن نہ ہو یا کسی وجہ سے اس کا انتظام نہ کر سکے وہاں رؤساء افراد آیا اشتراکاً اپنے پاس سے تنخواہ دے کر ایسا واعظ مقرر کریں

مسئلہ بھالاموجودہ جن علاقوں یا دیہاتوں میں مسلمانوں کی آبادی بہت کم ہو ان میں اور بھی خصوصاً ایسے واعظوں کا انتظام خود مسلمانوں کی طرف سے ضروری ہے جو ان مقامات کا برابر دورہ کرتے رہیں اور مسلمانوں کو جمع کر کے احکام کی تبلیغ اور اپنے دین کی حفاظت کی تاکید کرتے رہیں۔

مگر اس کا انتخاب علماء سے کرائیں جہاں ایسا کوئی باہمت رئیس نہ ہو وہاں اہل بستی باہمی چہزہ سے کریں مگر چہزہ میں کسی پر جبر نہ کریں۔

”یہ واعظ خواہ متبحر عالم نہ ہو مگر نہینیات پر کافی نظر ہو کہ تقریریں یا کسی کے سوال کے جواب میں غلط روایت یا غلط مسئلہ بیان نہ کرے۔“

واعظ کا انتخاب تو جیسا کہ حضرت علیہ الرحمہ نے ہدایت فرمائی متدین علماء سے ضرور کرانا چاہیے باقی جہاں تک نفس و عطف گوئی کی تعلیم کا تعلق ہے اگر کچھ بھی صلاحیت ہو تو خود حضرت جامع المجددین علیہ الرحمہ کے مواعظ جو دین کے تمام ابواب کو جامع و محیط ہیں ہر اعتبار سے ایسے کافی و روانی اور اتنے کثیر ہیں کہ کسی واعظ کو عمر بھر بھی ان سے باہر جانے کی ضرورت انشاء اللہ پیش نہیں آسکتی۔ حسب موقع و حسب ضرورت انہیں کے اجمال و تفہیل سے یہ خدمت باحسن وجہ انجام دی جاسکتی ہے۔

”بلا ضرورت اختلافی مسائل نہ بیان کرے اور اگر ضرورت ہی پڑ جائے تو عنوان نرم و سہل ہو، اگر کسی شخص کا نام لینا پڑے تو اس کی نسبت کوئی سخت کلمہ نہ کہے۔ بس متانت سے شبہ حل کر دے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔“

”عام طور پر واعظ کسی کی دعوت قبول نہ کرے، البتہ اگر داعی پہلے سے شناسا و مخلص ہو تو کوئی مضائقہ نہیں، یا شناسا نہ ہو مگر قرآن سے مخلص ہونا دل کو لگتا ہو تو بھی مضائقہ نہیں، مگر از قسم ہدیہ نقد و غیر نقد ہرگز قبول نہ کرے۔“

”کسی مدرسہ یا انجمن یا اسی مید و عطف کے لئے چہزہ کی ہرگز ترغیب نہ دے، بلا ترغیب کوئی دے بھی تب بھی انکار کر دے، پھر بھی نہ مانے تو کہہ دے کہ براہ راست مرکز میں بھیج دو میں نہیں یتار غرض جہاں تک تبلیغ احکام کا تعلق ہے لَکَا سَعَلُکُمْ عَلَیْہِ اَجْرًا“ کے انبیائی اسوہ و معیار کو زیادہ سے زیادہ پیش نظر رکھے۔

”سیاسی امور یا کسی کے ذاتی معاملات کے فیصلہ میں واعظ دخل نہ دے، اگر اس کی درخواست بھی کی جائے تو صاف انکار کر دے۔“

کسی کو تعویذ گندے دینے یا بیعت لینے سے واعظ کو قطعاً منع کر دیا جائے، اگرچہ وہ اس کا اہل بھی ہو۔

واعظ صرف وعظ ہی پر اکتفا نہ کرے، کیونکہ وعظ میں وہی لوگ آتے ہیں جو پہلے سے کچھ دیندار ہیں اور ضرورت سب کو دیندار بنانے کی ہے، اس لئے حسب ذیل طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

۱۔ الف، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، ان کے مکان پر چند واقف مخلص احباب کو ساتھ لے کر جائے اور نرمی کے ساتھ اول صاحب خانہ کا کلمہ سنئے، پھر اسی کے واسطے سے گھر والوں کا کلمہ ٹھیک کیا جائے، پھر سب کو نماز کی تاکید کی جائے، اسی طرح سب بے نمازیوں کے مکان پر جایا جاوے اور ہر بستی کے اندر ایک یا متعدد جماعتیں مخلص و مستعد دینداروں کی ماتحتی میں قائم کر دی جائیں جو برابر اسی طرح لوگوں کے مکان پر جا کر کلمہ سکھانے اور بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی کوشش کرتے رہیں اور اس خطاب خاص میں بجز کلمہ کی تلقین اور نماز کی تاکید کے اور کچھ نہ کہا جائے، باقی احکام کے لئے عام وعظ کو کافی سمجھا جائے۔

حضرت علیہ الرحمہ نے خود اپنے ہاں اسی نظام العمل کے مطابق کام شروع بھی فرما دیا تھا اور بعد میں دعوت الحق کے نام سے خاص دعوت تبلیغ کی خدمات ہی کی تکمیل و انجام دہی کے لئے ایک مستقل مجلس کی بھی بنیاد ڈال دی تھی جس کی مختصر تفصیل دعوت الداعی نام کے مضمون میں فرمائی گئی ہے۔ آیت وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ خَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کے ذیل تہیہ ارشاد ہے کہ:-

”اس آیت سے معلوم ہوا کہ تعلیم احکام اور اس کی ضرورت سے تعلیم احکام ایسا اہم فریضہ ہے کہ عین جہاد حقیقی میں (جو اعظم العبادات ہے)، مشغول ہونے کے وقت بھی واجب ہے کہ ایک جماعت بجائے جہاد کے اس فریضہ کی خدمت انجام دے تو اور کسی وقت اس کا اہتمام کیوں نہ واجب ہوگا؟

وجہ ظاہر ہے کہ کوئی طاعت کیسی ہی عظیم اور ضروری ہو، وہ مستبر اور مقبول اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ شرعی قوانین کے موافق ہو اور ان قوانین کے موافق ہونا اس پر موقوف ہے کہ پہلے ان کا علم ہو۔ جس کی دو صورتیں ہیں یا خاص طور پر ان کا درس و تدبیر

یا عام طور پر تعلیم و تبلیغ پہلا طریقہ معاشی اسباب کی بنا پر عام نہیں ہو سکتا، لہذا دوسرا ہی طریقہ رہ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کے لئے یہی طریقہ تجویز فرمایا گیا اور اکابر امت نے بھی ہمیشہ سب سے زیادہ اس کا اہتمام فرمایا باقی درس و تدریس، تصنیف و تالیف وغیرہ کو اسی کا مقدمہ قرار دیا۔ مگر ایک طویل زمانہ سے اس کی طرف سے بہت بے اتفاقی ہو گئی ہے جس کا لازمی نتیجہ جہل کا غلبہ ہے اور غلبہ جہل سے فسادِ مہل اور فسادِ عمل سے مسلمانوں کا ہر قسم کا ظاہری و باطنی تنزل اور گونا گوں مصائب میں مبتلا، اس وجہ رونما ہو گیا ہے کہ اگر جلد اس کا تدارک نہ کیا گیا تو قومی اندیشہ ہے کہ مسلمانوں کی قوم من حیث الاسلام فنا ہو جائے۔

”الحمد للہ کہ ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دشگیری فرمائی کہ بعض بے سرو سامان بندوں کو اس کا احساس اور احساس کے ساتھ اس کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ اللہ ہی کے بھروسہ پر کھڑے ہو گئے اور اس خدمت کی تکمیل کے لئے دعوة الحق کے نام سے ایک مجلس بنا کر کام شروع کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک دو شخص کا کام نہیں اس میں ایک بڑی جماعت کی ضرورت ہے جس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ بہت سے تبلیغ کا کام کرنے والے تنخواہ پر رکھے جائیں اور تنخواہ کے لئے بڑے پیمانہ پر چنڈہ کی تحریک کی جائے، مگر موجودہ فضا پر نظر کر کے اس میں یقیناً لوگوں کو تنگی ہوگی جس میں ناکامی کے ظن غالب کے علاوہ اس کے شرعی جواز میں بھی شرح صدر نہیں ہوتا، دوسری صورت یہ ہے کہ تنخواہ دار تو کم ہوں اور ان کی تنخواہ کے کفیل وہ خاص حضرات ہوں جو بلا تحریک اپنی رغبت سے اس کو برداشت فرمائیں۔

”باقی زیادہ کام کرنے والے غیر تنخواہ دار ہوں جس کی شکل یہ تجویز کی گئی ہے کہ جو اہل علم حضرات اس خدمت میں حصہ لینا چاہیں وہ حسبہ اللہ اس کے لئے کچھ ماہانہ ہفتہ نامی یا سالانہ دو چار دن ہفتہ، دو ہفتہ، یا مہینہ سوا مہینہ مثلاً نکال کر ناظم مجلس دعوة الحق رخانقاہ امرا دیہ تھانہ بھون ر ضلع مظفرنگر کو اطلاع فرمائیں۔ اور یہ ان حضرات کی طرف سے گویا چنڈہ ہوگا جو روپیہ پیسہ کے چنڈہ سے زیادہ عزیز و مفید ہوگا۔

”پھر جب اور جہاں اس خدمت کے لئے ان کو تکلیف دینے کی ضرورت ہوگی ان سے عرض

کیا جائے گا کہ وہاں مجلس کے حسب ہدایت تبلیغ کا کام انجام دیں آمدورفت کا کرایہ اور مصارف خورد نوش اعتدال کے ساتھ پیش ہوں گے اور جن بزرگ کو خادم کی عادت ہوگی ان کی خدمت میں خادم کے مصارف پیش کئے جائیں گے۔ یہ عرض تو عام اہل علم حضرات کی خدمت میں بدرجہ مشورہ ہے۔ لیکن اپنے خادموں کو بصورت درخواست حکم ہے کہ:-

”جن حضرات کو احقر کے ساتھ خاص تعلق ہے ان سے مشورہ سے آگے اس کی درخواست ہے اور اس مشورہ اور درخواست کے بعد بے چینی سے منتظر ہوں کہ اب رجسٹرکب تیار ہو جائے گا، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاء اللہ دیر نہ لگے گی۔“

”نیز عموماً اہل علم کی ساری جماعتوں سے یہ بھی عرض ہے کہ ان معین اوقات کے علاوہ دوسرے عام اوقات میں بھی اپنی اپنی جگہ خاص و عام تبلیغ سے غافل نہ رہیں۔ جس کے ضروری قواعد آسانی کے لئے تعلیم المسلمین و تفہیم المسلمین میں بطور نمونہ ضبط بھی کر دیئے گئے (جن کا خلاصہ و حوالہ اوپر گزر چکا ہے)۔“

”اگر پابندی اور اخلاص کے ساتھ اس دستور العمل پر عمل کر لیا گیا تو انشاء اللہ اس کے ثمرات فلاح و صلاح اور نجات بہت جلد مشاہدہ میں آجائیں گے اور آخرت کے ثمرات کا تو پوچھنا ہی کیا۔“

خود حضرت کے ہاں تو حضرت کی ہدایت اور مذاق کے مطابق حضرت کی حیات ہی میں اس کام کا آغاز ہو گیا تھا اور بعد میں بھی کچھ جاری رہا۔ لیکن حضرت کا اور حضرت کے اثر سے حضرت کے خادموں کا مذاق، چونکہ اعلان و اشتہار کا بالکل نہ تھا، اس لئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کہاں کہاں اور کیا کیا ہو رہا ہو گا، لیکن جن پر حضرت کی صحبت کا کچھ رنگ چڑھا ہے، امید ہے کہ اپنی اپنی جگہ حسب توفیق غافل نہ ہوں گے، باقی عام مسلمانوں میں پابندی و اخلاص کی جو قید و شرط حضرت نے بالکل بجا طور سے لگائی ہے، اگر وہی ہوتی تو آج یہ نوبت ہی کیوں آتی، تاہم اب بھی اگر حضرت کی اس تہنیت سے چونک پیدا ہو اور کمر ہمت کس لی جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔

”بہر حال اس مجلس دعوت الحق کا اصلی مقصد تعلیم المسلمین و تفہیم المسلمین کی عملی ترویج کے ذریعہ مسلمانوں میں دینی جذبہ پیدا کرنا اور کامیابی کا راستہ بتلانا ہے

جو مسلمانوں کے لئے تعلق مع اللہ میں منحصر ہے اور اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول رسل اللہ علیہ وسلم کے ہر چھوٹے بڑے حکم کی پوری پابندی کی جائے، تاہم امکان کوئی بات خلاف شرع نہ ہونے پاوے یہی عبودیت کی روح اور مسلم کی زندگی کا اصل اصول ہے۔

نظام العمل | اس مقصد کے بعد نظام العمل مختصراً یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ:-
(۱) تعلیم المسلمین و تفہیم المسلمین کی تمام رفعات کی نہایت خلوص و استقلال کے ساتھ ہمیشہ پابندی کرتے رہیں اور ہر امر میں اصلی مسلح نظر رضائے حق ہو اور اس استقلال و ہمت کے ساتھ ہی دعا و ابتهال کو اصل وظیفہ و تدبیر سمجھیں۔

(۲) جہاں تک ہو سکے قرآن شریف کا ترجمہ سننے کا بھی اہتمام کریں
(۳) مسلمان کا فرض ہے کہ ہر موقع پر جذبات کو شریعت کے تابع رکھے۔
(۴) اخلاق اسلامی کو اپنا شعار بنائے، وضوح و معاشرت کو بالکل شریعت مقدسہ کے موافق رکھے، نہ انگریزوں کی تقلید کرے نہ ہندوؤں کی نہ کسی اور کی۔
(۵) انبیاء علیہم السلام کا مسنون طریقہ تھا کہ ہاتھ میں لاٹھی رکھتے تھے اس واسطے سب مسلمانوں کو اس سنت پر کار بند رہنا چاہیے۔

(۶) خدمت خلق کا خیال رکھیں، محنت و جفاکشی کی عادت کے لئے ورزش بھی کیا کریں، نیز لکڑی وغیرہ چلانا بھی سیکھیں اور سادہ و سہاہیانہ زندگی بسر کریں یہ مطلب نہیں کہ خواہ مخواہ کسی سے لڑیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ آرام طلبی میں نہ پڑیں۔ مخدوم نہ بنیں خادم بننے کی کوشش کریں، اگر کسی انسان بالخصوص مسلمان کی مدد کرنے کی ضرورت ہو تو مظلوم کی امداد کو لازم جانیں۔

(۷) ہر مسلمان روزمرہ نماز عشاء کے بعد سونے سے پیشتر اپنے گناہوں کو معجز کر یاد کرے، اور پھر ان نعمتوں کو یاد کرے جو حق تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہیں اور ان دولتوں کو یاد کرے اپنے کو ملامت کرے کہ جس مالک کی اس قدر نعمتیں ہیں اس کی ایک دن میں مجھ سے اس قدر نافرمانیاں ہوئیں اس کے بعد دل سے ان سب گناہوں سے توبہ و استغفار کر کے سوئے، روزانہ بلا ناغہ یہ عمل کرے، اخیر میں بزرگوں کی ایک مانع وصیت

یہ درج فرمائی ہے کہ

”کارکن کار بگزار از گفتار کاندزین راه کار باید کار

لیکن اس کو کیا کیجئے کہ آج کل گفتار ہی کو سب سے بڑا ”کار“ قرار دے یا گیا تاہم مسلمان اپنے کو دوسروں پر قیاس نہ کریں۔ ان کا کام آج کل کی بجواس سے ہرگز نہ چلے گا۔ ان کا کام تو کام ہی سے چلے گا اور وہ کام ہر کام میں حق و شریعت کا اتباع ہے۔

بعض جامع دعائیں بھی درج فرمائی ہیں جن کو بالخصوص نمازوں کے بعد کرتے رہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔

اول: ”اللَّهُمَّ اَسِرْنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ

وَارْزُقْنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ“

ثانی: ”اللَّهُمَّ اِنصُرْ مَنْ لَمْ يَدِينْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَاجْعَلْ مَنْ هَدَىٰ دِينَنَا مُحَمَّدٌ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنْهُمْ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝“

آج کل کے نئے زمانہ کی انجمن بازی و مجلس سازی جس کی حقیقت تھوڑا کام بہت نام اس کا مذاق حضرت مجدد علیہ الرحمہ کو بالکل نہ تھا تاہم کسی نئی چیز میں اگر کوئی معتد بہ نفع معلوم ہوا اور کوئی شرعی قباحت نہ ہوئی تو محض نئے ہونے کی بنا پر ضد بھی نہ تھی۔ اس لئے غالباً بعض خادموں کے مشورہ سے آخر عمر میں خدمت تبلیغ کے لئے دعوت الحق کے نام سے مذکورہ بالا مجلس بھی قائم فرمادی تھی، ورنہ نفس تبلیغ کی خدمت و اہمیت تو ساری عمر اس درجہ پیش نظر رہی کہ نہ صرف سیکڑوں ہزاروں وعظ و سفر اسی خدمت کے لئے فرمائے بلکہ کثرت

سے اسے اللہ ہم پر حق کا حق ہونا ظاہر فرمادیجئے اور اس پر چلنے کی توفیق بخشئے اور باطل کا باطل ہونا ظاہر فرمادیجئے اور اس سے بچنے کی توفیق بخشئے۔

سے اسے اللہ آپ اس کی مدد فرمائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرے اور ہم کو ان مدد کرنے والوں میں بنادیں اور چھوڑ دیں اس کو جس نے چھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ہم کو ان چھوڑنے والوں میں نہ بنائیں۔

سے مواعظ و ملفوظات میں تبلیغ کے اہم و اقدم فریضہ دینی کے لئے مسلمانوں کو طرح طرح سے متنبہ و متوجہ فرماتے رہے، آداب تبلیغ، محاسن اسلام، الدعوة الی اللہ، صلاح و اصلاح وغیرہ بہت سے مطول و عظوم کا تو مستقل موضوع ہی فریضہ تبلیغ کی اہمیت و اقدمیت اور اس کے آداب و احکام کی تفصیل ہے۔

دعوتِ تبلیغ کی دو قسمیں

اصولی طور پر دعوت و تبلیغ کی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں (۱) عام (۲) خاص۔ عام سے مراد وہ ہے جس میں کسی خاص شخص یا اشخاص کو نہیں بلکہ عام مسلمانوں کو خطاب کیا جائے جو فرض کفایہ ہے اور جس کا امر وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ الْأَخْصَرِ اور فَلَوْلَا كَفَرُ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ۔۔۔ وغیرہ نصوص میں فرمایا گیا ہے اور تبلیغ خاص سے مراد وہ دعوت یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر جس کا خطاب کسی خاص شخص یا اشخاص خصوصاً اپنے توابلح یا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جن پر کسی طرح کے امر و حکم کی قوت و اثر حاصل ہے یا جن سے ”کَلِمَ دَاعٍ وَكَلِمَ مَسْئُولٍ عَنْ رَّعِيَّتِهِ“ کے تحت راعی و رعیت یعنی نگران و زیر نگرانی کا کوئی علاقہ ہے جیسے بی بی بچے، نوکر چاکر، شاگرد و مرید وغیرہ جو کسی طرح ہمارے ماتحت ہوں اور جن کی صلاح و فلاح کی ہم پر کچھ ذمہ داری ہو اور جن کے حق میں اگر ترغیب سے کام نہ چلے تو ترہیب سے بھی کام لے سکیں جس کو ایک دوسری مشہور حدیث میں ”تَنْخِيرُ بَالِيْدٍ“ سے تعبیر فرمایا گیا ہے، یعنی جہاں کسی منکر یا برائی کے مٹانے میں ہم کو قوت و طاقت حاصل ہو وہاں بالید یا قوت سے مٹانا ہمارے ذمہ ہے۔ تبلیغ خاص راعی و رعیت کے تعلق و مسؤولیت و مواخذہ کے اعتبار سے فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پر فرض ہے (۱) بلکہ ”کَلِمَ دَاعٍ“ کی کلیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی اعتبار سے ضرور کسی نہ کسی کا راعی یعنی نگران ہوتا ہے، شیخ مرید کا، استاد شاگرد کا، آقا غلام کا، افسر ماتحت کا، شوہر بیوی کا، والد اولاد کا، ولی زیر ولایت کا متولی وقف کے حقوق کا حتیٰ کہ ایک ادنیٰ چیرا سی بھی کچھ نہ کچھ اثر رکھتا ہے اور سیکڑوں معاملہ و مقدمہ والوں پر اس کا دباؤ ہوتا ہے۔

تبلیغ عام کا تو سب سے اعم و اعظم ذریعہ جیسا کہ حضرت نے جا بجا تفصیل فرمائی ہے، وعظ ہے اور یہ کام علماء دین یا ایسے لوگوں کا ہے جو احکام دین سے کافی دوانی واقفیت رکھتے ہیں۔ یہ عام تبلیغ اب بھی کچھ نہ کچھ بُری بھلی طرح مختلف مواقع کے وعظوں یا بہت سے

علماء اب د عظم کے نام کو چونکہ اپنی حقارت تصور فرمانے لگے ہیں تو تقریروں کے نام سے بڑی بھلی طرح ہو جاتی ہے لیکن تبلیغ خاص اس اعتبار سے زیادہ عام ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی کارِ راعی و نگران ہونے کی بنا پر کسی نہ کسی درجہ میں اس کا مامور ہے، اور وہ اس لحاظ سے زیادہ نافع و کارگر بھی ہے کہ اس میں ترغیب کے ساتھ تہیب کی قوت بھی کچھ شریک ہوتی ہے، ساتھ ہی اگر اس تبلیغ کا احساس و اہتمام عام ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ کم از کم ہر شوہر اور باپ اپنے بال بچوں کی اصلاح میں تو لگ ہی جائیگا، اس طرح جب ہر گھر کی اصلاح کا انتظام ہو گیا تو پھر بے گھرے رہی کتنے جائیں گے۔ اور وہ اپنے ماحول کی گرفت و اثر سے آسانی کے ساتھ کیسے نکل سکیں گے؟

راقم ہذا کے نزدیک اگر مسلمانوں کو اس تبلیغ خاص یا اپنے اپنے تواج اور زیر دستوں میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی طرف متوجہ کرنے کا ذرا منظم طریقہ سے انتظام ہو تو یہ طریقہ قابلِ کمال بھی زیادہ ہے اور پائدار بھی، بس اس کی تنظیم ہو کہ ہر گاؤں یا قصبہ و شہر کے ہر محلہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مقرر فرمودہ نظام کے ذریعہ ہر گھر کے راعی کی انفراداً یا اجتماعاً اصلاح پر زیادہ زور دیا جائے جس کے بعد پورے گھر کی اصلاح خود راعی کی ترغیبی و تہیبی تدابیر سے از خود بسہولت ہو جائے گی۔

لیکن کہاں تک افسوس کیا جائے کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ غفلت و کوتاہی اسی تبلیغ خاص میں ہے بلکہ قطعاً اس کا فقدان ہے (والنادر کالمصدوم) عوام تو عوام خواص تک کو اس تبلیغ خاص یا اپنی راعیانہ و حاکمانہ مسئولیت و مواخذہ کا رتی برابر احساس نہیں معلوم ہوتا۔ پرانے طرز کا وعظ کہنے والے نئے طرز کی تقریر کرنے والے علماء و دونوں تمام دنیا کے مسلمانوں کی تباہی و تنزل کا مرثیہ تو وعظ و تقریر میں نہایت درد و غم... کے ساتھ سنا دیں گے لیکن خود اپنے اہل و عیال کے دین حتیٰ کہ نماز روزہ تک کی اتنی بھی فکر نہیں جتنی صاحبزادے بلکہ اب تو صاحبزادی کے کسی اسکول یا کالج کے امتحان میں پاس ہونے کی نہ بی بی کی نماز کی اتنی باز پرس جتنی کھانے میں نمک کی زیادتی کی۔ حضرت علیہ الرحمہ نے اس غفلت و بے حسی کا بکثرت خصوصاً مواعظ میں جا بجا ذکر فرمایا ہے، مثلاً دعوت الی اللہ میں فرماتے ہیں کہ :-

”مسلمانوں میں اولاً تو دعوت الی اللہ کا باب ہی گم ہو گیا ہے حتیٰ کہ جہاں قدرت

ہے وہاں بھی نہیں، اور جہاں قدرت نہیں وہاں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ ہمارے بزرگ وہ تھے کہ جہاں قدرت نہ تھی وہاں بھی دعوت الی الحق سے باز نہ رہتے اور ہم ہیں کہ قدرت کی جگہ بھی نہیں کرتے، بچوں کو، نوکروں کو، باوجود قدرت کے کبھی امر بالمعروف نہیں کرتے، مگر یہ برتاؤ صرف خدا کے معاملات میں ہے اپنے معاملات میں ہرگز نہیں گھبریں اگر یہ تو پوچھیں گے کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں مگر یہ کبھی نہ پوچھیں گے کہ بیوی نے نماز بھی پڑھی یا نہیں؟

بہتیرے کہیں گے کہ کہا تو تھا، مگر وہ نہ پڑھے تو کیا کریں، بھائی کہنے کے دو طریقے ہیں، ایک مشورہ ایک حکم ہے، ایک تو کہنا کہ نماز پڑھا کرو نماز نہ پڑھنا ہمیں اچھا نہیں معلوم ہوتا۔ یہ تو مشورہ ہوا کہ اس کی مخالفت سے بیوی کو ناراضگی کا ڈر نہیں اور ایک یہ کہنا کہ جیسے بیوی کھانے میں نمک تیز کر دے تو ایک دن تو نرمی سے کہیں گے دوسرے دن سختی سے، اور تیسرے دن جو ذرا اکھڑیں ڈنڈے سے کہیں گے تو یہ حکم ہے جس کی مخالفت سے بیوی کو ڈر ہے کہ میاں سخت ناراض ہوں گے، ذرا اتنا ہی کہہ کر دیکھو کہ اگر نماز نہ پڑھو گی تو ہم تمہارے ہاتھ کی روٹی نہ کھائیں گے اور ایسا ہی کر دیجی اور ڈر و مت کہ روٹی نہ ملے گی، بہت سے بہت ایک دن ایسا کرنا پڑے گا، پھر تو وہ پابند ہی ہو جائے گی، اور ایک دور روز کھانے کا انتظام کیا مشکل، شہر میں تو بازار موجود۔ دیہات میں کسی دوسرے کے گھر میں پکوا لیا جاسکتا ہے، اور اگر کہو کہ ساری ہی عورتیں بے نمازی ہوں تو کیا کریں کس سے پکوائیں، اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا بھر تمہاری محکوم نہیں، تمہیں صرف اپنے گھر کے لئے کہا جا رہا ہے اور اگر ہمت ہو تو سب کے ہی ساتھ یہ معاملہ کر دو انشاء اللہ ہمت کی برکت سے ساری کی ساری نمازی بن جائیں گی۔

شوہر تو خیر اسلامی نظام حیات میں گھر کا حاکم ہی ہے، بیوی اگر اخلاص و ہمت سے آمادہ ہو جائے تو خود شوہر صاحب کی اصلاح ہو جاتی ہے۔

لے کیا اور کس طرح عرض کیا جائے کہ دعوت عام کے اچھے اچھے اہل علم و اخلاص کو دیکھا کہ اہل دعوت و فسق تک کے منکرات میں مبتلا ہیں مگر تغیر باید کا کیا ذکر باللسان و بالقلب کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا۔ بلکہ بعض تو اس کو حکیمانہ تبلیغ کے اس زمانہ میں خصوصاً منافی جانتے ہیں۔

”حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی کا جب نکاح ہوا تو ان کے شوہر کو بالائی آمدنی میں احتیاط نہ تھی، صاحبزادی صاحبہ نے پہلے ہی دن صاف کہہ دیا کہ تمہارے گھر اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی جب تک بالائی آمدنی سے توبہ نہ کرو گے، آخر ان کو توبہ کرنا ہی پڑا، دو عظیمستی بہ اسباب الغفلۃ، احقر کی دو بہنوں کی سبق آموز ہمت و دینداری کا نتیجہ اس قسم کا خود اپنا مشاہدہ ہے کہ ایک کے شوہر نماز روزہ کے تو پابند تھے مگر وارثی منڈا تے تھے، انہوں نے روٹھ کر مناکر کسی نہ کسی طرح آخر وارثی رکھوا چھوڑی۔ اسی طرح دوسرے بہنوں جماعت کے پابند نہیں تھے نہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا اہتمام تھا ان کو دوسری بہن نے نرمی گرمی سے کہتے کہتے آخر کار دونوں چیزوں کا پابند ہی کر لیا، اسی طرح اپنی اولاد سے صرف اتنا کہہ دیا کہ جو مسجد نہ جائے گا، اس کے کھانے کے برتن الگ کر دوں گی۔ باقی نہ کرنے والوں کو بہانے ہزار ہیں۔

”یہ تو بیوی کو نماز کا حکم نہ کرنے کا ذکر تھا، اسی طرح اولاد کو نہ نماز پر کچھ کہتے ہیں نہ احکام پر اگر بچہ اسکول میں فیل ہو جائے تو اس کو بیحد ملامت کرتے ہیں جس کے خیال سے بچے بھی خوب محنت کرتے ہیں اور ملامت بھی اس درجہ کہ بعض بچے اس کا تحمل نہ کر کے ندامت میں جان تک دیدیتے ہیں۔ کانپور ہی کا واقعہ ہے کہ ایک لڑکا فیل ہو گیا تھا، ریل کی پٹری پر جا لیٹا اور کٹ گیا اسی طرح انا وہ میں ایک نے انیون کھا کر جان دیدی، لیکن اگر صاحبزادی نماز قضا کرنے چلے جائیں تو ابا جان مارے محبت کے کبھی کچھ نہیں کہتے، الغرض دعوت الی اللہ کا اہتمام ہی قلوب سے نکل گیا ہے۔“

اس کے بعد دعوت کے مختلف درجات بیان فرمائے گئے ہیں تاکہ جو جس درجہ کا اہل ہو ویسا ہی اہتمام کرے، یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص سب درجوں کا اہتمام کرے، یہ درجات وہی ہیں جن کا ابھی اوپر ذکر آچکا ہے لیکن خود حضرت کی زبان مبارک سے سن لینا چاہیے

”وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ

دَعْوَتِ عَامٍ وَخَاصٍ

عَنِ الْمُنْكَرِ“ کی آیت میں حکم ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے جس سے

معلوم ہوا کہ یہ کام ایک خاص جماعت کا ہے، ساری امت کا نہیں دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ **هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي** وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ یہ میرا راستہ ہے بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ میں بھی اور جتنے میرے متبع ہیں وہ بھی اور حق تعالیٰ تمام برائیوں سے پاک ہیں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہاں مطلقاً **مَنِ اتَّبَعَنِي** ہے یعنی جتنے میرے متبع یا پیرو ہیں سب اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس میں عموم ہے لہذا اس عموم و خصوص سے معلوم ہوا کہ دعوت کے مختلف درجات و مراتب ہیں ایک درجہ کا پہلی آیت میں ذکر ہے اور ایک کا دوسری میں۔

ایک دعوت عامہ ہے اور ایک دعوت خاصہ، پھر خاصہ کی دو قسمیں ہیں حقیقی و حکمی۔

دعوت حقیقی و حکمی

حکمی سے مراد وہ ہے جو حقیقی میں معین ہو تو اس طرح کل تین قسمیں ہیں اور ہر شخص کے متعلق اس کے لحاظ سے ایک ایک قسم ہوگی، چنانچہ دعوت خاصہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے اور وہ وہ ہے جس میں اپنے اہل و عیال کو درست احباب کو، خود اپنے نفس اور جن جن پر قدرت ہو خطاب خاص کے ساتھ دعوت ہو۔ جیسا کہ حدیث میں ہے **كَلِمَةُ دَاعٍ وَكَلِمَةُ مَسْئُولٍ عَنْ دَعِيَّتِهِ** یعنی تم میں سے ہر ایک داعی (نگراں) ہے اور ہر ایک سے باز پرس ہوگی کہ اپنی رعیت کے ساتھ رجن کی نگرانی سپرد تھی، کیا کیا قرآن میں بھی اس دعوت خاصہ کا ذکر ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَامِرًا** یعنی اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، لہذا یہ دعوت خاصہ تو ہر شخص پر فرض ہے اور ہر شخص کو اپنے گھر اور تعلقات والوں کے ساتھ حسب تعلق اہتمام کرنا چاہیے۔

عوام کا کیا ذکر خواص اہل دین اور علماء سے سوال ہے کہ وہ دعوت خاصہ کے فرض کہاں تک ادا فرماتے ہیں، احقر نے تو حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے علاوہ مشکل ہی سے کہیں دیکھا ہو گا کہ یہ خواص بھی اپنے محکومین و زیر نگرانی لوگوں اہل و عیال وغیرہ کو نرمی یا سختی سے جس طرح بن پڑ

اتباع احکام پر آمادہ یا مجبور کرتے ہوں۔

جس میں عام خطاب ہوتا ہے یہ کام صرف مقتداؤں کا ہے جیسا کہ

اور ایک دعوت عام ہے

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ - سے معلوم ہو رہا ہے اور اس میں ایک رائے ہے کہ دعوت عام یعنی وعظ کا اثر اسی وقت ہوتا ہے جب کہ مخاطب کے دل میں دعوت دینے والے کی وقعت ہو بلکہ مطلق دعوت میں بھی اگر داعی کی وقعت نہ ہو تو وہ مؤثر نہیں ہوتی اور ظاہر ہے کہ بجز مقتدا کے اور کسی کا اثر عام لوگوں کے دل پر نہیں ہوتا اور باقی ایسے کتنے ہوتے ہیں جو قائل کو نہیں صرف قول کو دیکھتے ہوں یہی وجہ ہے کہ حدیث میں امامت کبریٰ کے لئے الْأَمَّةُ مِنَ الْقُرَیْشِ کی خصوصیت کی گئی کہ چونکہ قریشی خاندانی ہیں ان کی ماتحتی سے کسی کو عار نہ ہوگی، دوسرے اس لئے بھی مقتدا اور عالم ہونے کی ضرورت ہے کہ خطاب عام کرتا یا وعظ کہتا ہوا دیکھ کر لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ دین کے مقتدا اور عالم ہیں جن سے شرعی و فقہی مسائل دریافت کریں گے اور یہاں مسائل کے نام صفر ہوگا، اور اتنی ہمت نہ ہوگی کہ کہہ دیں کہ ہم کو معلوم نہیں اور ہر وقت ایسی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی کہ مال دیا کریں تو لا محالہ اس حدیث کا مضمون ہوگا کہ فَاغْتَوِ الْبَیْرَ عَلَیْمٌ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا - یعنی بغیر علم کے جو جی میں آئے گا فتویٰ دے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

رہی تیسری قسم دعوت حکمی کی تو وہ یہ ہے کہ عام دعوت تبلیغ کرنے والوں کی اعانت کی جائے تاکہ وہ اپنی ضرورت و حاجت سے مستغنی رہے فکر ہو کہ اس خدمت کو انجام دے سکیں۔

اب باعتبار نوع دعوت داعی کی

داعی کی دو قسمیں

اور دو قسمیں بھی ہیں ایک وہ جو تحقیقی جواب سے دعوت کر سکتا ہے، اور ایک وہ جو الزامی جواب سے۔ تحقیقی جواب کے یہ معنی ہیں کہ کسی نے جو کچھ پوچھا جواب میں اس کا اصل حقیقتہ واضح کردی اور الزامی جواب کے یہ معنی ہیں کہ جو اعتراض کسی نے ہم پر کیا دیا ہی

اس کے مذہب پر ہم نے کر دیا کہ جو جواب اب تم دو گے وہی ہمارا ہوگا۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کے کچھ لوازم و شرائط ہیں تحقیقی جواب کے لئے تو اپنے مذہب پر پورا عبور ہونے کی ضرورت ہے دوسرے مذہب پر پوری نظر ہونے کی ضرورت نہیں اور الزامی جواب کے لئے اپنے مذہب کے ساتھ دوسرے کے مذہب پر بھی پوری نظر ہونے کی ضرورت ہے۔

خواہ یہ مذہب نقلی ہو یا عقلی یعنی سائنس و فلسفہ وغیرہ کا کوئی نظریہ و مسلک ہو غرض مخالفین میں دعوت و تبلیغ کا کام وہی کرے جس کی نظر ان کے مذہب اور خیالات پر ہو اور جو اپنے ہی مذہب پر نظر رکھتے ہوں وہ اپنے ہی مذہب والوں کو دُعَا و تلقین کریں تحقیقی جواب سے مسلمانوں کو زیادہ نفع ہوگا اور الزامی سے غیر مذہب والوں کو یا جو اس غیر مذہب کی طرف مائل ہوں۔

”خلاصہ یہ ہے کہ خطاب خاص (یا تبلیغ خاص) سارے مسلمانوں کو اپنے گھر (یا اپنے تعلق والوں) میں کرنا چاہیے اور خطاب عام میں ایک تو ایسے لوگ ہوں جو مسلمانوں کے لئے مناسب دُعَا کہا کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو اور ایک وہ ہوں جو ایسے لوگوں کے مقابلہ میں تبلیغ کریں جن کو اسلام پر کچھ شبہ ہو یا اسلام سے تعلق کم ہو گیا ہو (جیسے انگریزی خواں مسلمان یا سرے سے غیر مسلم ہوں) اور ایک آخری جماعت ایسی ہو جو ان عام تبلیغ کرنے والوں کی بشری ضرورتوں کا سامان مہیا کرے تاکہ وہ اپنے فرض منصبی میں بے فکری سے مشغول ہو سکیں باقی جن کے پاس نہ علم ہے کہ دُعَا و تبلیغ کر سکیں نہ مال جس سے داعطین و مبلغین کی مدد کر سکیں وہ بھی محروم نہیں وہ اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو خاص تبلیغ کے علاوہ عام تبلیغ میں دُعَا سے حصہ لیں“ کہ اے اللہ اسلام کو عزت دیجئے اے اللہ اسلام کی نصرت کیجئے اے اللہ مسلمانوں کے دین کی حفاظت کیجئے اے اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل ظاہر کر دیجئے اور دین کی برکتوں کو عام و تمام کر دیجئے“ خلاصہ یہ ہے کہ جب سب اپنی اپنی خدمت میں لگیں گے تب کہیں ثمرہ مرتب ہوگا اور ثمرہ نہ بھی مرتب ہو تو تم تو اپنے کام میں لگو جو تمہارا کام ہے۔ باقی ثمرہ دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا اسلام واقعی اسلام ہوتا اخلاق و عادات

معاشرت و معاملات ہر چیز اور ہر بات میں ہماری صورت و سیرت سے اسلام ظاہر ہوتا تو ہم مجسم دعوت و تبلیغ ہوتے اور کفار ہماری صورت و یکھ دیکھ کر مسلمان ہوا کرتے۔

اس سلسلہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا خود ان کی خلافت کے عہد کا واقعہ نقل فرمایا ہے کہ

”کسی یہودی کے ہاتھ میں اپنی مسروق (چرائی ہوئی) زرہ دیکھی، طلب فرمایا تو اس نے دینے سے انکار کیا اور کہا کہ میری ہے۔ قاضی شریح کے ہاں دعویٰ فرمایا قاضی صاحب کے نزدیک شہادت کافی نہ تھی، انہوں نے دعویٰ خارج کر دیا، پھر بھی حضرت علیؑ نے اس کا کچھ خیال نہ فرمایا اور نہایت ہشاش بشاش اجلاس سے باہر چلے آئے، یہودی نے جو یہ رنگ دیکھا تو بڑا اثر ہوا کہ اول تو یہ بادشاہ چلتے تو زرہ یوں ہی چھین لیتے اور جوتیاں الگ لگاتے مگر نہیں، ضابطہ کے موافق قاضی کے ہاں جاتے ہیں جو ان کا محکوم ہے اور پھر وہ آپ کی شہادت رد کر کے مقدمہ خارج کر دیتا ہے، اور یہ ذرا بھی چیں بہ چیں تک نہیں ہوتے ضرور ایسا مذہب حق ہے، اس طرح فوراً زرہ کا اقرار کر کے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ایسا مسلمان کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور جنگ صفین میں شریک ہو کر شہادت حاصل کی۔“

ایک یہی واقعہ کیا اسلام کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے، البتہ اب ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہم کو لوگ دیکھ کر اٹھے اسلام ہی کو دور سے سلام کرتے ہیں، ایک سفر میں راقم ہذا سے ایک تعلیم یافتہ ہندو نے اسلام کی طرف اپنا میلان ظاہر کیا اور سر کھول کر دکھلایا کہ دیکھئے چوٹی بھی کٹا دی ہے، لیکن کیا کروں کہ اسلام مذہب تو اچھا ہے لیکن آج کل اس کے نمائندے اچھے نہیں، ان میں شریک ہونے کا جی نہیں چاہتا۔

ایک زمانہ میں | اشاعت و حفاظت دین کا اصل کارگر طریقہ

ہو گئی تھی، اس زمانہ (۱۳۳۷ھ) کے ایک وعظ میں اسی حقیقت کی زیادہ دل نشیں پیرایہ میں تفہیم فرمائی ہے کہ اسلام کی اشاعت و حفاظت دونوں کا اصل کارگر طریقہ خود اپنے اسلام کو ہر اعتبار سے مضبوط و محفوظ اور مکمل بنانا ہے فرماتے ہیں کہ:-

دین کی حفاظت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک بیرونی حملوں کو روکنا دوسرے خود اندرونی استحکام یعنی خود اپنی دینی حالت کو مکمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی بادشاہ ساری نیچ برخواست کر دے، لڑائی کے سارے ساز و سامان کو برباد کر دے، سارا خزانہ لٹا دے اب اگر کوئی غنیمت حملہ کر دے اور بادشاہ لڑائی کے لئے آمادہ بھی ہو جائے تو کیا ظفریاب ہو سکتا ہے بس وہی حالت ہوگی کہ عہد

لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

حضرات! مکرر کہتا ہوں کہ اندرونی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے خود اپنے اندر اسلام کو راسخ کرنا، شریعت کا اتباع کرنا یہی اندرونی حفاظت ہے، کامل مسلمان بن جاؤ، احکام شریعت کی پورے طور سے پابندی کرو خواہ مخواہ لڑو مت صاحبو! ہر شے کا ایک اثر ہوتا ہے، اسلام کامل کا بھی ایک اثر ہے، اللہ جو کام خارجی قوت سے نہیں ہوتا وہ داخلی سے ہو جاتا ہے، پہلے زمانہ میں ہمارے بزرگوں کو دیکھ کر ان کے اعمال، ان کی معاشرت کو دیکھ کر اسلام میں لوگ داخل ہو جاتے تھے، زور و زبردستی سے نہیں ہوتے تھے، مگر اب ہمارے اعمال خراب، اخلاق خراب، معاشرت گندی معاملات خراب، اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو کیا دیکھ کر سو (طفاً صفا) اس موقع پر ایک اور غلطی اور کید نفس پر تنبیہ فرمائی گئی ہے، آج کل تقریروں، تحریروں میں عام طور سے اسلام کے ضعف و زوال کا رونا ہے۔ "زوال اسلام کے نام سے کتا ہیں اور مضامین لکھے جاتے ہیں اور یہ زیادہ تر دشمنوں یا نادان دوستوں کی تعبیر ہے جس کو جہل کی وجہ سے ہمارے نام نہاد پڑھے لکھوں نے بھی اختیار کر لیا ہے حالانکہ اسلام اپنی ذات میں کامل و مکمل ہے اس میں کبھی ضعف نہیں آ سکتا اسلام اسی وقت ضعیف ہو سکتا ہے جب کہ نعوذ باللہ خدا ضعیف ہو جائے، اسلام خدا کا قانون ہے وہ کیسے ضعیف ہو سکتا ہے، یہ محاورہ بالکل غلط اور قابل اصلاح ہے کہ اسلام ضعیف ہو گیا، البتہ اگر یہ معنی ہیں کہ وہ اسلام جو ہماری ایک صفت ہے وہ ضعیف ہو گیا ہے، یعنی ہم جن صفت کے ساتھ متصف ہیں اس اتصاف میں کمی آگئی ہے تو یہ مسلم ہے مگر پھر یہی بات کیوں نہ کہو کہ آج کل ہم کمزور ہیں یوں کیوں کہتے ہو کہ اسلام

مزدور ہو گیا، اس میں تو دھبہ آتا ہے خود اسلام پر۔

ہماری بعینہ وہی مثال ہے جیسے میرے ایک عزیز بیان کرتے تھے کہ ایک عورت اپنے بچے کو پاخانہ پھرا کر اور کپڑے سے پونچھ کر چاند دیکھنے کھڑی ہو گئی چاند رات کا دن تھا، وہ بھی ناک پر انگلی رکھ کر دیکھنے لگی تو پاخانہ کی بو آئی، کیونکہ جلدی میں پاخانہ انگلی میں لگ گیا تھا تو کیا کہتی ہے کہ ادنیٰ اب کی چاند سٹرا ہوا کیوں نکلا، حالانکہ سٹری وہ خود تھی، اسی طرح ہم چاند پر خاک ڈالنا چاہتے ہیں کہ اپنے ضعف کو اسلام پر لگاتے ہیں اور اس میں نفس کا ایک کید ہے کہ اگر ضعف کو اپنی طرف منسوب کریں تو اس کا تدارک کرنا پڑے یعنی اپنے اسلام کو پختہ و کامل کرنا پڑے یعنی بہت کچھ خود کرنا پڑے، اور اب تو خدمت اسلام کے لئے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے عقائد تک درست نہیں۔

مگر یہ اصل میں خدمت اسلام کے لئے کھڑے ہی کب ہوتے ہیں، یہ تو کھڑے ہوتے ہیں کونسل کی ممبری، کیبنٹ کی منسٹری یا اور کسی گھٹیا بڑھیا لیڈری کے لئے۔ ایک ایسا ہی چاند کے سڑے ہونے کا ماجرا اپنا یاد آیا آگیا، ایک بڑے نامی گرامی پرانے وکیل جو راقم ہذا کے مقابلہ میں بزرگی کا مرتبہ رکھتے ہیں جب کبھی ملاقات و زیارت ہوتی ہے، آج کل کے رواج کے موافق کچھ نہ کچھ اسلام، مسلمانوں اور قوم کی تباہی و تشریل کی مرثیہ خوانی ضرور فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ احقر نے بادب عرض کیا کہ حضرت مسلمانوں میں جو قومی خرابیاں ہیں وہ کچھ آپ یا آپ کے گھر میں بھی ہیں، آخر پرانے تجربہ کار ذہین وکیل تھے، برجستہ فرمایا کہ بھائی اب اس بحث کا ہمیشہ کے لئے جواب مل گیا۔

غرض تبلیغ بھی تبلیغ جب ہی ہوگی جب کہ ہم اور خصوصاً ہمارے مبلغین یا خدمت اسلام کے دوسرے مدعی خود سراپا اسلام ہوں لیکن اس تقریط کے ساتھ افراد کی دوسری غلطی میں نہ جا پڑیں۔ کہ جب خود ہی پورے مسلمان نہیں تو دوسروں کو اسلام کی کیا دعوت دیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ جب تم خود کسی بد پرہیزی کی بدولت بیمار ہو تو اہل دنیا و متعلقین و احباب کو بھی اس بد پرہیزی سے نہ روکنا چاہیے، یہ بڑی غلطی و غلط فہمی ہے دعوت و تبلیغ بجائے خود مستقل فرض ہے، ایک فرض میں کوتاہی سے دوسرا فرض ساقط نہیں ہو جاتا کہ اگر روزہ نہیں رکھتے تو نماز کیوں پڑھیں اور کسی عجیب بات ہے کہ :-

”بعض تو یہاں تک اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنے وعظ کہنے کو شرعاً منع سمجھتے ہیں اور قرآن سے اس کی سند پکڑتے ہیں کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝ - ایک دوسری آیت میں ہے ”أَنَا مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ“ تو پہلی آیت کا تو وہ مطلب ہی نہیں جو بظاہر ترجمہ سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ جو کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہیں مطلب یہ ہے کہ ایسا قول و اقرار یا دعویٰ و وعدہ کیوں کرتے ہو جو پورا نہیں کرتے جیسا کہ شان نزول سے بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر ہم کو کوئی ایسا عمل معلوم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ و افضل ہو تو اس کے لئے ہم ایسی ایسی کوشش کریں پھر قتال و جہاد کا حکم ہونے پر جان بچانے لگے اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ ایسی بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے کو بھولے ہو جس کے معنی یہ نہیں کہ اپنے کو بھلانے والے یا بد عمل کو وعظ کہنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے بلکہ وعظ کہنے والے کو خود اپنے کو بھلانے یا بد عمل کی ممانعت فرمائی گئی ہے جیسا ہمارے خاص محاورہ میں بھی کہتے ہیں کہ دوسروں کو تو فلاں کام کے لئے کہتے ہو اور خود نہیں کرتے یعنی خود تو بدرجہ اولیٰ اور ضرور ہی ایسی صورت میں کرنا چاہیے جب کہ دوسروں سے کہتا ہو۔

”بہر حال بلا عمل کے وعظ کہنے کی ممانعت نہیں بلکہ جو شخص وعظ کہتا ہو اس کو خصوصاً عمل کی بھی زیادہ کوشش کرنا چاہیے نہ یہ کہ وعظ بھی ترک کر دے البتہ ایسے شخص کا وعظ جو بد عمل ہو نور و برکت سے ضرور خالی ہوتا ہے لیکن بد عمل و بدکار کی نمازیں بھی نورانیت نہیں رہتی تو کیا اس سے نماز کی فرضیت بھی ساقط ہو جاتی ہے۔

ہاں اگر کسی موقع پر تبلیغ یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں ایسی اذیت کا اندیشہ ہو جو برداشت نہ ہو سکے تو معاف ہے گو اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں کہ ایسی اذیت کا اندیشہ کیا واقعہ بھی پیش آجائے تو بھی باز نہیں آتے ایک جامع مسجد میں بیچارے ایک عطر فروش نے جماعت کے بعد کسی کو سنتیں پڑھتے ہوئے دیکھا کہ

رسمی اٹھک بیٹھک کپڑے ہیں اور تھے کوئی بڑے عہدیدار اس فریب عطر فروش نے سلام کر کے عرض کیا کہ حضور آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوئی پھر سے پڑھ لیں۔ بس آگ بگولا ہو گئے کہ نالائق یہودہ تیری یہ جرات دگتانی! اس نے کہا کہ صاحب گتانی نہیں خیر خواہی ہے۔ یہاں بات بڑھی کہ وہ عہدہ دار اس غریب کو مار لے لگے، اس نے کہا کہ آپ اور مار لیں مگر میں آپ کو مسجد سے نکلنے نہ دوں گا، جب تک آپ نماز دوہرا نہ لیں، لوگ جمع ہو گئے اور عہدیدار صاحب سے کہا کہ اس میں بُرا ماننے کی کیا بات ہے۔ پھر سے کیوں نہیں پڑھ لیتے آخر پڑھنا ہی پڑی اور پھر ایسی تبدیل ارکان کے ساتھ پڑھی کہ عمر بھر نہ پڑھی ہوگی (الدعوت الی اللہ)

بلاشبہ یہ اُن عطر فروش کی غیر معمولی ہمت و عزیمت کی بات تھی جو واجب د فرض بہر حال نہیں لیکن

تبلیغ سے بے پروائی اور حیلہ جوئی کا سبب دنیاوی اغراض

جو کچھ اتنی ہمت و عزیمت کے بغیر بھی آسانی ممکن ہے اس سے بھی اغراض و بے پروائی کا سبب محض دنیاوی اغراض کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔

”حتیٰ کہ اگر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھیں اور دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ اگر کسی نے نمازیں تبدیل ارکان نہیں کی تو یہ بھی ہمت نہیں ہوتی کہ اتنا تو کہہ دیں کہ بھائی پھر سے پڑھ لو نماز نہیں ہوئی۔ مَلِّ فَاِنَّكَ لَمُدِّتَصِلٌ۔“

”وجہ فقط اتنی ہے کہ اس سے دنیاوی اغراض فوت ہوتی ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو ٹوکا تو دوستی نہ رہے گی، میل ملاپ نہ رہے گا، آپس میں ہنسی خوشی نہ رہے گی۔“

اس سے بھی بڑھ کر غضب یہ کہ آج کل پرورش یا بزرگ کے یہ معنی

حیلوں کی حقیقت

سمجھتے ہیں جو نہ کسی کو کچھ کہے نہ سنے نہ روکے نہ ٹوکے بس سب کے ساتھ صلح کن ہو کر رہے اور اس کے لئے ایک شر گڑھا ہے جس میں ”حافظا دیکھ کر یا لگا کر اس کو خواجہ حافظ علیہ الرحمہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔“

حافظا گر وصل خواہی صلح کن با خاص دعاء با مسلمان اللہ اللہ بابرہن رام رام

حالانکہ حافظ شیرازی شاید رام رام جانتے بھی نہ ہوں گے، پھر دیوان حافظ میں تخریفوں کے باوجود مزایہ کہ دیوان میں اس شعر کا پتہ نہیں ہاں کسی دیوانے حافظ کا ہوگا، البتہ ایک اور شعر بھی ہے جس سے آج کل کے صوفی اپنے صلح کل مسلک پر استدلال کرتے ہیں اور وہ واقعی حافظ کا ہے۔

مباش در پئے آزار وہ چہ خواہی کن کہ در شریعت ما غیر ازین گناہے نیست
تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آزار کے قصد سے کسی کو آزار نہ دو اور یہی
در حقیقت آزار کے درپے ہونا ہے، باقی جو شخص اصلاح کی غرض سے آزار دے
جیسے طبیب دڈاکٹر آپریشن کرتا ہے، یا باپ استاد تادیباً بچے کو مارتا ہے، اسی طرح
اگر امر بالمعروف کرنے والے سے کسی کو آزار پہونچے بھی تو یہ درپے آزار ہونا
نہیں۔ (آداب تبلیغ)

اور اگر درپے آزار ہونے کے معنی ایسے ہی عام ہیں تو پھر مرزا بیدل کی جو حکایت
حضرت نے نقل فرمائی ہے وہ اس کا ایسا جواب ہے کہ جس دل میں ذرہ بھر بھی ایمان اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو وہ لرز جاتا ہے۔

”مرزا کے اشعار میں تصوف کا رنگ ہوتا تھا، کوئی ایرانی ان کو پڑھ کر اور
مرزا کو بزرگ سمجھ کر ان کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ دائری منڈا رہے ہیں، یہ دیکھ
کر غصہ آگیا اور جھٹاکر پوچھا ”آغا ریش می تراشی“ شاعر نے جواب دیا ”بلے ریش می تراشم
دل کے نمی خراشم“ وہ بیچارہ مخلص تھا جواب دیا ”آرے دل رسول اللہ
(صلی اللہ علیہ وسلم) می خراشی“ ظالم! تو تو سب سے بڑے دل کو چھیل رہا ہے
اور دعویٰ کرتا ہے کہ ”دل کے نمی خراشم“۔ تم یہ دائری پر استرا نہیں پھر رہے ہو
بلکہ حضور کے دل پر چھری چلا رہے ہو۔ حضور کی خدمت میں جب اعمال پیش
ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میری امت کا فلاں شخص یہ حرکت کر رہا ہے
تو کیا اس سے آپ کا دل نہیں دکھتا اور کیا آپ کا دل دکھانا چھوٹی بات ہے، آپ کا
قلب تو سید القلوب ہے، جب تم سید القلوب کو تکلیف دیتے ہو تو پھر یہ دعویٰ کیسے
کرتے ہو کہ ہم کسی کا دل نہیں دکھاتے، آخر مرزا کے دل میں ایمان تھا، یہ جواب
سن کر آنکھ کھل گئی اور چیخ مار کر بیہوش ہو گئے، ہوش آیا تو تو یہ کی اور بزبان حال

یا قال کہا کہ :-

جزاک اللہ کہ چشم باز کردی مرا با جانِ جاں ہم راز کردی
 راقم احقر بھی اسی رنگ کی ایک بات کبھی کبھی بعض حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا
 ہے کہ بھائی آدمی صورت شکل، وضع قطع فطرۃً اسی کی اختیار کرتا ہے جس کی اس کے دل
 میں محبت یا عظمت ہوتی ہے تو بس ایسی حرکات کے وقت اتنا سوچ لیا کر دے کہ جو صورت تم بنا
 رہے ہو یہ کون کی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمہارا یہ چہرہ تمہارے دل کے اندر کس
 کی محبت و عظمت کی گواہی دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کی جن پر ایمان اور جن کی محبت کا دعویٰ ہے
 یا ان کے دشمنوں کی! اگر کفار یا فساق کی وضع قطع اختیار کرنے کی تائید میں فقہی قیل و قال
 یا تجدوی دلائل کا پہانہ تلاش کرنے کے بجائے احقر کا پیش کردہ مراقبہ یہ بھی نہ سہی تو مرزا
 بیڈل ہی کی حکایت کو سامنے رکھا جائے تو کون مومن دل ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے دل کو دکھانا گوارا کرے گا! اور جس کے اندر وہی یس نہ اُسے جو غریب ایرانی
 کے ٹوک دینے سے بیڈل کے اندر اٹھی تھی، ایک مومن کو تو اس حکایت کے بعد بس اس
 پر غور کرنا چاہیے کہ :-

"جب ہم سے کوئی خلاف شرع بات سرزد ہوگی تو حضور کو اس سے آزار
 ہوگا یا نہیں؟ اس لئے ترک احکام شرعیہ کے لئے ایسی ایسی باتوں کو آڑ بنانا
 "مباش در پئے آزار ہر چہ خواہی کن بالکل واہیات ہے"
 "پھر سیدھا جواب یہ ہے کہ نصوص کے مقابلہ میں ایسی واہیات باتیں
 یا اشعار سب ہیچ ہیں۔ بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ خدا و رسول کا یہ حکم ہے اور
 نصوص کے اندر امر بالمعروف کا حکم موجود ہے اور اس کے نہ کرنے پر نکیر ہے
 بس اس کو کرو۔"

البتہ شرائط و احکام کے ساتھ کرو اندھا دھند مت کرو، فقہاء نے اس
 کے قوانین و ضوابط مدون کر دیئے ہیں ان کو سیکھو، علماء سے پوچھو وہ تم
 کو راستہ بتا دیں گے، باقی اس قسم کے اشعار سے نصوص کا مقابلہ مت کرو۔
 امر بالمعروف کے بعض حدود و شرائط | بہت سی اصولی باتیں ان
 احکام و شرائط کی بھی حضرت

نے اپنی کتابوں اور مواعظ میں بیان فرمادی ہیں، مثلاً خطاب عام یا وعظ صرف علماء کا کام ہے عوام پر صرف خطاب خاص، وہ بھی زیادہ تر اپنے اہل وعیال و اتباع کے حق میں واجب ہے یا کوئی بات جو ہم کو معلوم ہے اور دوسرا اس میں لاعلمی کی وجہ سے غلطی یا کوتاہی کر رہا ہے تو اس کو بتا دینا واجب ہے اور اگر لاعلمی نہیں بلکہ سستی، کج فہمی، جہالت یا بدعت وغیرہ میں ابتلاء اس کا سبب ہے تو اگر تمہارا اتنا اثر ہو اور کسی وجہ سے قرائن سے گمان غالب ہو کہ تمہارا کہنا مان لے گا تو بھی واجب ہے ورنہ مستحب۔ اور اگر قرائن سے گمان غالب ہو کہ ماننا تو کیا اٹے فتنہ و فساد لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جائے گا جس کا تم مقابلہ یا تحمل نہیں کر سکتے یا تمہاری کم علمی یا مغلوب الغضب ہونے کی بنا پر حدود سے نکل جانے کا اندیشہ ہے تو ایسی صورتوں میں تبلیغ مستحب بھی نہیں بلکہ ممنوع ہے، اس لئے کہ جس طرح ہر چیز کے حدود ہیں تبلیغ کے بھی حدود ہیں الامرون بالمعروف والنہون عن المنکر کے بعد ساتھ ہی الحافظون لحدود اللہ لگا ہے، لہذا امر بالمعروف ونہی عن المنکر دوسرے پیر تک حدود و ضوابط سے مقید ہے جس کے جاننے کے لئے نصاب الاحتساب کافی ہے۔ جاہل کو امر بالمعروف جائز نہیں کیونکہ وہ اصلاح سے زیادہ فساد کرے گا۔

اس سلسلہ میں خود حضرت نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ :-

”مکہ میں مجھے ایک جاہل نے امر بالمعروف کیا کہ تم عمامہ کیوں نہیں باندھتے یہ سنت ہے میں نے کہا کہ تم انگی کیوں نہیں باندھتے یہ بھی سنت ہے سوچ کر کہنے لگے میں بوڑھا ہوں لنگی میرے جسم پر ٹھہرتی نہیں میں نے کہا میں جوان ہوں عمامہ سے گرمی لگتی ہے اس پر بہت جھلائے کہنے لگے خدا کرے تمہارے دماغ میں اور گرمی بڑھ جائے۔

بھلا ایسے جاہلوں کو جو امر بالمعروف سے پہلے مخاطب کی حالت بھی نہ دریافت کریں اور ایک سنت زائدہ کے لئے اس سختی سے امر بالمعروف کریں کیونکہ امر بالمعروف جائز ہو سکتا ہے۔ (المحدود والقیود ص ۳)

”اسی طرح واعظین یا خطاب عام والوں کے لئے ضروری علم کے علاوہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کسی قسم کی طمع و حرص ہرگز نہ رکھیں کسی کی دعوت

وغیرہ تک بلا سابق و خاص تعلق کے قبول نہ کریں، اگر پیرہوں تو وعظ و تبلیغ کی جگہوں میں کسی کو مرید بھی نہ کریں، نہ کسی سیاسی جھگڑے میں پڑیں نہ خانگی نزاعوں میں "وقس علیٰ هذا"

ایک آیت سے استنباطات

”أَحْضِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“
کی آیت کے تحت حضرت نے جا بجا تبلیغ و دعوت کے جو اصول و قواعد مستنبط فرمائے ہیں وہ ملخصاً سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں ارشاد ہے کہ:-

”اس آیت میں سبیل رب کی طرف بلانے کا حکم ہے جس کے تین طریقے اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں، ایک حکمت کا طریقہ، دوسرا موعظہ حسنہ کا، تیسرا مجادلہ کا، اس کا جو مطلب میری سمجھ میں آیا ہے عرض کرتا ہوں، جب کسی کو سبیل رب یا اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف دعوت دی جائے گی تو اس میں ایک تو داعی کا خاص مطلوب دعویٰ ہوگا، اور ایک اس دعوے کی نقیض یا منافی صورت ہوگی جو داعی کے مذہب مخالف کا دعویٰ ہوگا، اس لئے گفتگو میں دو چیزوں کی ضرورت ہوگی، ایک اپنے دعوے کا اثبات اور دوسرے مخالف کے دعوے کا ابطال لہذا حکمت تو یہ ہے کہ اپنے دعوے پر علمی و عقلی دلائل قائم کئے جائیں اور مجادلہ یہ ہے کہ مخالف کے دعوے کو باطل کیا جائے، اصل مقصود تو یہی دونوں ہیں۔
باقی تیسری چیز ایک اور موعظہ حسنہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ شفقت بہت زیادہ ہے، اس لئے موعظہ حسنہ کا بھی ایک طریقہ بتلادیا، جس کی حقیقت یہ ہے کہ ناصح و وقسم کے ہوتے ہیں ایک تو محض ضابطہ کا پابند جو محض ضابطہ کی خانہ پری کر کے بے فکر ہو جاتا ہے اور دوسرا جس کو سامعین پر خاص شفقت بھی ہوتی ہے، مثلاً منادی کا کام ضابطہ کے ساتھ صرف حکم پہنچا دینا ہے، اس سے اس کو بحث نہیں کہ تم مانو یا نہ مانو اور مثلاً باپ وہ محض سنانے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ شفقت کی وجہ سے ایسی صورت اختیار کرتا ہے کہ بیٹا جہاں تک ہو سکے مان ہی لے۔ اب ظاہر ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی شفیق ہے، نہ حضور جیسا کوئی خیر خواہ۔ لہذا اولاً حضور اور پھر حضور

کے واسطہ سے امت کو فرمایا کہ دعوت میں صرف حکمت یعنی دلائل ہی پراکتفا نہ کرو، بلکہ ساتھ ساتھ موعظہ حسنہ سے بھی کام لو۔

”جس کی حقیقت خود حکمت کے تقابل سے معلوم ہوتی ہے کہ جب حکمت سے علمی دلائل مراد ہیں تو موعظہ حسنہ سے ان کے سوا کچھ اور مراد ہوگی اور وہ ایسی موثر باتیں ہیں جن سے مخاطب میں نرمی اور قبول کا میلان پیدا ہو، اس کا دل پگھل جائے، اس کو قبول کی رغبت اور انکار سے خوف پیدا ہو، مثلاً دوزخ و جنت کی ترغیب و ترہیب کے مضامین کہ فلاں کام کرو گے تو ایسی ایسی جنت ملے گی جس میں فلاں آسائشیں ہوں گی یا نہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے جس میں فلاں فلاں مصیبتیں ہوں گی، گو یہ بھی احکام ہی ہیں مگر جب دوزخ و جنت کا معتقد بنانا مقصود نہ ہو بلکہ صرف ترقیق قلب مقصود ہو تو وہاں ان کی حیثیت ترغیب و ترہیب کی ہے، باپ اگر بیٹے کو کسی چیز سے روکتا ہے تو گو اتنا کہ دینا کہ فلاں چیز نہ کھانا سنا کہ نہ حق ادا کرنے کے لئے کافی ہے، مگر باپ تو اتنا ہی نہیں کرتا بلکہ شفقت کی وجہ سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ چیز مُضر ہے، دست آور ہے، پیٹ میں درد پیدا کر دے گی، اس کے کھانے سے دانے نکل آئیں گے، اسی طرح کبھی طمع دلانے سے کام لیتا ہے کہ اگر یہ دوا پی لو گے تو تم کو یہ دوں گا، وہ دونوں کا غرض چونکہ ایسے آدمی کم نکلیں گے جو محض امثال امر کے لئے کسی کام کو کریں، اس لئے ترغیب و ترہیب کی بھی ضرورت ہے۔“

پھر آگے مجادلہ میں ”احسن“ کی قید بھی لگائی اس لئے کہ حکمت کی صورت یعنی اپنے دلائل بیان کرنے میں تو کسی کو ناگوار سی نہیں ہوتی، البتہ دوسرے کا دعویٰ رد کرنے میں کبھی انقباض بھی ہوتا ہے تو یہاں قید لگادی کہ رد اگر ہو تو بطریق احسن ہو جس سے مخالف کو رنج و کلفت نہ ہو، سبحان اللہ مخالف کی بھی اتنی رعایت کہ اس پر حقیقت تو منکشف ہو جائے، مگر اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، البتہ رد یا جواب گول مول نہ ہو جیسا کہ بعضوں کا ہوتا ہے جس سے حقیقت بھی پوری طرح ظاہر نہیں ہوتی، یہ حسن مجادلہ کے خلاف ہے، چنانچہ

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ کا یہی مطلب ہے کہ کھول کر صاف بیان کر د

تبلیغ میں افراط کی غلطی کی اصلاح

”ایک باریک نکتہ و ادب تبلیغ کا اور رہ گیا..... حَاجِ لَہُم تَک تَہ“

پھر اگر ان ثمرات کا ترتب نہیں ہوتا تو حزن و ملال ہوتا ہے، بعض وقت
یاس تک نوبت آجاتی ہے اور مخاطب پر غیظ و غضب ہوتا ہے یا حاضر و غائب
برا بھلا کہتے ہیں کہ جانا لائق تجھے اس قدر سمجھایا، اتنی کوشش کی مگر نہ سمجھا
ساری محنت ضائع کی، اور اگر اس پر قدرت ہوتی ہے تو کبھی اس کو سزا
دیتے ہیں، وہ بھی اعتدال سے زیادہ اور بعض وقت تنگ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں

کہ جا بھاڑ میں پڑ۔ غرض یہ اثر ہے۔ ظاہری ثمرات پر نظر کا، اسی طرح جب مبلغ کو محزون و غمگین دیکھا جاتا ہے تو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ ہمہ تن اسی طرف متوجہ ہیں اور دوسروں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کے لئے دعا کرو کہ اصلاح ہو جائے، مثلاً بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سمجھاتے ہیں، کڑھتے ہیں دل سے دعا کرتے ہیں، دوسروں سے تحویذ لکھاتے ہیں۔

”گو یہ سب باتیں محمود یا اچھی ہیں مگر ان میں بھی غلو نہ چاہیے، ورنہ یہ غیر معتدل شفقت کمال کے بجائے نقص بن جاتی ہے، کیونکہ اس کا انجام یاس و تعطل ہوتا ہے اور بالآخر آدمی سرے سے تبلیغ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لہذا اس ادب تبلیغ کا حاصل یہ ہوا کہ ثمرات کے مرتب نہ ہونے پر زیادہ محزون نہ ہو سوچ سوچ کر غم نہ کرے، ہاں طبعی حزن کا مضائقہ نہیں، اس میں ثواب ہے لیکن اتنا غلو کہ روتے روتے آنکھیں پھوڑ لے اور ہمت ہی ٹوٹ جائے، برا ہے نصوص سے اتنے حزن و ملال کی اجازت نہیں جیسے کہ لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ اور لَعَلَّكَ بِاِحْضٍ لِّمَكَ عَلَيْهِمْ وغیرہ آیات سے معلوم ہوتا ہے۔“ اسی لئے جَا دِلْهُمْ کے بعد ہی اس ضرر کا تدارک کیا عجیب فرماتے ہیں کہ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَّمَ مِمَّنْ مَّنَّلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَّمَ بِالْمُهْتَدِينَ۔ یعنی تبلیغ کر کے نتیجہ کی فکر میں زیادہ نہ پڑو، یہ خدا کے قبضہ میں ہے، تمہارے اختیار سے باہر ہے ماحصل یہ ہے کہ ان آیات میں تفریط و افراط دونوں سے تعرض کیا گیا ہے تفریط سے اُخْرُجْ اِلٰی سَبِيلٍ رَبِّكَ۔ آلا یہ میں اور افراط کی مخالفت اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَّمَ مِمَّنْ مَّنَّلَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ عَلَّمَ بِالْمُهْتَدِينَ سے فرمائی گئی۔

اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ آج دین کے معاملات میں اتنی غیر معمولی شفقت اور اتنا غلو افراط کتنوں کو ہوتا ہے اور اصل کوتاہی و غفلت ہر طبقہ سے تبلیغ کے معاملہ میں تفریط ہی کی ہے، تاہم حضرت مجدد وقت رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی نظر نے جس طرح ہر امر میں افراط و تفریط دونوں کی اصلاح فرمائی ہے اس میں کیے عراط مستقیم کو نظر انداز فرما۔ لہذا دونوں باتوں کے جمع کا طریقہ یہ فرمایا کہ سعی و تدبیر تو ہدایت و اصلاح کی پوری ہو۔

” مگر اس میں نیت فقط رضائے حق کی ہو یہ نیت ہی نہ ہو کہ وہ مسلمان ہو ہی جائے۔ ہاں دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اس کو مسلمان بنا دیجئے، اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دیجئے دعا تو یہ کرے اور عمل وہ کہ کام میں صرف رضائے حق کو مد نظر رکھے ” (ص ۳ آداب التبلیغ)

دینی طلباء کو خصوصی تہنیت | اسی سلسلہ میں عربی و ہندی مدارس کے طلباء کو جو مقتدا بننے والے ہیں خصوصاً متنبہ فرمایا

گیا ہے کہ جس طرح دین کے تمام شعبوں میں ان کے لئے کمال و جامعیت کا اہتمام ضروری ہے اسی طرح تبلیغ میں بھی افراط و تفریط سے بچ کر تمام آداب کا لحاظ لازم ہے۔

” آپ لوگ مقتدا بننے والے ہیں۔ اس لئے آپ کے اندر سب شعبے دین کے ہونا چاہئیں۔ حسین وہ ہے جس کی ناک، کان، آنکھ سب ہی حسین ہوں، سب چیزیں موزوں یا متناسب ہوں، اگر سب چیزیں اچھی ہوں مگر آنکھوں سے اندھا یا ناک کٹی ہو تو وہ حسین نہیں، اسی طرح دیندار وہ ہے کہ جو دین کے تمام شعبوں کا جامع ہو (یہ نہیں کہ جس کو اوراد و نوافل میں زیادہ مشغول دیکھا، کہہ دیا کہ بڑا دیندار ہے، خواہ معاملات و معاشرت کا کچھ ہی حال ہو۔ راقم مولف، علی ہذا عالم وہ ہے جو علوم کے تمام شعبوں کا عالم ہو۔ ان شعبوں میں امر بالمعروف کے وہ آداب بھی ہیں جو اوپر بتلائے گئے، ان سب کو بھی جمع کرنا چاہیئے۔

اہل صلاح کی دوسروں کی صلاح کے ساتھ اصلاح و تبلیغ یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی جس درجہ کا دینی فرض ہے، اور جس طرح اس کی طرف سے غفلت و بے فکری

ہے اس کی بنا پر وعظوں میں کثرت سے اور بار بار متوجہ و متنبہ فرمایا ہے، اصلاح والا صلاح ایک اور وعظ میں ارشاد ہے کہ :-

” جو لوگ خود اعمال میں مشغول بھی ہیں، ان کو بھی دوسروں کی فکر نہیں حتیٰ کہ اپنے نوکروں چاکروں متعلقین، بلکہ اپنے بچوں تک کو مثلاً نماز پر مجبور نہیں کرتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا باب آج کل بالکل ہی مفقود ہے، یاد رکھو جیسے

طاعت خود واجب ہے ایسے ہی دوسروں کی طاعت کی سہی بھی واجب ہے، مگر یہ سہی بقدر استطاعت واجب ہے۔ جہاں زبان کی استطاعت ہو زبان سے کرے جہاں ہاتھ پاؤں سے کر سکے ہاتھ پاؤں سے کرے، وہ پیہ پیہ سے کر سکے اس سے کرے، خلاصہ یہ ہے کہ محض اپنا عمل درست کر لینا کافی نہیں۔

”گوئی نفسہ اپنی اصلاح غیر کی اصلاح پر مقدم ہے“ مگر اس تقدیم کے معنی یہ نہیں کہ اگر اپنی اصلاح نہ کرے تو دوسروں کی بھی واجب نہیں رہتی۔ بلکہ یہ محض عملی ترتیب ہے کہ پہلے اپنی اصلاح ہو پھر دوسرے کی نہ یہ کہ اگر مقدم کام نہ کیا ہو تو مؤخر بھی نہ کرے، دراصل دونوں کام الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کا موقوف علیہ نہیں، ایک کو ترک کرے گا تو ایک کے ترک کا گناہ ہوگا، دوسرے کو ترک کرے گا تو اس کے ترک کا گناہ ہوگا، اور دونوں کو ترک کرے گا تو دونوں کے ترک کا گناہ ہوگا۔

”اسی لئے کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔“ کی آیت میں اصلاح غیر کو اصلاح نفس سے پہلے ذکر فرمایا کہ اپنی اصلاح کے بعد دوسرے کی اصلاح ہے بے فکر نہ ہو جائیں، البتہ اصلاح غیر کے بقدر استطاعت مدارج ہیں چنانچہ ایک درجہ یہ ہے کہ قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا یعنی اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، جس کا حاصل اپنے متعلقین کی اصلاح ہے لیکن اس کا یہ حال ہے کہ اگر خود مثلاً نماز پڑھ بھی لیتے ہیں، مگر بی بی بچوں نوکروں وغیرہ اپنے متعلقین کو نہیں کہتے، بچے اگر امتحان میں فیل ہو جائیں تو رنج ہوتا ہے لیکن نماز نہ پڑھیں یا قضا کر دیں تو پروا بھی نہیں ہوتی۔

دوسرا درجہ یہ ہے وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اُمَّةً يَدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ تمام کام چھوڑ کر صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے۔ جس کا حاصل تبلیغ عام ہے، اسی طرح قُواْ اَصْوَابَ الْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ میں اہل و عیال کی تخصیص نہیں، اگرچہ ہم ساری دنیا کی اصلاح کے ذمہ دار نہیں،

پھر بھی جہاں تک ہو سکے کوشش تو کریں کیونکہ اس کی باز پرس ہوگی۔
 ”اس کوشش کے اعتبار سے تین حالتیں ہیں ایک تو یہ کہ سرے سے کوشش ہی نہ کرے، ایک یہ کہ ایسی کوشش کرے کہ اگر ناکامی ہو تو گھل گھل کر جان دیدے، دونوں درجے غیر محمود و ناپسندیدہ ہیں اور تیسرا محمود و مطلوب درجہ یہ ہے کہ اپنی والی سعی و تدبیریں کمی نہ کی جائے اور اس سعی و تدبیر کا مقصود رضائے حق و حصول اجر ہو، باقی کامیابی و ناکامی کو خدا کے سپرد کر دیا جائے۔“

اصول اور فروع میں تبلیغ فرض کی ایک اور وعظ و تواصی

بالحق کے کچھ اقتباسات

بھی مزید تنبیہ کے لئے درج ذیل ہیں :-

”تبلیغ ہمارے اوپر اصول و فروع تمام احکام میں فرض ہے اس زمانہ کی یہ بھی ایک نادانی ہے کہ فروع سے چشم پوشی بڑی دانائی جانی جاتی ہے مولف، جس طرح اَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں ایمان و عمل صالح کا امر فرمایا ہے اسی طرح وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں تواصی بالصبر کا اور اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفٍ خُسْرٍ کے خسارہ سے بچنا اور ان دونوں ہی پر موقوف ہے۔
 اب اپنی غفلت کا حال دیکھئے کہ چوبیس گھنٹہ میں کتنا وقت اس فریضہ کی ادائی میں صرف کرتے ہیں جن پر زور نہیں ان کو تو رہنے دو جن پر زور ہے اُن کے ساتھ بھی تواصی بالحق کا معاملہ نہیں کیا جاتا ہے زیادہ شکایت دینداروں سے ہے کہ وہ بھی گھر والوں کو دین پر تنبیہ نہیں کرتے نہ اس کی خبر رکھتے ہیں کہ آج بیوی بچوں نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی اور کوئی کام خلاف شرع تو نہیں کیا بس یہ سمجھ لیا کہ اپنی اصلاح کر لینا چاہیے تاکہ ہم خود جنت میں چلے جائیں حالانکہ اس کا بھی مواخذہ ہوگا کہ اپنے گھر والوں کو بھی دین کے راستہ پر کیوں نہیں چلایا، صاف ارشاد ہے کہ قُواْ اَنْفُسَکُمْ وَاَهْلٰیْکُمْ نَارًا۔
 کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ“

”اگر کبھی اپنی نماز قضا ہو جائے تو اس پر تو ندامت ہوتی ہے مگر ترک تواصی و ترک تبلیغ پر ذرا ندامت نہیں ہوتی، انصاف سے کہئے کبھی بیوی کو نصیحت نہ کرنے

یا کسی دوست کی خلاف شرع وضع پر نصیحت نہ کرنے پر بھی مذمت ہوئی؟

علماء اور عوام کے فریضہ تبلیغ میں فرق

اور یہ تبلیغ یا امر
بالمعروف و نہی عن المنکر

صرف علماء ہی کا کام نہیں البتہ اس کی دو قسمیں ہیں۔

”ایک خطاب عام دوسرے خطاب خاص۔ دوسری تقسیم یہ ہے کہ ایک خطاب منصوصات و قطعیات میں ہوتا ہے اور ایک اجتہادات میں پس خطاب عام بصورت وعظ اور اسی طرح امور اجتہادیہ میں خطاب یہ تو علماء ہی کا کام ہے مگر انفرادی طور پر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو نصیحت کر سکتا ہے اسی طرح جو مسائل منصوص اور قطعی ہیں ان میں ہر شخص آواز بلند کہہ سکتا ہے کہ مثلاً ایمان لانا فرض ہے، نماز، روزہ حج، زکوٰۃ فرض ہے۔“

لیکن عالم و عامی سب ہی کو اس معاملہ میں اپنے اپنے فرائض سے اتنی بے پروائی ہے کہ اولاً تو ان کی طرف توجہ ہی نہیں اور کوئی توجہ دلائے تو طرح طرح کے عذر اور بہانے تلاش کرنے لگتے ہیں۔

”صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے امر بالمعروف شروع کر دیتے پھر مثلاً کسی باوجاہت آدمی کو خلاف شرع وضع پر نصیحت کرنے یا کسی کافر کو تبلیغ اسلام کرنے میں بھاڑی اٹکتی اُس وقت مولوی صاحب سے پوچھتے کہ صاحب کیا کروں یہ کیا کہ نہ حاکم کو امر بالمعروف نہ محکوم کو نہ مسلم کو نہ کافر کو نہ بیوی کو نہ اولاد کو پہلے ہی عذر دریافت کرنے لگے، یہ ایسا ہی ہے جیسے روزہ شروع کرنے سے پہلے کوئی یہ تحقیق کرنے لگے کہ روزہ کن کن عذروں سے ساقط ہو جاتا ہے، پھر مثلاً اپنے گھر والوں کو امر بالمعروف کرنے سے کون سا عذر مبالغہ ہے، بیوی یا لڑکے نے نماز نہیں پڑھی تو ان کو نصیحت کرنے یا سزا دینے میں کیا خوف ہے، کیا وہ مار ڈالیں گے، یہ سب بہانے لٹو ہیں۔“

”اصل بات وہی ہے کہ آپ اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، بھلا اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے سامنے زہر کھانے لگے تو کیا آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھٹکا دے کر زہر کو اس کے ہاتھ سے نہ لے لیں گے، اگر تنہا قادر نہ ہوں گے تو دوسروں کو امداد کے واسطے بلائیں گے پھر کیا وجہ ہے کہ دین میں جو افعال مضر ہیں ان سے

روکنے کے لئے اس اہتمام سے کام نہیں لیا جاتا، معلوم ہوا کہ آپ دین کے ضرر کو ضرر ہی نہیں سمجھتے اور یہ سخت مرض ہے جس کا علاج بالفصد ہے مگر اس قدر غفلت ہے کہ خدا کی پناہ کسی کو اس علاج کی طرف توجہ نہیں۔ **إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ** البتہ یہ ضروری ہے کہ ابتدا میں جہاں تک ہو سکے نرمی و تالیف قلب سے کام لو اور انتہا میں صفائی سے، مگر آج کل کی حالت یہ ہے کہ اگر مصالح کی رعایت ہے تو عمر بھر مصالح ہی مصالح چلے جائیں گے اور اگر صفائی اختیار کرتے ہیں تو شروع ہی سے لٹھ ساما رویتے ہیں۔

بعض مواقع پر اہل اللہ کے بظاہر
ترک امر بالمعروف کی وجہ

بلاشبہ بعض بڑے بڑے
بزرگان دین اور اہل
اللہ کے خاص خاص
استثنائی صورتوں میں

ایسے واقعات بھی ملتے ہیں جن سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے امر بالمعروف کو ترک فرمایا لیکن وہ دراصل ظاہر میں ترک اور باطن میں امر ہی ہوتا ہے جن میں ان کی خاص فراست، وبرکت کو دخل ہوتا ہے۔ ایسی بعض مثالیں احقر کے علم میں خود حضرت کے ہاں بھی آئیں لیکن ان بزرگوں کا معاملہ الگ ہے۔

”ان کے حال کو اپنے حال پر قیاس مت کرو تمہارے لئے وہی طریقہ لازم ہے کہ زبان سے نصیحت کرو اور اہل باطن کبھی قال سے نصیحت کرتے ہیں کبھی حال سے اور کبھی بال یعنی دل سے کیونکہ ان کی توجہ قلبی میں بڑا اثر ہے جو تمہاری زبان میں نہیں۔“

گرچہ تفسیر زبان روشن گرسٹ لیکن عشق بے زبان روشن تراست
مگر یہ وقائق ہر شخص نہیں سمجھ سکتا، اس لئے عوام کے لئے اصل طریقہ وہی ہے جو عام ہے کہ زبان سے نصیحت کرو۔“

”اہل اللہ کو اللہ کی طرح مخلوق کے ساتھ شفقت بہت ہوتی ہے وہ بالعموم ایسے طرز سے نصیحت کرتے ہیں کہ مخاطب کو نفع ہی ہوتا ہے، اگر اس میں کچھ ارادہ و طلب ہے ورنہ گروہ خود نہ چاہے تو ایسے شخص کا علاج تو

انبیاء علیہم السلام بھی نہیں کر سکتے۔

لیکن ایسے اہل اللہ کتنے ہیں۔

”آج کل تو عموماً ہر قسم کی تبلیغ اس لئے متروک ہے کہ مخاطب کو اس سے ناگواری ہوتی ہے اور خلائق کی ناگواری کو اپنے ذمہ کون لے۔ یاد رکھو، محض ناگواری مخاطب کوئی عذر نہیں، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اَنْضِرْبُ عَنْكُمْ الَّذِیْنَ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِیْنَ ۝

امر بالمعروف کے ترک کا عذر صرف یہ ہے کہ ضرر کا اندیشہ ہو اور ضرر بھی جسمانی۔ محض کسی منفعت کے فوت ہونے کا ضرر نہیں، اب غور کیجئے کہ ایسے ضرر کے مواقع کتنے ہوتے ہیں۔ زیادہ تو محض مخاطب کی ناگواری کا خیال مانع ہوتا ہے تو اس کی ناگواری کی پردا کیوں کی جائے۔ آپ کا مذاق تو یہ ہونا چاہیے۔

ہزار خویش کہ بے گانہ از خدا باشد خداے یک تن بے گانہ کا شائبہ
”جو شخص خدا سے بے گانہ ہے اگر اس کو احکام الہی کی تبلیغ ناگوار ہے تو ہماری جوتی سے۔ بس ہم کو خدا پر نظر رکھنا اور صرف اس کی رضا کا طالب ہونا چاہیے، خواہ تمام دنیا ناراض ہو جائے۔“

اس کی حضرت نے ہمارے روزمرہ کے مشاہدہ سے ایک عجیب

ایک سبق آموز مثال

سبق آموز مثال دی ہے کہ :-

”میں آپ کو ایک عبرت ناک کثیر الوقوع واقعہ سناتا ہوں ایک چودہ سال کی لڑکی جس نے ماں باپ کی گود میں پرورش پائی، ان کے گھر کو اپنا گھر، ان کے دوست کو اپنا دوست، اُن کے دشمن کو اپنا دشمن جانا اس کی حالت نکاح کے دو لفظوں سے یہ ہو جاتی ہے کہ جہاں اس کے منہ پر سے ہاتھ اُترا، اب شوہر کا گھر اس کا گھر ہے، اُس کا دوست اس کا دوست، اُس کا دشمن اُس کا دشمن، شوہر کا دوست باپ کا دشمن اور شوہر کا دشمن باپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو، بلکہ اگر کسی وقت باپ بھی شوہر کا دشمن ہو جائے

تو عموماً عورتیں شوہر کا ساتھ دیتی ہیں۔

”افسوس اس لڑکی نے تو عقد کے اہجاب و قبول میں ایسی مردانگی دکھائی اور ہم باوجود مرد ہونے کے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عہد باندھنے کے خدا کے دوست کو اپنا دوست اور خدا کے دشمن کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، آپ کا تو یہ حال ہونا چاہیے کہ نہ

دل آرائی کہ داری دل در بند و گر چہم از ہمہ عالم فرو بند
بس تمام عالم سے کہہ دو کہ ہم نے ایک ذات سے علاقہ جوڑ لیا جو اس سے
ملے ہمارا دوست جو اس سے الگ ہے وہ ہم سے الگ۔

ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی جب وہ راہ پر نہ آئے
توصاف فرما دیا سَلَامٌ عَلَیْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّیْ اِنَّہٗ كَانَ بِیْ خَفِیًّا
کہیں میرا سلام تو اب تم سے کچھ واسطہ نہیں اپنے خدا سے دعا کروں گا،
صاحبو ابراہیم علیہ السلام کا طرز اختیار کرو یہی اسلام کا مقتضی ہے۔
جیسا کہ دوسری جگہ حکم ہے کہ تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام اور ان
کے ساتھیوں کا اچھا نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ ہم تم
سے بیزار ہیں اور تمہارے ان معبودوں سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے
ہو، ہم تم سے الگ ہیں اور ہمارے تمہارے درمیان بغض و عداوت ہمیشہ
کے لئے قائم ہو چکی، جب تک کہ تم اللہ و وحدہ پر ایمان نہ لاؤ۔“

پس نہ ہم کو مخاطب کی کسی ناگواری کی پرواہ کرنی چاہیے اور نہ اس ناگواری
کی وجہ سے تبلیغ میں کوتاہی کی جائے۔

بعض دقیق باتیں | اسی توامی بالحق و توامی بالصبر کی تفسیر کے
سلسلہ میں بیان فرمایا کہ :-

لَقَدْ کَانَ لَکُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِیْ اِبْرٰہِیْمَ وَ الَّذِیْنَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِہِمْ
اِنَّا بُرَآءُ وَّمِنْکُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ کُفْرًا بَیْکُمْ وَ بَدَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَکُمْ
الْعَدَاوۃُ وَ الْبَغْضَاءُ اَبَدًا حَتّٰی تُوْمِنُوْا بِاللّٰہِ وَحْدَہٗ

"یہ ناگواری مخاطب کو گو تبلیغ عقائد میں زیادہ ہوتی ہے، مگر جب وہ ایک مرتبہ اپنے عقائد سابقہ کی غلطی سمجھ کر عقائد حقہ کو قبول کر لیتا ہے تو اس کے لئے بار بار تبلیغ کی ضرورت نہیں رہتی، بخلاف اعمال کے کہ ان کی تبلیغ ابتداء میں تو دشوار نہیں نہ مخاطب کو اس میں زیادہ ناگواری ہوتی ہے مگر اس میں بار بار تبلیغ کی حاجت ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنے اعمال فاسدہ کو ایک بار چھوڑ کر بھی لذت نفسانی کی وجہ سے پھر اختیار کر لیتا ہے تو اس میں ابتدائی تبلیغ کافی نہیں ہوتی بلکہ بقائے تبلیغ کی بھی حاجت رہتی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ تبلیغ عقائد کی ابتدا دشوار مگر بقا سہل اور تبلیغ اعمال میں ابتداء آسان مگر بقا دشوار۔ اس لئے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ میں ایسا عنوان اختیار فرمایا گیا جس میں مبلغ کو بھی صبر و استقلال کی تعلیم ہے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَسْرَارِ کَلَامِهِ

"ایک اور دقیق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور تواصی بالحق کے ساتھ تواصی بالصبر یوں بڑھایا، وجہ یہی ہے کہ اعمال صالحہ جو ہر ایمان کے محافظ ہیں، اور گناہ و معاصی اس دولت کے دشمن ہیں، جو شخص خود گناہ کرتا یا کسی دوسرے کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر نصیحت نہیں کرتا رفتہ رفتہ اس کے دل سے گناہوں کی نفرت کم ہو جاتی، پھر زائل ہو جاتی ہے اور گناہ کو ہلکی مہولی بات سمجھنے لگتا ہے اور یہی کفر ہے، ایک اور بڑی غلطی یہ ہے کہ علماء کا اصل کام تبلیغ تھا نہ کہ چندہ جمع کرنا، خواہ وہ تبلیغ ہی کے لئے ہو اس میں بڑے مفاسد ہیں جن کا بیان اوپر ہو چکا۔

"یہ کام دنیا والوں کا ہے اور اس کا انتظام سب مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ کام بھی کریں اور بھیک بھی مانگیں۔ شرم نہیں آتی کہ جن علماء کو مقتدا سمجھتے ہو انہیں سے بھیک بھی منگوانا چاہتے ہو۔ میں نے اپنے مبلغین سے کہہ دیا ہے کہ جب تمہارے پاس اتنی رقم رہ جائے کہ جس سے اپنے گھر پہنچ سکو اس وقت مجھ کو اطلاع کر دیا کرو، اگر اور رقم ہوگی تو بھیجو، ورنہ بلا لوں گا کیونکہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ رقم نہ رہے تو لوگوں سے

مانگتے پھرے۔ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے، اس کے لئے ہم حاضر ہیں، اور جس کام میں روپے کی ضرورت ہے، اگر بدوں مانگے مسلمان ہمارے پاس روپیہ بھیج دیں گے تو اس سے کام چلاتے رہیں گے اور نہ بھیجیں گے تو خدا تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ بر۔

”اس کام کے لئے روپیہ کی ضرورت تھی، مسلمانوں نے مالی اعانت پر توجہ نہ کی، اور ہم نے بھیک مانگنے میں دین کی ذلت سمجھی، اس لئے یہ کام نہ ہو سکا۔ اس کے بعد عام مسلمانوں سے مواخذہ ہو گا کہ تم نے تبلیغ میں مالی اعانت کیوں نہیں کی اور اگر تم کو کسی پر اعتماد نہ تھا تو تم نے رقم کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے صلح کے لئے تبلیغ کا انتظام کیوں نہیں کیا۔ میں نے کام کی جتنی صورتیں تھیں سب آپ کو بتلا دیں، اب جو چاہا ہو اختیار کر لو، اس کے بعد آپ کو کسی عذر کا موقع نہیں۔“

تبلیغ اعمال بھی ضروری ہے | اوپر لواصی بالحق کے حصہ میں تو زیادہ تر تبلیغ عقائد

کا ذکر تھا، دوسرے حصہ تواصی بالصبر میں، تبلیغ احکام کی طرف بالخصوص توجہ دلائی گئی ہے کہ فساد عقائد کی طرح

”آپ فساد اعمال کو کیوں منکر نہیں سمجھتے، اور ایسے شخص سے آپ کا دل کیوں کر ملتا ہے جو فروع ایمان میں ناقص ہے اس سے بالکل کلفت دوستی کس طرح کی جاتی ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی تم میں امر منکر دیکھے تو اس کو ہاتھ سے مٹائے یا زبان سے یاد دلے پھر یہ کیا غضب ہے کہ ہم لوگ منکر کو دیکھ کر نہ ہاتھ سے روکتے ہیں نہ زبان سے نہ دل سے نفرت کی جاتی ہے بلکہ اعمال میں کوتاہی کرنے والوں کے ساتھ وہی بشتاشت ہے، وہی دوستی ہے، جیسے کامل الایمان کے ساتھ ہو۔ گویا آپ خدا تعالیٰ کی طرف سے وکیل و مختار ہیں کہ جس چیز کو چاہیں معاف کر دیں جس منکر سے چاہیں قطع نظر کر لیں!“

”وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً“ کی یہی تفسیر آئی

ہے کہ ایک شخص کسی بستی میں گناہ کرتا رہتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں اس سے کنارہ کشی نہیں کرتے نہ اس پر کچھ تشدد کرتے ہیں تو اس شخص کی وجہ سے سیکڑوں بے گناہ عذاب میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو کسی بستی کے الٹ دینے کا حکم دیا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا خداوند! اس بستی میں ایک شخص ایسا ہے جس نے عمر بھر میں کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کی کیا اس سمیت الٹ دوں فرمایا کہ ہاں اس سمیت الٹ دو۔ کیونکہ اس نے بغاہر کوئی گناہ نہیں کیا، مگر گنہگاروں کو دیکھ کر اس کے چہرہ پر بل نہیں پڑا۔ وہ ہمارے دشمنوں سے ویسی ہی دوستی و محبت کے ساتھ ملتا رہا، جیسا دوستوں سے تو یہ کیسی محبت ہے کہ ہمارے دشمنوں پر غصہ بھی نہ آئے، اس لئے وہ بھی انہیں کے مثل ہے۔

جن کو سب سے زیادہ ہم پر تبلیغ کرنا واجب ہے

سب سے زیادہ اور بار بار جن لوگوں کو تبلیغ پر حضرت نے متوجہ اور متنبہ فرمایا ہے وہ وہ ہیں جن پر ہم کو کسی نہ کسی قسم کی قدرت حاصل ہے مثلاً بی بی بچے

لو کر چاکر، مرید شاگرد وغیرہ پھر اس کی بھی دو قسمیں فرمائی ہیں۔

”ایک وہ جنہوں نے اطاعت کا ہم سے صریح معاہدہ نہیں کیا جیسے بی بی بچے کہ گو شرعاً ان پر ہماری اطاعت واجب ہے مگر انہوں نے صراحتاً اس کا کوئی التزام و معاہدہ نہیں کیا کہ تم ہم کو تعلیم و تبلیغ کرو ہم تمہاری تعلیم پر عمل کریں گے۔“ مگر ایک تعلق ایسا ہے کہ جس میں دوسرا شخص ہماری اطاعت کے صریح التزام کا عہد کرتا ہے یعنی یہ پیری و مریدی کا تعلق کیونکہ پیری و مریدی نام ہی ہے مرید کی جانب سے معاہدہ اطاعت کا اور پیر یا شیخ کی جانب سے معاہدہ تعلیم و اصلاح کا صرف ہاتھوں ہاتھ لے کر سبق سا پڑھ دینے کا نام پیری و مریدی نہیں۔ جیسا کہ آج کل عام طور پر سمجھ لیا گیا ہے کہ بس ایک مرتبہ یہ سبق پڑھ لیا اور مرید ہو گئے اب نہ پیر کے نزدیک تعلیم ضروری نہ مرید کے نزدیک اتباع سمجھے اس میں کلام ہے کہ اس طرح کسی طالب بیعت کو چپکے سے جلد بیعت کر لینا جائز بھی

ہے یا نہیں، کیونکہ اس صورت میں مرید کی اس غلطی کی گویا توثیق ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی بیعت کی حقیقت ہے۔

اصل یہ ہے کہ مریدوں سے زیادہ اس بارے میں خطا یا غفلت پیروں ہی کی ہے۔ نہ مرید کرنے سے پہلے بیعت کی حقیقت واضح کرتے ہیں اور نہ مرید کرنے کے بعد اصلاح و تربیت کو ضروری جانتے ہیں، حالانکہ یہ صریح خیانت و معصیت ہے۔

"جس میں ترک تبلیغ کے ساتھ وعدہ خلافی کا گناہ بھی شامل ہے کیونکہ حقیقت بیعت کی رو سے جس طرح مرید کی طرف سے اطاعت کا وعدہ ہوتا ہے اسی طرح شیخ کی طرف سے اصلاح کا حیرت ہے کہ مقتضی موجود اور موانع سب مرتفع، پھر بھی پیر صاحب مریدوں کے افعال پر خاموش ہیں، کچھ روک ٹوک نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیوخ یا تو پیری مریدی کی حقیقت ہی کو نہیں سمجھے، یا جان بوجھ کر پہلو ہتی کرتے ہیں۔"

ایک عجیب رائے | کیا عرض کیا جائے کہ بعض لوگوں کی رائے تو یہاں تک سنی کہ روک ٹوک مواخذہ و احتساب ترمیم و

تخولیف کا زمانہ ہی اب سرے سے نہیں رہا، صرف ترغیب اور تالیف قلب ہی سے کام لینا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے توالج بلکہ اپنی اولاد بھی مثلاً تارک نماز ہو تو بس ترغیب یا خوشامد سے آگے قدم نہ اٹھانا چاہیے گویا قرآن و حدیث کا تربیتی و تادیبی حصہ سب منسوخ ہو گیا ہے۔ نہ قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا کے امر و جواب نہ راعی و رعیت کی مسؤلیت نہ تغیر بالید و غیرہ کا اس سے زیادہ کوئی مطلب رہ گیا کہ اہل و عیال تک کفر و عصیاں فسق و فجور جس منکر کا بھی ارتکاب کرتے رہیں اور خواہ ترغیب و تفہیم نرمی یا خوشامد کی ساری تدبیری بیکار ثابت ہو چکی ہوں مگر کسی حال میں ان سے نہ کسی قسم کی نفرت و بیزاری ظاہر کی جائے نہ ان کے ساتھ تعلقات اور بشاشت و شگفتگی میں کوئی فرق آئے، نہ ان کو کوئی تخولیف و تنبیہ ہو۔

"صاحبو اس بلا میں ہم لوگ بہت گرفتار ہیں کہ ہمارے ملنے والوں میں بعض بے

مخاصی ہیں اور ہم ان سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے اور ملتے ملتے ہیں۔ ہاں

ایک صورت میں اس کی اجازت ہے کسی پر تشدد یا قطع تعلق کرنے میں مفسدہ یا اس

کی طرف سے اضرار کا اندیشہ ہو اور اپنے اندر تحمل کی طاقت نہ ہو اس میں سکوت کی

اجازت ہے۔ باقی جس کی ہمت ہو اس کو سکوت کی اجازت نہیں بلکہ اس کے لئے وہی حکم ہے یا بُنَّیٰ اَقْرَأِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر۔ اس کو چاہیے کہ صاف صاف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے اور جو خطرہ پیش آئے اس کا تحمل کرے۔ البتہ یہ شرط ہے کہ نفس و نفسانیت کی اس میں آمیزش نہ ہو (وعظ اصلاح ذات البین ص ۳۵)

اصل میں یہ ایسے حضرات کی رائے ہے جنہوں نے نہ صرف اس امر سے قطع نظر فرمایا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز اصول و فروع سب میں افراط و تفریط سے بچا کر صراطِ مستقیم کی تعلیم ہے بلکہ انہوں نے اس عام فطرت بشری سے بھی غص بصر فرمایا ہے کہ انسان جس طرح محض بات بات میں لٹھ مارنے سے راہِ راست پر نہیں آتا، اسی طرح نرمی دل جوئی یا خوشامد سے بھی درست نہیں ہوتا بلکہ وہ تو تحریف و ترہیب کا جتنا اثر قبول کرتا ہے رجاء و رغبت کا نہیں کرتا اور کیا عجب ہے کہ اگر استقصا کیا جائے تو قرآن مجید میں ترہیبی مضامین کا پلہ ترغیبی سے جھکتا ہی ثابت ہو ورنہ ثواب و عذاب جنت و جہنم دونوں کا غیر منفک ساتھ تو سارے کلام مجید میں ملے گا اور ایمان اپنے صحیح مقام پر تو خوف و رجاء کے کانٹے ہی پر رہ سکتا ہے۔

اسلام کی حدود اور اعتدال پسندی کی اس خاص شان کا اہتمام ہر چھوٹی بڑی چیز کی طرح طالبین اور مریدوں کی اصلاح و تربیت میں بھی اس زمانہ میں حضرت مجددِ وقت ہی کے ہاں دیکھا کہ ہر مجلس وعظ و تادیب دونوں کے رنگ میں سموی ہوتی، بعض مثالیں ایسی بھی دیکھیں کہ تعلیم و تربیت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک بیعت سے لے کر اجازت کے ساہا سال کی مدت تک زبان و قلم پر ایک کلمہ بھی تفسیر طبع کا نہیں آیا اور فراست ایمانی نے اس کی سرے سے ضرورت ہی نہیں جانی لیکن یہ استثنائی فطرتوں کے ساتھ استثنائی صورت ہی ہو سکتی تھی۔ باقی عام طرزِ عام فطرت شناسی کے مناسب ترغیب و تربیت دونوں کا تھا اور ترہیب و تادیب کے معاملہ میں یہاں تک ہوتا کہ بارہا لوگوں کو مجلس سے اٹھا دیتے مکاتب و مخاطبت کی مخالفت

فرمادیتے، ایک آدھ بار ضرب سے بھی علاج فرمایا، کسی نے کہہ دیا تھا کہ میں
 ثواب عیسائی ہو جاؤں گا تو ایک دھول رسید فرمایا، اس سے اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی
 دماغ سے شیطان کو نکال دیا۔ غرض تمام صفات و مدکات متقابلہ کی طرح ترغیب و
 ترہیب، انس و ہیبت، لطف و عتاب بھی حضرت جامع المجددین کی ذات میں نہایت
 اعتدال اور حسن استعمال کے ساتھ جمع تھے۔

یا رماآں دارد واین نیز اہم

انقلاب عام و تمام

آپ نے دیکھا کہ حضرت جامع المجددین علیہ الرحمہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دین کے سارے احکام کی طرح ان احکام کی تعلیم و تبلیغ کی بھی کیسی جامع و حاوی عام و تمام از سر نو تجدید فرمادی ہے۔ عام تو اس معنی میں کہ اس کے قبول و عمل کے بعد نہ کوئی طبقہ انشاء اللہ محروم رہ سکتا ہے اور نہ کوئی فرد۔ اور تمام اس معنی میں کہ دین کی اس تجدید یافتہ تعلیم و تبلیغ کا نظام احکام دین کے تمام ابواب و بیانات و معاملات اخلاق و معاشرت سب کو شامل ہے۔ اور اس لئے اگر اس کے اجرا و اقامت کا حق ادا کیا جائے تو دس سال میں ساری امت کے اندر عام و تمام دینی انقلاب برپا ہو جاسکتا ہے۔ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

قرآن مجید صرف کتابِ ہدایت
نہیں نظامِ ہدایت بھی ہے

بات یہ ہے کہ جامع و کامل دین کی ذالک الکتاب محض کتابِ ہدایت ہی نہیں نظامِ ہدایت بھی ہے۔ یعنی

راہ یابی و راہنمائی کے اصول و ضوابط کے اعتبار سے بھی جامع و کامل ہے۔ اور دقت کے مجدد نئے انہیں اصول و ضوابط کے تحت دینی تعلیم و تبلیغ کی جامع تجدید و اصلاح فرمائی ہے جس کی پوری تفصیل کے لئے اُن حضرات کو خصوصاً جو خدمتِ تعلیم و تبلیغ کی کوئی صلاحیت و ہمت رکھتے ہیں خود حضرت کی کتابوں کی طرف رجوع کرنا اور اُن کو بار بار مسلسل مطالعہ میں رکھنا ان اصول کے فہم و عمل میں رسوخ پیدا کر دے گا۔ اور ایک بڑی حد تک ان کی نوعیت و اہمیت اور جامعیت کا اندازہ اوراقِ بالا سے بھی ہو گیا ہو گا بلکہ انفرادی حد تک بقدر ضرورت فہم و عمل کے لئے انشاء اللہ یہی اوراق کافی و شافی ہوں گے لیکن ثمرات خالی باغبانی کے قواعد و ضوابط پر کسی بہتر سے بہتر کتاب پڑھ لینے سے

حاصل نہیں ہو سکتے وہ تو ان قواعد کے موافق عمل اور باغ لگانے ہی سے حاصل ہونگے اس عمل میں مزید سہولت کی خاطر حضرت ہی کی مقصد بالا تعلیمی و تبلیغی اصلاحات و تجدیدات کے پیش نظر انفرادی و اجتماعی صلاح و اصلاح کا ایک عملی خاکہ بھی پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

دینی تعلیم کا مدعا | جب یہ معلوم ہو گیا کہ کائنات نہ کوئی خود رو جنگل ہے اور نہ انسان اس جنگل کا محض بڑھیا جانور بلکہ انسان و کائنات دونوں کی تخلیق کسی خاص علم و ارادہ کے تحت عمل میں آئی ہے تو پھر لازماً اس تخلیق کا کوئی خاص معلوم و مراد مقصد بھی ضرور ہے۔ دینی تعلیم اسی مراد و مقصد کے احکام کی تعلیم و تکمیل کا نام ہے۔ اور حضرت کا اصل تجدیدی زور دین کے تمام شعبوں کے احکام یا اوامر و نواہی کے سکھانے اور پھیلانے ہی پر ہے کہ انہیں کا علم و عمل مقصود بالذات ہے۔ باقی رائج و عرفی دینی مدارس و ادارات کتابی تالیفات و تصنیفات وغیرہ کی حیثیت مقاصد کی نہیں بلکہ مقدمات کی ہے۔ ورنہ نفس احکام دین کے جاننے اور پورا کرنے کے لئے عربی یا عربی کے ذریعہ کسی مقرر و مروج نصاب درسیات کی ساہا سال میں تکمیل کیا معنی عربی اُردو کسی زبان کا ابجد خواں ہونا یا سرے سے خواندہ ہونا تک ضروری نہیں۔ لیکن لوگوں نے دینی تعلیم کے تصور میں نفس کتابی تعلیم ہی کو نہیں بلکہ اور خدا جانے کتنی غیر ضروری چیزوں کو ضروری اور بہت سی موخر چیزوں کو مقدم قرار دے رکھا ہے۔ کہیں منطقی و معقولات پر زور دیا ہے، کہیں اسرار و کلامیات پر اور کہیں ادب و الشائق و تحریر پر۔ ان غیر ضروری یا موخر چیزوں کو مقدم بنا دینے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نفس احکام کی حد تک ان درسگاہوں کے نام کے علما دیانات تک کے پورے پورے اوامر و نواہی سے آگاہ نہیں ہوتے۔ آگے معاملات اور اس سے بڑھ کر اخلاق و معاشرت کا ذکر ہی کیا! اس لئے حضرت علیہ الرحمہ کی تجدیدات کا ایک بڑا کلیدی اصول مقصود و غیر مقصود کا فرق و امتیاز ہے جس کے بغیر اکثر لوگ غیر مقصود کے پیچھے مقصود کو کھوٹے رہتے ہیں۔

شرکی و پا | مغربی و فرنگی دجل کی راہ سے جو مفساد و باکی طرح ساری دنیا میں پھوٹ پڑے ہیں ان ہی میں سے ایک بڑی وبا صالح ہونے کے

بغیر مصلح و رفارمر، یا اپنی اصلاح سے بے فکر رہ کر ساری قوم سارے ملک بلکہ ساری دنیا کی اصلاح کا جھنڈا لے کر کھڑے ہونا ہے۔ ہر کس و ناکس اہل و نا اہل جو ذرا زبان و قلم چلا سکتا یا کوئی اخبار و رسالہ نکال سکتا، یا جماعت سازی و انجمن بازی کا کچھ ڈھنگ رکھتا ہے، بس وہ بے تکلف لیڈر اور رہبر بن جا سکتا ہے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ وکالت یا پلیڈری کی سند حاصل کر لینا تو گویا لیڈری کی مسلمہ سند ہے۔ حدیہ کہ ایسی لیڈری مستقل معاشی پیشہ بن گئی ہے۔ اگر کوئی اور دھندھا نہ چل رہا ہو یا "پلیڈری" سے پیٹ نہ بھر رہا ہو تو بقول بڑے عارف زمانہ شاعر حضرت اکبر کے "خیر بالفعل لیڈری ہی سہی۔"

اس مغربی و خریگی طریق اصلاح کے برخلاف انبیائی طریق یہ ہے کہ حضرت انبیا علیہم السلام اپنی دعوت و ہدایت کا خود مکمل اسوہ و نمونہ بن کر سامنے آتے ہیں۔ یہی اسوہ و نمونہ طبعاً و فطرۃً دوسروں کو حسب استعداد ان کے رنگ میں رنگتا ہے۔ تقریر و خطابت برائے نام اور بالکل بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت نبی الانبیا علیہ السلام و التحیہ جو ساری دنیا کی اصلاح و ہدایت ہی کے لئے بھیجے گئے تھے ان تک کو باوجود مسلمہ عصمت کے احکام یا اوامر و نواہی کی بہت سی آیات میں صیغہ واحد سے خطاب فرمانے کا ایک راز یہ بھی ہے کہ خود حضور کے اسوہ و نمونہ ہونے اور ویسا بننے کی طرف لوگوں کو توجہ ہو۔ اس انبیائی راہ کے حضرات رجسٹروں اور ممبروں کی جائز و ناجائز خانہ پری اور بھرتی سے مصنوعی جماعت سازی یا انجمن سازی کے تریب بھی نہیں جانتے۔ بس اسوہ و نمونہ کے اثر و اتباع کی فطری و طبعی راہ سے جو لوگ ان کے رنگ میں رنگتے جاتے ہیں وہ از خود قدرتی و حقیقی جماعت کے شیرازہ میں پیوست ہو جاتے ہیں اور جس نظام کے اعضا یا جس مشین کے پرزے اپنی اپنی جگہ کار گر ہوں وہ نظام یا مشین صرف دستہ پھرانے سے اپنا کام آپ سے آپ پورا کرے گی۔ اگر کسی غذا و شہر میں آگ لگی ہو اور لوگ خود اپنے گھر اور محلہ کو چھوڑ کر دور دور کے گھروں اور محلوں کی آگ بجھانے دوڑ رہے ہوں تو بجز اس کے ہو ہی کیا سکتا ہے کہ پورا شہر آگ کے شعلوں میں لپٹ کر خاک ہو جائے۔

اصلاح کا خاص تجدیدی پہلو | غرض اس طرح اصلاح کے معاملہ میں حضرت کا خاص تجدیدی پہلو یہ

ہے کہ دوسروں سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر یا جماعت سازی سے مقدم افراد سازی ہے

بس یہی افراد سازی زندگی بھر حضرت کا خاص طریقہ و مشغلہ رہا۔ غیروں کی ہدایت و قیادت کی نیت تک بتدیوں کو یا خامی کی حالت میں جائز نہ رکھتے۔ قیادت و امامت دراصل انبیائی منصب کی نیابت ہے اور اس لئے قدرۃ نبوت و رسالت ہی طرح فی الجملہ اصطفاۃی ہے کہ تم خود اپنی اصلاح و تکمیل میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ کو منظور ہو گا تو ایسے اسباب از خود پیدا فرمادیں گے کہ دوسروں کی اصلاح کی خدمت بھی حسب حیثیت نصیب ہو جائے یا جب کوئی طبیب حافظ تم کو نسخہ نویسی کی اجازت دیدے تب دوسروں کے معالجہ کا مطب کھولو خود اپنی فلاح و صلاح کی فکر کے بعد

توابع کی اصلاحی ذمہ داری

بلکہ اس کے ساتھ غنمی و فطری ذمہ داری

اہل و عیال یا اپنے ہی توابع کی اصلاح و خیر خواہی کی ہے۔ جو کسی نہ کسی درجہ میں کم و بیش ہر فرد بشر پر عائد ہوتی ہے۔ اسی لئے دونوں کو ایک ساتھ مامور فرمایا کہ "خود اپنے کو اور اپنے گھروالوں کو آگ سے بچاؤ" (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا) ساری بنی نوع انسان اور کافۃ للناس کے بشیر و نذیر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو بھی حکم تھا کہ "اپنے گھروالوں کو نماز کا حکم دو" (وامرأهک بالصلوٰۃ) اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو دراؤ (وانذر عشیرتک الا قریبین)

لہذا اپنے ساتھ ساتھ جن دوسروں کی صلاح و فلاح کی نگرانی عقلاً و نقلاً ہر طرح ہم پر عائد ہوتی ہے وہ اپنے ایسے متعلقین یا ایسے توابع ہی ہیں جو کسی نہ کسی طرح ہمارے تابع و ماتحت یا زیر نگرانی ہیں اور جن پر کسی نہ کسی درجہ میں ہم کو اثر و اقتدار حاصل ہے۔ اسی بنا پر ان کے بارے میں ہم سے مواخذہ و باز پرس بھی بالکل حق بجانب ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ "تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی کارا عی یا ننگراں ہوتا ہے اور اس سے اپنی رعایا یا زیر نگرانوں کے بارے میں باز پرس ہوگی" ظاہر ہے کہ جو کسی طرح کسی کے زیر اثر ہے وہ لازماً اس کے اثر کے موافق اس کی بات کو زیادہ ماننے اور قبول کرنے پر بھی مائل و مجبور ہوگا۔ اور قدرۃ اس کی زیادہ سہولت کے ساتھ زیادہ اصلاح کی ترقی کی جا سکتی ہے۔ نیز خود اپنی ذات کے بعد جن کی صلاح و اصلاح سب سے زیادہ

لہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ

اپنے اختیار و قدرت میں ہوتی ہے وہ یہی اپنے زیر اقتدار توابع ہو سکتے ہیں اور تکلیف چونکہ امور اختیار یہی کی بقدر اختیار و وسعت ہے لہذا اپنے ساتھ بالذات و براہ راست اپنے توابع کی اصلاح کے بھی ہم مکلف و مسئول ٹھہرائے گئے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یا وجوب بھی بدرجہ اولیٰ اور خصوصاً بالید یعنی حسب اثر و اقتدار اور حسب موقعہ و محل استعمال قوت کے ساتھ یہ بھی توابع یا خاص اپنے زیر نگرانی و رعیت ہی کے لئے ہے، دوسروں کے لئے باللسان یا زبان سے مامور ہے، وہ بھی بعض صورتوں میں صرف مستحب اور بعض میں سرے سے ممنوع۔ باقی ایمان کی آخری سرحد بالقلب ہے یعنی جہاں ہاتھ اور زبان سے کام نہ لیا جاسکتا ہو وہاں کم از کم دل سے بُرائی کو بُرا جاننا اور تباہ امکان اس سے دور و نفور رہنا ایمان کا کم سے کم یا آخری درجہ ہے۔

یہ کہ مجدد وقت کے تجدید فرمودہ کتاب و سنت کے اسلامی نظام ہدایت کے موافق ہر فرد مسلم کا پہلا اصلاحی فریضہ یہ ہے کہ خود اپنی اور اپنے توابع کی اختیاری و وجوبی اصلاح کے کام کو لے بیٹھے۔ جب افراد کی اس آسان و اختیاری طریق سے اصلاح ہو گئی تو ایسے صالح افراد کو جس جماعتی کام میں لگایا جائے گا وہ بھی آپ سے آپ صلاح و صحت کے ساتھ انجام پائے گا۔ اس آسان و اختیاری طریق کو چھوڑ کر مشکل و غیر اختیاری کے پیچھے پڑنا گاڑی کو گھوڑے کے آگے جوتنا ہے۔

اب جو افراد اتنے سعادت مند ہوں کہ ان سطور اور ان کی ضروری تفصیل اور کتاب میں پڑھنے ہی سے چونک کر خود اپنی اور اپنے توابع کی اصلاح کے لئے کمر کس لیں اور کم از کم اُردو اچھی طرح جانتے ہوں ان کے لئے سیدھا راستہ یہ ہے کہ پہلے حضرت کے کچھ ملفوظات و مواعظ پڑھنا اور گھر والوں کو پڑھانا یا سنانا شروع کر دیں، انشاء اللہ اس سے سب کو اپنی اپنی اصلاح و آخرت کا خیال پیدا ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے حضرت کی چیزوں کو کھلے دل و دماغ سے دو چار سو صفحے بھی پڑھ لیا یا راقم ہذا کا بلا استثنا تجربہ ہے، کہ ان کو اپنی اصلاح کا کچھ نہ کچھ خیال ضرور پیدا ہو گیا۔ پھر اگر قصداً چھوڑ نہیں دیا تو راستہ پر پڑ گئے۔

اس کے بعد روزمرہ کی ضروریات کے بقدر احکام دین کے جاننے کے لئے حضرت

نے اردو ہی کی چند کتابوں کا ایک مختصر سائنصاب مقرر فرما دیا ہے۔ جس پر پورا وقت دینے والا ایک چلہ میں ورنہ پھر جو جتنا وقت دے سکے اس کے اعتبار سے دو چار مہینوں میں پورا کر لے سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایسے عام لوگوں کو حضرت کی خاص ہدایت یہ ہے کہ وہ اس نصاب کو کسی عالم سے سبقاً سبقاً پڑھیں، ورنہ پھر جہاں جہاں شبہات واقع ہوں نشان لگائیں اور کسی عالم سے ان کو حل کر لیں۔ دوسرے کسی اچھے دیندار عالم سے وقتہ فرقہ ملاقات یا کم از کم مکاتب کا تعلق ضرور رکھیں، اور حسب ضرورت نامعلوم مسائل و احکام کو وقت ضرورت ان سے مل کر یا کچھ کر معلوم کر کے عمل کرتے رہیں۔

چونکہ حضرت کی کتابوں خصوصاً مواعظ و ملفوظات سے لوگوں میں بالعموم اپنی بد حالی کا احساس اور اصلاح حال کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، اس لئے ابتدائی طلب دین و اصلاح کا خیال پیدا کرنے کے لئے اس کتابی عہد میں حضرت کی کتابوں کو مختلف موثر و مقبول اسالیب و عنوانات سے ہزار ہا ہزار کی تعداد میں شائع کرنا کہ لاکھوں ہاتھوں تک پہنچیں اور کروڑوں میں پڑھی پڑھائی سنی سنائی جائیں بجائے خود انشاء اللہ ایک عام دینی بیداری اور عمومی انقلاب و اصلاح کا ذریعہ ہو گا۔

۱۔ بہشتی زیور۔ تعلیم الدین۔ اصلاح الرسوم۔ حیات المسکین۔ حقوق الاسلام۔ آداب المعاشرت۔ تبلیغ
دین۔ فروع الایمان۔ جزاء الاعمال۔ صفائی معاملات وغیرہ

متعدی اصلاح و تبلیغ

دینی زندگی کے دو کلیدی اصول | باقی جو حضرات کچھ اس کی
صلاحیت و ہمت رکھتے

ہیں کہ خود اپنی اور اپنے اہل و عیال یا توالیح کی اصلاح کے علاوہ عام مسلمانوں یا غیر
مسلموں کی بھی اصلاحی یا تبلیغی خدمت کی کوئی سعادت حاصل کر سکیں۔ ان کو لازم و متعدی
انفرادی و اجتماعی ہر طرح اور ہر موقع کی دینی زندگی کے دو کلیدی اصول حضرت مجدد
کی تعلیم و تجدید کے پیش نظر رکھنا ضروری ہیں۔ ایک مقصود و غیر مقصود کا امتیاز دوسرے
اختیاری و غیر اختیاری کا فرق۔

۱۔ مومن کا اصل مقصود کامیاب لقائے رب اور (۲) اس کامیابی کا ذریعہ رضائے
رب ہے۔ اس دنیا کی زندگی اسی رضا طلبی کے امتحان کے لیے عطا فرمائی گئی ہے۔ اس
امتحان کا دروازہ فرد و جماعت، غنی و فقیر، عالم و غامی، متمدن و غیر متمدن، حاکم و محکوم سب
کے لئے اپنے محل و مقام کے لحاظ سے یکساں کھلا ہوا ہے لہذا مقصود بالذات نہ انفرادی
و اجتماعی یا شخصی و قومی غنا و ثروت ہے نہ علم و تمدن، نہ حکومت و سلطنت۔ جیسا کہ
آج کل ان ہی چیزوں کو افراد و اقوام سب نے مقصود ہی نہیں مجبور بنا رکھا ہے۔ البتہ
ان چیزوں کی حیثیت کچھ ضمنی و ذیلی مقاصد یا مویدات کی ہے، وہ بھی اس شرط سے کہ ان
سے کام رضائے حق ہی کالیا جائے، اور احکام حق ہی کے ان کو ماتحت رکھا جائے۔ ورنہ
پھر دولت و حکومت تو فرعون و قارون کے پاس بھی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ان خارجی مویدات
کی کمی یا فقدان کی صورت میں امتحان میں کامیابی کا درجہ بلند سے بلند تر ہو جاتا ہے۔

۳۔ رائج الوقت سنی میں معاذ اللہ حضرات صحابہ تک سے زیادہ کون بے علم و غیر متمدن ہو گا لیکن دوسری طرف رضائے
رب کے امتحان میں ان سے بڑھ کر تاریخ کی آنکھوں نے کامیاب انسان کب دیکھے ہیں!

”السابقون الاولون“ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ مکی دور کی بیکی و مظلومیت میں رضا جوئی کے امتحان کا موقع و مقام مدنی دور یا خلافت راشدہ کے غلبہ و قوت کے ایام امتحان سے فروتر تھا۔

مطلب یہ کہ لازم و انفرادی اصلاح کی طرح مستدی و اجتماعی اصلاح میں بھی اصل مقصد و پیش ہنار رضا طلبی ہو نہ کہ غیروں کی دیکھا دیکھی جاہی و مالی یا سیاسی و معاشی غلبہ و ترقی ہی کو مقصد و بالذات بنالیا اور اس کے بغیر فرد و قوم سب کو پس ماندہ یا تنزل کا مارا خیال کر لینا۔ مقصود و غیر مقصود کے اس فرق و امتیاز کی انتہا یہ ہے کہ جو دینی خدمات مقصود ہیں ان میں بھی مقصود و بالذات کامیابی نہیں بلکہ کامیابی کی اپنی والی صرف سعی وہ بھی رضائے حق کے لئے۔ اس کے بعد بھی ظاہری ناکامی ہو تو وہ عین کامیابی ہے۔

اگر ایسا نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسان کو اپنے اصل انسانی مقصود و مدعا کی تکمیل و تحقیق کے لئے ایسی چیزوں کی تکلیف میں ڈالا گیا ہے جو ہر وقت ہر انسان کے اختیار میں نہیں۔ وہ دین عام و عالمگیر کیسے ہو سکتا ہے جو انسان اور انسانیت کی تکمیل و ترقی کے موقع ہر فرد انسان کو ہر صورت اور ہر حالت میں یکساں نہ عطا کرتا ہو یا اس تکمیل و ترقی کو ایسی شرائط و قیود کے تابع قرار دیتا ہو جن کا حصول ہر ہر فرد کے انفرادی اختیار ہی میں نہیں بلکہ سہولت سے اختیار میں نہ ہو اسلام کا تو بنیادی و قرآنی منہمک و اولین اصول یہی ہے کہ وہ کسی فرد پر بھی اس کی انفرادی وسعت و طاقت سے زیادہ قطعاً کوئی بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور ہر فرد کے لئے اس کی انفرادی قوت و وسعت کے اندر ہی اس کی اعلیٰ سے اعلیٰ تکمیل و ترقی کی ضمانت دیتا ہے

اس عہد کا ایک اور عام عارضہ یہ بھی ہے کہ لوگ

قومی و اجتماعی خدمات میں نہ خود اپنی اختیاری

ایک اور عام عارضہ

اہلیت و صلاحیت کا لحاظ رکھتے ہیں نہ دوسرے کی۔ اگر کوئی شخص مثلاً جاہ و مال کا مالک ہے تو وہ اور دوسرے سب سمجھتے ہیں کہ وہ دین و دنیا کے ہر معاملہ میں رائے و مداخلت کا بھی مجاز ہے۔ اگر کوئی رائج الوقت سیاسی تجربہ و بصیرت رکھتا ہے تو وہ دینی مسائل و احکام میں بھی رائے زنی و اجتہاد کا حقدار بنتا اور بنالیا جاتا ہے اگر کوئی صرف تقریری و تحریری لیاقت و شہرت رکھتا ہے تو لوگ اعلیٰ و انتظامی کاموں کا بھی اس کو لائق سمجھنے لگتے ہیں اور وہ بے تکلف ان کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے۔

پھر وقت و فرصت، لیاقت و صلاحیت کے لحاظ کے بغیر کئی کئی قومی و اصلاحی کاموں کی ذمہ داری قبول کر لینا تو گویا سیاسیات و قومیات کا خاص فیشن ہے۔ ایک کے صدر دوسرے کے نائب صدر کسی کے معتمد کسی کے رکن۔ بلکہ رکن یا ممبر تو دس بیس اداروں کا بن جانا بھی کوئی بات نہیں۔ لیکن ایسے ارکان کی احساس ذمہ داری و فرض شناسی کا حال روزانہ کیا دیکھا جاتا ہے کہ جن تجاویز و معاملات پر رائے دینے مجلس میں تشریف لاتے ہیں شاید ہی کوئی ہوتا ہو جو رائے زنی اور رائے دہی کے وقت سے پہلے دو چار گھنٹے بھی سکون و اطمینان کے ساتھ ان تجاویز کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر اور غور و فکر کر کے مجلس میں آتا ہو۔ اور بارہا تو اس مجلس اور اس کے معاملات سے ان ارکان کی دلچسپی کا یہ حال دیکھا جاتا ہے کہ حاضری کا نصاب رکورم تک پورا نہیں ہوتا۔ کسی معاملہ میں خطوط لکھے جاتے ہیں یا درہانی پر یا درہانی ہوتی ہے، مگر رسید تک نہ اردا اور بفرض شاذ و نادر کوئی شخص ایک سے زائد خدمات کی لیاقت و اہلیت رکھتا بھی ہو اور سب کی طرف بقدر گنجائش و فرصت ذمہ داری کے ساتھ توجہ بھی کرنا چاہتا ہو تو بھی وقت و فرصت میں اتنی وسعت کتنوں کے ہو سکتی ہے کہ اس منقسم توجہ کے ساتھ سب کی طرف پوری توجہ کا حق ادا ہو سکے۔ خصوصاً جو لوگ اپنے ذاتی و انفرادی اور اپنے اہل و عیال و توالیہ کی صلاح و اصلاح اور اپنے دیگر خانگی مشاغل کے مقدم فرائض و واجبات کا بھی حق ادا کرتے ہوں، وہ تو اگر کوئی چھوٹے سے چھوٹے کام بھی حقوق شناسی کے ساتھ انجام دے سکیں تو بڑا پالا مارا۔

بات وہی ہے کہ رضائے حق کا ذکر ہی کیا مقصود **مقصود کام نہیں نام** اصل میں کام بھی نہیں زیادہ تر نام ہے۔ مال سے بھی زیادہ انسان نام و جاہ کا بھوکا ہے، اس لئے اگر اس کے اندر سے آخرت طلبی اور رضا جوئی کی روح نکل گئی تو کیا وجہ ہے کہ نام کے مواقع نظر انداز کر کے کام میں وقت برباد کرے!

کام کے بجائے نام کی اس فکر و طلب کی بدولت ہر چھوٹے بڑے اصلاحی و اجتماعی کام میں ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہے کہ وقت و قوت کو "کیف" سے زیادہ "کم" کے حصول میں یا عمق اور گہرائی سے زیادہ کام کے طول و عرض اور پھیلاؤ پر صرف کیا جاتا ہے۔

اجتماعی و متعدی خدمات میں یہ زہر دانستہ و نادانستہ اتنا سرایت کر گیا ہے کہ بعض خالص دینی جماعتیں اور ان کے مخلص ترین کارکن تک اس کے تغذیہ سے محفوظ نہیں۔ ایک طرف تو ایک گھر ایک محلہ یا ایک بستی کا اصلاحی کام پورا نہیں ہوتا اور دوسری طرف سارے ملک کے طول و عرض میں دوڑا دوڑا پر زور ہوتا ہے۔ ابھی ان سطروں کے لکھنے سے پہلے ایک بڑے ہی صادق و مخلص صاحب علم و قلم جوان صالح کا واقعی بڑی حسرت و عبرت کا مضمون اتفاقاً نظر پڑا جس میں انہوں نے ہمارے حال و حاضر کا ہمارے ماضی و آغاز (حضرات صحابہ) سے اس طرح مقابلہ فرمایا ہے کہ

۱۔ صحابہ گنتی کے تھے اور تمام
۱۔ ہم لا تعداد ہیں اور زمین پر
دنیا پر بھاری تھے
بھاری ہو رہے ہیں۔

۲۔ صحابہ بادشاہوں پر سلطنت
۲۔ ہمیں غلامی اور غلاموں کی غلامی
کرتے تھے۔
بھی ہزار وقت نصیب ہوتی ہے۔

۳۔ صحابہ کچھ نہ تھے اور سب کچھ ہو گئے
۳۔ ہم سب کچھ تھے اور کچھ نہ رہ گئے
۴۔ صحابہ کی دنیا میں بھی عزت و
۴۔ ہماری زندگی سخت ذلت و
آرام سے بسر ہوتی تھی اور آخرت
پریشانی سے گذرتی ہے اور آخرت
اس سے بہت بہتر
کی بھی بظاہر اُمید اچھی نہیں۔

گم و کیف کا فراق

ظاہر ہے کہ اس حسرتناک و عبرتناک فرقہ بالبدلتین کی وجہ اس کے سوا کیا ہے کہ وہاں کیف و عین یا دین و ایمان کی گہرائی پر زور زیادہ تھا اور کم یا تعداد یعنی طول و عرض اور پھیلاؤ پر توجہ کم تھی خود صاحب مضمون ہی نے بخاری شریف سے نقل فرمایا ہے کہ

”مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تین مرتبہ مسلمانوں کو شمار کیا گیا پہلی مردم شماری میں مسلمانوں کی تعداد ۵۰۰ دوسری میں ۶۰۰ اور ۷۰۰ کے درمیان اور تیسری میں مسلمان ڈیڑھ ہزار تھے۔ اس تعداد پر مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اب ہمیں کیا ڈر ہے! ہم نے تو وہ زمانہ دیکھا ہے جب ہم اکیلے نماز پڑھتے تھے اور پھر بھی ہر طرف سے دشمنوں کا خوف لگا رہتا تھا۔“

فرق یہی ہے کہ ان کے اندر ایمان کی کیفیت و کمال اتنا ریح گیا تھا کہ ہر طرف سے دشمنوں کے خوف کے باوجود اپنے انفرادی فرائض نماز وغیرہ کو اکیلے چھپ کر بھی کسی نہ کسی طرح اختیار بھرا دیا ضرور فرماتے تھے، اور ہم میں کتنے ہیں جو کھلے خزانے بے خوف و خطر نماز اور دیگر فرائض دین کی قدرت رکھ کر بھی ان کو ادا کرتے ہیں! ایسے لاتعداد افراد کی قوم کی حالت ظاہری و زبانی شان و شوکت و شور و غل کے باوجود صاحب مضمون ہی کے الفاظ میں اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے "وجہ چہرے" شائد بار و قار صورتیں بارعب جسم دشمن و دوست سب کی نظریں سب سے زیادہ حقیر و بے وقار ہیں۔

وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسْتَدَّةٌ يُحْسِبُونَ كُلَّ صَنِيعَةٍ عَكِيفَةً لَّهُمْ۔

اور جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم بھلے معلوم ہوں گے، اور یہ جب کچھ کہنے لگیں تو تم کان لگا کر سننے لگو گے یعنی باتیں خوب بناتے تقریریں خوب کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، گویا ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔

کہ خود اپنے بل بوتے پر نہیں کھڑی ہیں، جہاں سہارا ہٹا اور گریں۔ اس اندرونی ضعف کی بدولت بزدلی کا یہ حال یہ ہے کہ، ہر آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں)

"بظاہر تم ان کو ایک جماعت یا قوم سمجھتے ہو، لیکن ان کے دل آپس میں بچھے ہوئے ہیں۔ تحسبون جميعا و قلوبهم شتى"

اتفاق کا گڑ | حضرت علیہ الرحمہ نے حسن معاشرت کی اہمیت کے سلسلہ میں کہیں تحریر فرمایا ہے کہ آج کل اتفاق اتفاق کا شور ہے لیکن جب تک آپس کا برتاؤ یا معاشرت درست نہ ہو کہ ایک کا دوسرے سے دل نہ دکھے اُس وقت تک دل کیسے مل سکتے ہیں اور اتفاق کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔

حضرت کی تجدیدِ دین کا حاصل | حضرت کی تجدیدِ دین کا حاصل یہی ہے کہ قلب و

قالب ظاہر و باطن، عقائد و عبادات، معاملات معاشرت سب کی کیفاً و تاماً اصلاح ہو اور مسلمان زندگی کی ہر راہ اور ہر اتار چڑھاؤ میں اول و آخر مسلمان یعنی ادھر سے

منہیں پورے پورے مسلمان بنیں اور بنائیں۔ یہی راز تھا کہ قلت تعداد کے باوصف
 ”صحابہ کچھ نہ تھے سب کچھ ہو گئے۔ اور ہم سب کچھ تھے کچھ نہ رہے۔“ وہ بھی بھرتے
 تو بھر دہر پر چھائے ہوئے تھے، اور ہم موردِ ملخ کی طرح ہیں تو کہیں نہیں۔

اب آخر میں لیکن اول در
 سب سے زیادہ یاد رکھنے کی بات

اصلاحی خدمات کی اہلیت و ہمت رکھنے والے حضرات کو ہمہ وقت اور سب سے
 زیادہ یاد رکھنے کی ہے، وہ یہ کہ ان خدمات کے بدلے میں کسی مالی و جاہی جانی و جسمانی
 اجر کے ذرہ بھر کسی سے طالب نہ ہوں۔ یہ کام نبوت و رسالت کی نیابت ہے اور
 حضرات انبیاء علیہم السلام سے ایک جگہ نہیں جا بجا اور بار بار اس کا اقرار و اعلان
 لیا اور کرایا گیا ہے کہ اس دعوت و اصلاح کی خدمت کا کوئی اجر میں تم سے قطعاً نہیں
 چاہتا میرا اجر صرف اللہ پر ہے۔

اسی بنا پر حضرت علیہ الرحمہ نے واعظین و مبلغین یا دینی مدارس کے اساتذہ و
 مدرسین سے چذہ و غیرہ کی خدمت لینے کو سختی سے منع فرمایا۔ دعوت و ہدیہ تک قبول کرنے
 کی اجازت عام طور سے نہیں دی ہے۔

جو اہل مال کوئی بڑی سے بڑی مالی خدمت کی سعادت بھی اس راہ اور اس کے
 خادموں کی حاصل کریں، وہ ان خادموں کو اپنا ”مخدوم“ ہی جانیں اور ان کی طرف سے
 کسی طرح کی تعظیم و تکریم تک کے اجر کے متوقع نہ ہوں۔ بلکہ خود احسان مند ہوں کہ مال
 جیسی حقیر چیز قبول کر کے ان کی طرف سے وہ دین جیسی عظیم خدمت کو انجام دے رہے
 ہیں۔ ساتھ ہی ان دینی خادموں کو بھی چاہیے کہ دین کے ان مالی خادموں کو دین کی
 خدمت کا شریک و سہم اور اپنا معین و محسن جان کر ان کی عزت و توقیر کریں اور ان کے
 مشورہ سے کام کریں۔ اسی طرح دینی خدمات کے انتظامی عہدہ داروں یا خدمت گزاروں
 کو چاہیے کہ وہ اپنے کو ان دینی خادموں کا خدمت گار ہی تصور کریں اور یہ ان کو اپنا مددگار۔

۱۔ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ يَا قَوْمِ
 لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا إِلَّا جَرَى الْآدَعْلَى اللَّهُ۔

افسری و ماتحتی کی مروج تعظیم و تحقیر کا معاملہ ہرگز نہ ہو۔ بھائیوں بھائیوں کے باہمی اشتراک و تعاون کی صورت ہو۔ بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت اور چھوٹے بڑوں کے ساتھ ادب و عظمت کا برتاؤ رکھیں۔ یہی تعلق اساتذہ و طلباء، معلمین و متعلمین، آئمہ و موزنین عوام و مبغنین سب میں ہو کہ کوئی کسی کی زبان و عمل سے تحقیر یا بیجا دل آزاری کے درپے نہ ہو۔ اگر بھول چوک سے ایسا ہو جائے تو جلد از جلد صفائی و عذر خواہی سے تلافی و تدارک کرے۔

مطالبہ نبوت و رسالت کی نیابت ہی کا یہ ہے کہ تعلیم و تربیت

ایک اور لحاظاً تبلیغ و دعوت اصلاح و احیاء کی خدمات میں جو حضرات بھی بواسطہ یا بلا واسطہ کوئی ضابطہ و ذمہ داری کا عہدہ یا خدمت قبول کریں وہ صورت و سیرت وضع و قطع اعمال و اخلاق خصوصاً تمام مرئی و محسوس چیزوں میں اپنے ادارہ و عوام سب کے لئے خود اتباع احکام کا اسوہ یا قابل تقلید نمونہ ہوں۔ دینی اداروں مدارس و مکاتب کے بظاہر ادنیٰ سے ادنیٰ ملازمین و متعلقین کے باب میں اس کا پورا لحاظ رہے کہ وہ فرائض و واجبات کی پابندی اور وضو و لباس میں خاصے دیندار معلوم ہوں۔ ان کی ایک حیثیت رعایا یا زیر نگرانی تواریخ کی بھی ہے اس لئے یوں بھی ان کے دین کی نگرانی لازم ہے۔

اصول بالا کی مزید تفصیل تو اوپر اصل کتاب میں ملیگی یہاں ان کا اجمالی ذکر خاص کر اس لئے کیا گیا کہ ان کی روشنی میں عام و تمام دینی انقلاب کا ذیل میں ایک نظام عمل پیش کرنا ہے عام کے یہ معنی نہیں کہ ایک ساتھ کل دنیا، کل ہندوستان یا کل پاکستان میں کام شروع کر دیا جائے۔ دین کی اصلاحی خدمات یا نبوت کی نیابت کا حق ادا کرنے کے لئے ایمان و اخلاص، صلاح و تقویٰ، علم و عمل، ایثار و قناعت حوصلہ و ہمت، فہم و فراست کے جیسے جامع صفات رجال کی ضرورت ہے۔ ان کی جیسی ہمیشہ کمی رہی اور ہمیشہ سے بڑھ کر آج جیسا قحط ہے اس کے لحاظ سے ان صفات کے حاملین ہی نہیں اوسط درجہ کے حاملین بھی اگر کسی ایک بستی و شہر میں کیا سارے ملک میں رٹس پانچ بھی مل جائیں تو ان کو جمع کر کے مذکورہ بالا اصول کے مطابق کسی گوشہ سے اس نظام کا آغاز کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اس معنی میں بھی عام ہو جائے گا، کہ سارے ملک یا ساری دنیا میں مقبول و رائج ہو جائے و ہو علیٰ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْر۔

اجزائے نظام کا خاکہ

ایک درس گاہ | کا قیام جس میں دین کی عربی کے ذریعہ ابتدائی اوسط اور اعلیٰ درجہ تک تعلیم کا تربیت کے ساتھ اس طرح اہتمام ہو کہ دینی تربیت یا افراد سازی پر تعلیم سے کم نہیں زیادہ زور توجہ ہو کہ یہی افراد آگے چل کر صحت و قوت کے ساتھ اس نظام کی توسیع و تعمیم کا ذریعہ ہوں گے۔ اس درس گاہ میں ایسے خاندانی و خوشحال ذہین بچوں کے لینے کا خاص خیال رکھا جائے جن کے والدین یا سرپرست اپنی اولاد کی خیر خواہی صرف دنیا ہی تک نہیں محدود جانتے بلکہ آخرت کی خیر خواہی کو مقدم رکھتے ہیں۔ ایسے والدین کم ہیں لیکن ہیں اور جو نہیں ہیں ان کو بتلایا جائے کہ تمہاری کسی نادانی کی خیر خواہی بلکہ کھلی بدخواہی ہے کہ چند روزہ زندگی وہ بھی ایسی کہ یقیناً ایک روز کا بھی نہیں اس کی راحت و عزت کے لئے تو مال و دولت و قوت و قوت کا سارا سرمایہ لگا دیتے ہو، لیکن آخرت کی ابدی و یقینی زندگی کی کامیابی و کامرانی سے یہ غفلت کہ گویا نہ تم کو کبھی مرنا ہے نہ اولاد کو۔ اگر اتنا بھی یقین نہیں تو پھر مسلمان کس منہ سے اپنے کو کہتے ہو!

ایسے طلباء پلید فراغ دینی خدمات کے لئے زیادہ موزوں ہوں گے کہ دنیا کی حاجات سے بقدر حاجت الحمد للہ گھری سے فارغ ہوں گے اور خاندانی اثرات کی بدولت بلند حوصلگی سیرجستگی وغیرہ بہت سے اچھے صفات کے موروثی طور پر حامل ہوں گے۔ غریب شرفا اور عام مسلمانوں کے بچوں میں بھی نظر انتخاب سے ایسوں ہی کو چنا جائے جو قبول تربیت کی استعداد رکھتے ہوں اور تجربہ کے بعد جس طالب علم کی مقتد بہ تربیت پذیری کی استعداد سے مایوسی ہو تو اس کے زہریلے اثر سے دوسروں کو بچایا اور اس کو قطعاً علیحدہ کر دیا جائے۔ خواہ ذہنی و علمی اعتبار سے وہ کیسا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ دوسری درس گاہوں کے ایسے فارغ و نیم فارغ طلباء کو بھی لیا جائے جو دینی خدمت اور قبول تربیت کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

نصاب تعلیم | ۱) ابتدائی و بنیادی نصاب وہی حضرت علیہ الرحمہ کا

مجوزہ مختصر سہ سالہ ہوگا۔ جو اس درسگاہ کے متوسط اور اعلیٰ سب درجوں کی بنیاد اور سب کے لئے لازم ہوگا۔ حسب ضرورت کچھ ضروری جزئی ترمیمات کر لی جاسکتی ہیں۔ مدت تعلیم تین سال ناکافی ہو، تو چار سال تک بڑھالی جائے۔ اس سے زائد نہ ہو۔

(۲) متوسط درجوں میں خالص علوم دین تفسیر و حدیث اور فقہ کا حصہ زیادہ ہو۔ متن کلام مجید کامل۔ باقی انہیں سے تعلق رکھنے والے دیگر علوم کا حسب ضرورت و گنجائش الا قدم فلا قدم کے لحاظ سے جن کا جتنا حصہ شریک رکھا جاسکے۔ ایک کتاب علم کلام کی بھی ہو۔ مدت تین سال سے زائد نہ ہو۔

(۳) اعلیٰ درجہ (یا درجہ تکمیل) کی مدت تعلیم دو سال ہوگی۔ اس میں تفسیر و حدیث و فقہ میں سے کسی ایک کی تکمیل ہوگی۔

(۴) اس درجہ اعلیٰ کے دو شعبے اور ہوں گے۔ جن میں درجہ متوسط کے ایسے فارغ التحصیل لئے جائیں جو خود اپنے ایمان و عمل میں راسخ ہونے کے ساتھ تحریر یا تقریر کی کچھ خاص صلاحیت رکھتے ہوں کہ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کی یا ان کے پیدا و پیش کردہ شکوک و شبہات کے ازالہ کی خدمت کر سکیں۔

دال ف، جن کو علوم عقلیہ و حاضرہ سے کچھ ذوق و مناسبت ہو ان کو ان علوم کے ایسے مسائل و نظریات کی خصوصی تعلیم دی جائے جن کا اسلامی تعلیمات پر نفسیاً یا اثباتاً کوئی اثر پڑتا ہو۔ انگریزی زبان ان کے لئے لازم ہوگی تاکہ ایسے نئے نئے مسائل و نظریات سے واقف ہوتے رہیں۔ مدت تعلیم دو تین سال ہو (تفصیل کے لئے آخر کتاب میں ضمیمہ ملاحظہ ہو)۔

(ب) جو خود ہم وطن غیر مسلموں میں دعوت و اشاعت کا کچھ ذوق و شوق رکھتے ہوں وہ ان کی زبان میں تحریر و تقریر کا اچھا ملکہ پیدا کرنے کے علاوہ خود ان کے مذہب کی مستند معلومات بھی جس ذریعہ سے حاصل کر سکتے ہوں کریں۔ مثلاً ہندوستان میں تحریر یا تقریر کا ملکہ تو ہندی میں پیدا کریں اور مذہب ہندو کی جو کچھ معلومات اردو میں مل سکیں ان پر قیادت نہ کریں خود سنسکرت پڑھیں اور دو سال اس کے لئے ناکافی ہوں تو دو سالانہ خدمت میں ساتھ ساتھ مطالعہ کے ذریعہ استعداد بڑھاتے رہ سکتے ہیں۔

کہنی رنگ | اس درسگاہ میں خالقِ الٰہی یا کہنی رنگ کے کم از کم ایک شیخ کے قیام کی بڑی ضرورت ہے جس کی صحبت سے اساتذہ و طلباء دیگر متعلقین مدرسہ کے اندر یا باطن میں دین کا رنگ و کیفیت کھوڑا بہت پیدا ہو۔ دیگر اساتذہ جہاں تک ہو سکے شیخ یا نیم شیخ (حضرت کی اصطلاح میں محاذِ صحبت) ہوں یا کم از کم طالب کے رنگ کے ضرور ہوں جن کو اپنی ظاہری و باطنی اصلاح و علاج کا مریض کی طرح اہتمام و فکر ہو۔ مطلب یہ کہ درسگاہ کے طلباء کی تعلیم و تربیت ماحول و فضا میں اس کا زیادہ سے زیادہ لحاظ ہو کہ طلباء میں نہ "طالب علم" نہیں "طالب خدا ہونے کا بھی کچھ ذوق و شوق پیدا ہو۔ جب تک خدایا اس کی رضا کی طلب انسان کے اندر گھرنے کرے سچ یہ ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہوتا اور دین تو دین دنیا کے حق میں بھی یہ نام کا انسان صفاتِ انسانی سے ننگا ہوتا ہے۔

آج ساری دنیا میں جو انفرادی و اجتماعی فتنے اور سیاسی و معاشی شرفساد آئے دن برپا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اور سب کچھ اور جو کچھ بھی ہو مگر انسان نہیں رہا۔ اس انسان سازی میں حضرت کے ملفوظات کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا پڑھنا خصوصیت سے کارگر ہو گا۔

مساجد کی نظام | اس درسگاہ کے تعلیم و تربیت یافتہ مساجد و مکاتب کے درجہ ذیل نظام کی صورت میں خود اپنے مصلح کی حب اجازت اصلاحی و تبلیغی خدمات انجام دیں گے۔ بالفعل جہاں اور جس درسگاہ سے جتنے بھی ان خدمات کی صلاحیت رکھنے والے دستیاب ہوں ان کو کم و بیش ۶ ماہ اس درسگاہ میں رکھ کر اور ان کے علم و عمل سے اطمینان حاصل کر کے کام میں لگایا جاسکتا ہے۔

۱۔ مساجد کے امام و مؤذن اگر مذکورہ بالا ابتدائی متوسط یا اعلیٰ درجہ کے عربی دان ہوں تو کیا کہنا ورنہ کم از کم مادری زبان اچھی طرح جانتے ہوں اور اس کے ذریعہ دیانات معاملات اخلاق و معاشرت کے تمام روزمرہ کے ضروری دینی احکام سے خوب واقف ہوں اور ان کی تعلیم و تفہیم کر سکیں۔ ان میں سے کم از کم ایک حافظ بھی ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ ناظرہ دونوں کا پورا اور ایسا اچھا ہو کہ صحت بخارج کے ساتھ دوسروں کو پڑھا سکیں۔

دین کے اعتبار سے ظاہری و باطنی حالت ائمہ و موزنین کی اقلًا اوسط درجہ کی ہونا ضروری ہے۔ خالی عقائد و عبادات ہی میں نہیں معاملات و معاشرت سب میں۔ یا اگر طلب و استعداد ہو تو تعلیم کے ساتھ ۶ مہینے کی تربیت انشاء اللہ اس کے لئے بھی کافی ہوگی۔

۲۔ ہر مسجد کے ساتھ بچوں کی تعلیم کا ایک مکتب ہوگا جس میں حافظہ و ناظرہ دونوں یا کم از کم ناظرہ کی صحت بخارج کے ساتھ تعلیم کے علاوہ مادری زبان اور اس کے ذریعہ ایسے رسائل کی تعلیم جو دین کے تمام ابواب کے روزمرہ کام آنے والے احکام پر مشتمل ہوں۔ ساتھ ساتھ حساب کی بھی بقدر ضرورت تعلیم ہو۔

ان مکاتب میں بھی تربیت کا لحاظ مقدم ہوگا۔ اور یہ صرف مسجد کے حلقہ یا محلہ کے بچوں کے لئے خاص ہوں گے۔ بچوں کا سن کم سے کم چار اور زیادہ سے زیادہ دس سال کا ہو۔ اور مدت تعلیم ۵ سے ۶ سال تک۔ اور روزانہ تعلیم تین چار اور پانچ گھنٹے ہوگی۔ دو اور تین گھنٹے صبح اور ایک اور دو گھنٹے تیسرے پہر کو۔ چار پانچ سال کے کم سن بچوں کی صبح دو اور تیسرے پہر کو صرف ایک گھنٹہ۔ ۶ سے ۱۰ سال تک کے بچوں کی صبح دو تیسرے پہر کو دو یا صبح ڈھائی اور تیسرے پہر کو ڈیڑھ۔ باقی اس کے اوپر کے بچوں کی صبح تین تیسرے پہر کو دو۔

۳۔ ایک ایک گھنٹہ روزانہ امام و موزن دونوں کے ذمہ اپنے حلقہ کے ہر گھر کے ایسے خواندہ یا ناخواندہ صاحب خانہ کو منظورہ و مقررہ کتابوں کے ذریعہ جملہ ابواب دین کے احکام سنانا ہوں گے جو اپنے گھر کے با اثر راعی یا نگراں کی حیثیت رکھتے ہوں ساتھ ہی اس کی تفہیم و ترغیب ہو کہ وہ جس طرح اپنے گھر والوں یا زیرنگرانوں کی جسمانی و دینی صلاح و فلاح کے کفیل ہیں اس سے بڑھ کر ان کی دینی و اخروی اصلاح کے جواب دہ ہیں۔ اس لئے ان احکام پر خود بھی آگاہ و کار بند ہوں اور گھر والوں کو بھی کریں۔ یہ بڑا اہم و مقدم اصلاحی کام ہے جو دراصل ایک شخص کی نہیں پورے ایک گھر

سے پچھلے صفحات میں تحتانی حاشیہ پر حضرت کی تجویز فرمودہ جو کتابیں درج کی گئی ہیں ان کے مضامین کی ضروری تلخیص و تسہیل کے ساتھ ان رسائل کو مرتب کیا جائے جس میں بچوں کی تدریجی ترقی و استعداد کا لحاظ ہو۔

بلکہ پوری ایک نسل کی اصلاح کی صحیح و طبعی راہ ہے۔

۴۔ جمعرات کے دن مکتب صرف ایک وقت صبح کا ہوگا۔ دوسرے وقت یارات کو جو حلقہ کے لوگوں کے ملنے کا مناسب وقت ہو، امام و موذن دو چار اپنے اور ہم خیالوں کو لے کر ایسے لوگوں کے گھروں پر باری باری جائیں یا جب تک ضرورت رہے جاتے رہیں، جو مسجد میں جمعہ کو بھی نہیں آتے۔ اور ان کو مسجد میں اوپر نمبر ۳ کے موافق آنے اور احکام دین سیکھنے پر تفہیم و ترغیب کے ساتھ آمادہ کریں۔ بحث و مناظرہ کی صورت بالکل اختیار نہ کریں۔ نرمی سے اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات اور موت و آخرت کی تذکیر کے ساتھ تفہیم و ترغیب سے کام لیں۔

۵۔ جمعہ کے دن بعد نماز احکام دین کی تحصیل اور ان پر عمل کی ترغیب کے ساتھ حسب ضرورت و موقع خاص خاص احکام ادا کرواؤ اسی سے متعلق کم و بیش ایک گھنٹہ وعظ کیا کریں۔ امام صاحب اگر خود اچھے واعظ ہوں تو زبانی وعظ ہو۔ ورنہ حضرت کے مواعظ مناسب انتخاب اور ترتیب و سلسلہ کے ساتھ سناتے رہیں۔ زبانی وعظ میں بھی حضرت کے مواعظ کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری و مفید ہوگا۔

۶۔ کم عمر بچوں کے لئے یہ انتظام ہو کہ پاس پاس کے دو چار دس گھروں میں اگر کوئی بی بی پڑھی لکھی ہوں تو ان کو ترغیب دی جائے کہ وجہ اللہ ان گھروں کی بچیوں کو کم و بیش تین گھنٹے دن میں پڑھا دیا کریں۔ ان کا نصاب کلام مجید مادری زبان اور اس کے بعد مکمل بہشتی زیور اور کچھ حساب ہوگا۔

اگر محلہ میں ایسی محلہ دستیاب نہ ہو تو باہر سے حاصل کی جلسے یا کوئی سن رسیدہ معلم رکھا جائے۔ ان معلم و محلہ کا بھی خود نیک اور دیندار ہونا مقدم ہے۔

۷۔ جو زیادہ سن کی لڑکیاں یا منکوحہ عورتیں ناخواندہ ہوں، ان کے گھر کے راعی یا سرپرست کو آمادہ کیا جائے کہ کسی فرصت کے وقت گھنٹہ آدھ گھنٹہ دے کر اگر نماز نہ آتی ہو پہلے نماز سکھلا دیں پھر تھوڑے تھوڑے روزانہ بہشتی زیور سے احکام و مسائل

سہ ضرورت و اہمیت کے اعتبار سے ان مواعظ کو مرکزی درس گاہ کی طرف سے مضمون دار مرتب کرا کے شائع کیا جائے۔ تسہیل کے ساتھ

سناتے رہیں۔ اگر گھر میں کوئی پڑھا لکھا مدرسے سے نہ ہو۔ تو کسی سن رسیدہ معلم کا انتظام ہو کہ وہ پردہ سے سنا دیا کرے۔ ایک معلم اگر پاس پاس کے دس پانچ گھروں کی مستورات کو بھی ایک جگہ جمع کر کے روزانہ ایک گھنٹہ وقت دے تو اس طرح دن بھر میں محلہ بھر کی مستورات کی تعلیم ہو جاسکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ تین چار مہینے میں وہ روزمرہ کے ضروری احکام سے واقف ہو جاسکتی ہیں۔

۸۔ اس قسم کے معلم و معلمات کی نگرانی کا اور انتظامی تعلق حلقہ کی مسجد سے ہوگا۔
۹۔ مسجد کے حلقہ میں معمولاً وہ گھر داخل ہوں گے جن تک اذان کی آواز جاتی ہو۔
۱۰۔ جہاں ایسی مسجد نہ ہو بنانے کی کوشش کی جائے جب تک نہ بنے زمین ہی لیکر اس کو خس پوش کر لیا جائے۔ مستقل زمین بھی جب تک نہ حاصل ہو کوئی زمین مکان یا کمرہ مستعار بھی۔ غرض کام کے آغاز میں اس کی وجہ سے تاخیر نہ ہو۔ اور اذان کے ساتھ باجماعت نماز بھی اس عارضی جگہ ہوتی رہے۔

۱۱۔ ہر مسجد میں اس کے حلقہ کی مردم شماری کا ایک رجسٹر ہو جس میں ہر گھر کے مرد و عورت بوڑھوں بچوں خواندوں ناخواندوں کی تعداد بقید سن درج ہو۔
خواندگی کی نوعیت و مقدار بھی۔ دینی و اخلاقی حالت۔ معاشی صورت۔ خانہ کیفیت میں ہر ایک کی دینی و اخلاقی و تعلیمی ترقی کی ماہ ب ماہ مختصر کیفیت درج ہو۔
۱۲۔ ائمہ و موزنین یا معلمین و معلمات کسی کے خانگی قصوں قصیوں اور ان کے چپکانے میں ہرگز نہ پڑیں نہ کسی گھر یا فریق سے کوئی خصوصی یا طرفدارانہ تعلق رکھیں سب مسلمانوں سے یکساں اور ایسا تعلق ہو کہ سب ان پر اعتماد کریں اور اپنا یکساں خیر خواہ جانیں۔ مرلہیوں اور حاجت مندوں کی عیادت اور بقدر فرصت خدمت سے دریغ نہ کریں۔

البتہ پابندی احکام کے سلسلہ میں اس کی بھی ترغیب دیتے رہیں کہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ شریعت کے احکام کے موافق کیا کریں۔ اگر کوئی صاف و مہولی بات ہو تو اس کا شرعی حکم بھی زبانی نہیں کسی مستند کتاب سے فریقین کو ایک ساتھ سنا دیں۔ ورنہ استفتے کی شکل میں لکھ کر مرکزی مدرسہ کو بھیج دیں اور وہاں سے جو جواب آئے وہ فریقین کو جمع کر کے سنا دیں۔

۱۳۔ حلقہ کے غیر مسلموں کے ساتھ بھی خصوصاً ایسا طرز عمل رکھیں کہ ان کی خیر خواہی امانت داری اور دوائے عہد پر ان کو اعتماد ہو۔

۱۴۔ امام و موزن کو باری باری سال میں کم سے کم دو دفعہ ایک ایک ہفتے کے لئے مرکزی درس گاہ کے ایسے بزرگ کی خدمت میں رکھا جایا کرے جو شیخ و مرشد کی حیثیت رکھتے ہوں اور مکاتبت تو اپنی اپنی دینی و اخلاقی اصلاح کے لئے ایسے بزرگ سے برابر رکھیں کہ ہمسینے میں دو دفعہ اپنے دینی و اخلاقی امراض کا حال لکھ کر ان کی تدبیر و علاج معلوم کر کے عملی کرتے رہیں۔

نئی تعلیم والوں کی اصلاح

ان کی حالت | سب سے دشوار و پیچیدہ معاملہ نو تعلیم یافتوں یا جدید طرز کے اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کی دینی حفاظت و اصلاح کا ہے۔ موجودہ نظام تعلیم کے ماحول میں ان کی حالت کچھ ایسی قابل رحم ہو گئی ہے کہ

”درمیانِ فقر و ریافتہ بندم کردہ باز میگوئی کہ دامنِ تر مکن ہشیار باش“
 کا معاملہ ہے۔ ان کی کتابیں ان کے اساتذہ ان کے نگران ان کے رفقا ان کے امتحان ان کے کھیل کود ان کا طرز بود و ماند اور سب سے بڑھ کر ان کا وہی مذکورہ صدر اعلیٰ حیوانی زندگی کا نصب العین اور دالستہ یا نادالستہ ان غریبوں کا (الامشاء اللہ) خود اپنے یا انسان کے متعلق یہ تصور حیات کہ بس وہ حیوانی ارتقا (ایولوشن) کے سلسلہ کا ایک نسبتاً زیادہ ترقی یافتہ حیوان یا اعلیٰ درجہ کا جانور ہے، اس لئے لازماً اعلیٰ درجہ کے کھانے پینے رہنے سہنے کی سہولتیں و تدبیر کرتے کرتے مرجانے کے سوا ہماری زندگی کے اندر اور کوئی مقصد و معنویت نہیں!

اس لئے حضرت علیہ الرحمہ کی تحقیق کا ماحصل تو اس جدید تعلیم کے بارے میں جیسا کہ اوپر معلوم ہو چکا۔ یہ ہے کہ سرے سے اس گندے تالاب میں کسی کو گرنا اور گرنا ہی نہ چاہیے، ورنہ پھر دامن بچانے کی فکر و فہمائش ”مشتے“ کہ بعد از جنگ یاد آید ہر کلمہ خود بایہ زرد ہے کہ اپنا ہی سر پٹنا چاہیے۔ یہ بھی اوپر ہی واضح ہو چکا کہ اس نظام تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا پیوند جہاں بھی لگا یا گیا وہ پیوند خود اسی رنگ میں ڈوب گیا۔

نئی تعلیم، تعلیم ہی نہیں | اصل یہ ہے کہ یہ تعلیم دراصل تعلیم ہی نہیں، اسکول و کالج اور یونیورسٹیاں تعلیم گاہیں ہیں زیادہ سے زیادہ کتاب خوانی یا نرے لکھنے پڑھنے اور امتحان دینے کے اڈے ہیں

لہذا ان سارے خانوں کا کتاب خواں جتنا زیادہ پڑھا لکھا (Literate) ہوتا ہے اتنا ہی "کم تعلیم یافتہ" (Uneducated) ہوتا ہے۔ یہ فتویٰ راقمِ احقر یا کسی مولوی ملا کا نہیں بلکہ اسی تعلیمِ جدید کی برادری کے ایک بڑے نامور ہم وطن فرد فرید سہری دی رامن کا ہے جو نامور بھی سائنس دان کے کمال میں ہیں جس کا رعب و ہیبت ہمارے دل و دماغ پر تمام جدید علوم سے بڑھ کر ہے۔ یہ فتویٰ ابھی عین سطور ہذا کی تحریر کے وقت بنگلور کی ایک تعلیمی کانفرنس کے افتتاحی خطبہ میں صادر فرمایا

اس سے بڑھ کر کان کھول کر سننے کی بات یہ ہے کہ **پڑھے لکھے جاہل** | ان پڑھے لکھے "نا تعلیم یافتوں" کو حقیقی معنی میں تعلیم یافتہ

بنانے کی تدبیر بھی موصوف نے اسی رنگ کی بتائی ہے جو ہمارے حضرت علیہ الرحمہ ہمیشہ اور بار بار فرمایا کرتے تھے کہ "پیش مردے کامل یا مال شوائب خالی کتاب خوانی دین کی کتابوں کی بھی کافی نہیں جب تک کسی انسان کامل کی صحبت میسر نہ ہو۔ انسان تو انسان ہی سے بنتا ہے۔ اور حضرت نے کیا فرمایا اسلافی تعلیم کا نصب العین تو اس کے اولین معلم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور اولین متولین (صحابہ رضوان اللہ علیہم) سے یہی ملتا ہے کہ اس کا مطلب کتاب خوانی یا لکھا پڑھا ہونا ہرگز نہ تھا بلکہ وہ کسی مرد کامل کے سامنے یا مال ہو کر کامل بننا۔ کتابی اعتبار سے تو خود حضور اور اکثر صحابہؓ سرے سے آتی یا ان پڑھے تھے۔

اسی کو سر رامن نے ہمارے "نا تعلیم یافتہ نو تعلیم یافتوں" کے سامنے ان الفاظ میں پیش کیا ہے کہ تعلیم نام ہے کسی اعلیٰ انسان سے تعلق کا۔ انفرادی زندگیوں تک میں سب سے زیادہ طاقتور تعلیمی اثر کسی طاقتور انسان سے تعلق ہی ہوتا ہے جو محض ذہنی اعتبار سے طاقتور نہیں بلکہ عظیم سیرت کا مالک ہوتا اور زندگی کی سیدھی راہ دکھلاتا ہے۔

۱۰ پانیریکم جنوری ۱۹۵۷ء

۱۱ سر موصوف کی یہ تفسیر (Literate Uneducated) جس کا

ترجمہ "پڑھے لکھے جاہل" ہیں بالکل اس حدیث کی ترجمانی ہے کہ "بعض علم یقیناً جاہل ہوتا ہے" "ان من العلم لجهل" یا قرآن مجید کی تعبیر میں گدھے پر کتابوں کا بوجھ "کم مثل الحمار محمل اسفار" چار پائے برد کتابے چند۔

زندہ کتابوں کا مطالعہ | راقم ہذا صحبت و صحابیت کے اس اسلامی و مثالی اصول تعلیم کی رو سے ہمیشہ نئی پرانی دینی و دنیوی

تعلیم کے عزیز و دوست معلمین و متعلمین و منتظمین سب کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہے کہ جب تک کاغذی کتابوں کے ساتھ اور ان سے زیادہ ایمان و عمل کی زندہ انسانی کتابوں کے مطالعہ کا انتظام نہ ہوگا، اس وقت تک نہ انسانیت پیدا ہو سکتی ہے نہ دین۔

نہ کتابوں سے نہ کالج سے نہ زر سے پیدا دین ہو تب ہی بزرگوں کی نظر سے پیدا

ایک کالج جس کے پرنسپل آج کل ایک پرانے دوست ہیں جو عمر بھر تعلیم اور تعلیمات ہی کے محکمہ کے مختلف تعلیمی و انتظامی خدمات میں رہے۔ انہوں نے طلباء کے "کیریئر" کی تعمیر کی تدبیر یہ نکالی ہے کہ مختلف اماموں کے نام سے کالج کو مختلف یونیورسٹی ہاؤسز (ترہیتی بیوت) میں تقسیم کر دیا ہے۔ مثلاً بیت علوی بیت حسنی بیت حسینی وغیرہ اور ہر بیت کو کالج کے مختلف اساتذہ کی نگرانی میں دے کر یہ توقع رکھی جاتی ہے کہ ان حضرات ائمہ کی سیرت کو پیش نظر رکھ کر طلباء کی سیرت سازی فرمائیں گے۔ مگر ان بیوت کے قیام کے بعد بھی طلباء کی سیرت ملاحظہ ہو کہ قریب کے باغ میں گھس جاتے ہیں اور زبردستی امر و نہی کرکھا لیتے ہیں، دوکانداروں سے کھانے پینے کی چیز قرض لیتے ہیں اور ادا نہیں کرتے راستہ گلی میں عورتوں کی تاک جھانک چھیڑ چھاڑ فقرے بازی تو گویا تعلیم جدید کے نوجوانوں کا تفریحی حق ہے۔ ایک دن پرنسپل صاحب سے عرض کیا کہ حضرت کتابی تعلیم کی طرح کتابی بیوت سازی یا حضرات ائمہ کی سیرت خالی پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سے سیرت سازی نہیں ہوتی، اس کی توقع ایک ہی تدبیر ہے کہ خود آپ اور آپ کے اساتذہ کی زندگی میں حضرات ائمہ کی پاک سیرت جلوہ گر ہو، اور آپ کی زندگی اس سیرت کی ترجمان ہو۔

ورنہ پھر یہی "پڑھے لکھے جاہل" جب ملک و سماج کی زندگی میں داخل ہوتے اور زندگی کی ذمہ داریاں ان کے سپرد ہوتی ہیں تو سب سے بڑی مصیبت اس دنیا کی زندگی اور ملک و سماج میں ان ہی کا وجود ہوتا ہے جس کا تماشہ آج ہندوستان و پاکستان ہر جگہ دیکھا جا رہا ہے کہ حکومت کا کوئی انتظام کوئی تجویز کوئی قانون اس تعلیم جدید کے عمال و حکام سے لے کر وزرات تک کی بددیانتی رشوت ستانی کی روک تھام کے لئے مستقل محکمے قائم ہوتے ہیں لیکن بے نتیجہ اور کیوں نہ بے نتیجہ ہوں اس لئے کہ رشوت ستانی کے رد کرنے

والے غیر رشوت تان کہاں سے آئیں! یہ تو حکومت کے اندر کالا علاج روگ ہے۔ حکومت کے باہر ملک میں جو شر و فساد اٹھیں "نا تعلیم یافتہ پڑھے لکھے چھوٹے بڑے لیڈروں کی ذات سے برپا ہے" وہ کیا ان کے باہمی نفاق و شقاق اور عوام کو مال و جاہ کی ذاتی خود غرضیوں کا آلہ کار بنانے کے سوا کسی اور شے کا خمیازہ ہے۔ ہندوستان و پاکستان کا ذکر ہی کیا ساری دنیا جو جنگ و جدل کا اکھاڑہ بن گئی ہے اور امن و سلامتی کی مجلس رسیکوری کونسل، تک میں اپنی خود غرضیوں اور پاسداروں ہی کی راہ سے امن سوزی کی آگ کو جو بھڑکاتے اور پھیلاتے رہے ہیں کیا وہ یہی اعلیٰ درجہ کے پڑھے لکھے جاہل نہیں ہیں؟

غرض گریبان میں سر ڈال کر ذرا سوچا اور دیکھا جائے "تو پڑھی لکھی جاہلیت جدیدہ نے ساری دنیا کے حق میں ایسے قہر و عذاب کی شکل اختیار کر لی ہے کہ غریب "ان پڑھ جاہلیت قدیمہ" بھی اس کے آگے مات ہے!

خود خدا کی کتاب جس کا سرچشمہ علم و حکمت کامل و مطلق نامحدود و بے خطا ہے اور جس کے اندر کسی کج و کج راہی کا گزر نہیں جب مرد کامل کے بغیر اس کی بھی نری کتابی تعلیم کافی نہیں تو ایسی کتابوں کا ذکر ہی کیا جو ناقص و محدود و پر خطا دہ پر نسیان علم کی پیداوار اور بچیوں اور کج راہیوں سے بھرے ہیں۔ ان کی تعلیم تو اگر کسی درجہ اضطراب میں اختیار بھی کی جائے تو مرد کامل کے ساتھ علم کامل کی کتابوں کی تعلیم اور بھی اہم و اقدم ہو جاتی ہے۔

یعنی جدید تعلیم کے ان ناقص اثرات کو دور کرنے کے لئے جن کی بنا پر اس کے پڑھے لکھوں کو خود اسی کے اکابر کی زبان سے ابھی "نا تعلیم یافتہ سن چکے

حالات موجودہ انکی اصلاح کی ممکن صورت

ہوا اولاً تو یہ ضرور ہی ہے کہ اس کے اساتذہ و معلمین خود ان اثرات سے پاک اور تلامذہ و متعلمین کے لئے پاک و پاکیزہ زندگی کا نمونہ ہوں ثانیاً ان مادی و معاشی علوم کے ساتھ روحانی و معادہی یا دینی علوم کی تحصیل لازم اور بقدر ضرورت ان پر مقدم ہو۔ پہلی دونوں چیزیں یعنی اساتذہ و معلمین میں مطلوبہ بالا انقلاب و تبدیلی اور اس دینی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کا لزوم یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھ میں یہ جدید نظام ہے اور جو خود اس کے اثرات سے ابھی اتنے مرعوب و مغلوب ہیں کہ ان سے کسی فوری انقلاب کے قبول

کی اُمید نہیں۔

البتہ عام مسلمانوں کو اس لادینی نظام تعلیم کے مضر اثرات اور زہریلے ثمرات پر متنبہ کر کے آگے کے فتنہ کا بند باندھ دینا زیادہ دشوار نہ ہوگا۔ اور اگرچہ دینی تعلیم کا نظام پیش کیا گیا ہے اس سے یہ کام بھی لیا جائے کہ

(۱) جب لوگ اپنی اس راعیانہ جوابدہی کو سمجھنے لگیں کہ جس طرح ان کے ذمہ اپنے اہل و عیال یا توابع کی دُنیوی خبرگیری و خیر خواہی ہے اس سے بدرجہا بڑھ کر عقلاً و نقلاً دینی خبرگیری و خیر خواہی واجب ہے۔ کیونکہ ایک طرف زیادہ سے زیادہ دنیا کا فانی و غیر یقینی بلکہ وہی ضرر ہے اور دوسری طرف آخرت کی ابدی و یقینی زندگی کا یقینی ضرر۔ اس لئے اپنی اور اپنی اولاد اور توابع کی پوری پوری خیر خواہی تو یہ ہے کہ ایسے لادینی نظام تعلیم کی طرف قطعاً ان کو جانے ہی نہ دیں۔ انشاء اللہ بہت سے باہمت مومن اس ایمانی ہمت پر کمر بستہ ہو جائیں گے۔ اور حضرت علیہ الرحمہ کی اصل رائے یہی ہے جیسا کہ اوپر "تعلیم انگریزی کے تحقیق میں معلوم ہو چکا۔"

(۲) ورنہ ایمان کا اقل قلیل تقاضا یہ ہے کہ لادینی اسکولوں اور کالجوں کے دروازہ میں قدم رکھنے سے پہلے دیندار معلمین کی نگرانی میں بقدر واجب دینی تعلیم پوری کرادی جائے۔ یعنی وہی مذکورہ بالا مسجدی مکاتب کی بلکہ عربی کے کم از کم ابتدائی درجہ تک کی۔ اس کے علاوہ گھر پر ان کی پوری پوری دینی عملی و اخلاقی نگرانی رہے اور جدید تعلیم کے جدید اقامت خانوں میں تو ہرگز ہرگز قدم نہ رکھنے پائیں۔ نیز اپنے مکتب یا مدرسہ کے یا کسی اور دیندار عالم سے ملاقات یا مکاتبت کا تعلق ان سے ضرور قائم رکھایا جائے۔

(۳) ایک اور کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسے اقامت خانے زیادہ سے زیادہ قائم کئے جائیں جن کے مصارف قیام و طعام کم سے کم ہوں اور جن میں اچھے صالح و دیندار نگرانوں کی نگرانی میں دینی تربیت کے ساتھ بقدر واجب و ضرورت دینی احکام کی تعلیم و تفہیم کا انتظام ہو۔ جس کے لئے روزانہ آدھ گھنٹہ یا ہفتہ میں دو تین دن ایک ایک گھنٹہ کافی ہوگا۔ اور جمعہ کے دن ایک گھنٹہ حضرت کے مواعظ میں سے مناسب و عظوں کا سناتے رہنا۔ نیز بعض ایسی چیزیں بھی کبھی کبھی سناتے رہنا جن سے جدید عقلیت و عقلیات سیاسیات و معاشیات کا وہی رعب و ہیبت رفع ہو۔ مثلاً مولانا دریا بادی کے سچ

اور صدق وغیرہ کے پرانے پرچوں کے مناسب مضامین و اقتباسات - مولانا سید سلیمان صاحب مدظلہ کے مضامین سیرت خصوصاً خطبات مدارس - مولانا گیلانی مدظلہ کی خاتم النبیین - ادرکاش مولانا جو درس قرآن حیدرآباد میں دیتے رہے ہیں اس کے کچھ ہی خاص خاص درس مرتب و شائع فرمادیتے تو وہ مولانا مودودی کے رسائل و مضامین مولانا علی میاں کی تحریرات اور راقم حقار کا رسالہ "مذہب و عقلیات" اور سیرۃ النبی (مطبوعہ دارالمصنفین) میں شائع شدہ باب معجزات و فلسفہ جدیدہ اور حضرت علیہ الرحمہ کا سلسلہ تجدیدات یعنی تجدید تعلیم و تبلیغ کے پیش نظر رسالہ کے علاوہ تجدید تصوف و سلوک اور جامع المجددین اور تجدید قومیات و سیاسیات۔

(۴) حضرت علیہ الرحمہ اور مذکورہ بالا دیگر حضرات مصنفین کی کتابوں اور تحریرات کو یوں بھی جدید تعلیم کے اسکول و کالج کے طلباء اور تعلیم یافتہ مختلف طبقات میں جن جن طریقوں سے زیادہ سے زیادہ پڑھے پڑھائے جانے کی سعی ہو سکے انشاء اللہ کچھ نہ کچھ لادینی کے زہر کا ضرر و تریاق ہوگا۔ مثلاً جہاں جہاں خود ان اسکولوں کالجوں اور ان کے اقامت خانوں کے مطالعہ گھروں (ریڈنگ روم) میں ان کتابوں کو رکھایا جاسکے رکھایا جائے۔ اضلاع اور شہروں کے عام مطالعہ گھروں اور کلبوں میں رکھایا جائے۔ ضلعوں شہروں قصبروں میں ایسے مستقل مطالعہ گھر کھولے جائیں جن میں ان کتابوں کے علاوہ بعض اچھے رسائل صدق معارف الفرقان تعمیر (لکھنؤ) ترجمان القرآن، فاران (کراچی) جاری ہوں اور محض ترغیبی چارہ کے طور پر دو ایک روزانہ اخبارات بھی جو کچھ غنیمت ہوں گو اخبارات میں خیر و صدق پر شر و کذب اتنا غالب ہوتا ہے کہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ "نبیۃ غنیمت" بھی کس کو کہا جائے!

(۵) اگر جدید ذہنیت کے مسائل و مطالبات سے آگاہ و مانوس اور ان کے مفاسد کی فہم و اصلاح کی صلاحیت کے ساتھ ان کو مخاطب کرنے والے کچھ مقرر یا واعظ مسرہوں تو گشت اور دوروں کے ذریعہ اسکولوں اور کالجوں کے اندر یا باہر بلا بحث و مناظرہ کے

۱۔ جو کتابی صورت میں انشاء اللہ جلد شائع ہو جائے گی۔ "قومیات و سیاسیات حاضرہ کے عنوان

سے معارف سہمہ میں بصورت مضمون شائع بھی ہو چکا ہے۔

محض خطاب و اسماع کا کچھ موقع ان کو مل سکے تو اس سے کام لینا بھی انشاء اللہ نافع ہوگا۔ لیکن خود ان حضرات مقررین کا ایمان و عمل، اخلاق و اخلاص کے اعتبار سے صالح ہونا اور کسی طرح کی جاہ و مال کی طلب سے محتاط ہونا مقدم ہے۔

اور ان پر کیا موقوف اس سارے نظام اصلاح کی جان و روح یہی ہے کہ اس کے سارے خدام

نظام اصلاح کی روح

کا رکن (اساتذہ و معلمین، ائمہ و موزنین، مبلغین و واعظین)، خود ایمان و عمل ظاہر و باطن صورت و سیرت تواضع و خدمت، اخلاص و ایثار کا نمونہ ہوں۔ اس لئے ضروری ہے کہ جو حضرات تعلیم و تبلیغ کسی قسم کی اصلاحی خدمت کے براہ راست خدام ہوں ان سے نظام کی مالی ذمہ داریوں کے آمد و خرچ دونوں کا قطعاً کوئی تعلق نہ ہو۔ نہ اپنے حلقہ تعلیم و اصلاح کے لوگوں سے کسی طرح کے لین دین کے مالی معاملات رکھیں۔ اس طرح کے عام ہدایا اور دعوتوں تک کو قبول نہ کریں جیسی کہ بالعموم ائمہ موزنین یا علماء و واعظین کی رسماً لوگ کیا کرتے ہیں جب تک کسی کے خاص خلوص و تعلق کا اطمینان نہ ہو۔ اس نظام کی مالی ذمہ داری تمام تر براہ راست اہل مال پر یا ایسے عام چندوں پر جن میں حضرت کے ہدایت فرمودہ اصول کے موافق دینے والوں کی رضائے حق و طیب خاطر کا پورا التزام ہو یعنی کسی طرح کے بواسطہ یا بلا واسطہ دباؤ یا اثر سے وصول نہ کئے جائیں، نہ ایسے فوری جوش اور جذبات کے تحت جس میں دینے والوں کو عاقبت اندیشی کا ہوش نہیں رہتا اور دینے کے بعد پچھتاتے ہیں یا اس کی بدولت حقوق واجبہ کی ادائیگی میں

سطح خود حضرت علیہ الرحمہ کو اس کا جس درجہ لحاظ تھا اس کا اندازہ ایک واقعہ سے کر دو جو حضرت کے ایک ملفوظ میں منقول ہے کہ "ایک شخص پانی پت کے علاقہ کے یہاں دھانا بھون، آئے۔ پندرہ روپے مدرسہ میں دیئے۔ مجھ کو شبہ ہوا کہ قریب کا مدرسہ چھوڑ کر دھانا بھون روپیہ کیوں لائے۔ باوجود اس کے کہ وہ مرید تھے مگر مجھ کو شبہ ہو گیا۔ وجہ دریافت کی تو کہنے لگے کہ کوئی وجہ نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھ کو شبہ ہوتا ہے کہ تم اس لئے یہاں لائے کہ پیر بھی خوش ہوں گے اور مدرسہ کا بھی نفع ہو جائے گا۔ کہنے لگے واقعی بالکل صحیح ہے۔ تب میں نے روپیہ واپس کیا اور کہا کہ یہ تو ایک قسم کا شرک ہے کہ دین کا کام رضائے خلق کے لئے کیا جائے (الافاضات حصہ چہارم ص ۱۴)۔"

تصور و کوتاہی واقع ہوتی ہے۔ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ خطاب عام سے تحریری یا تقریری اشتہار و اعلان کے ذریعہ ضرورت کی اطلاع کر دی جائے۔ مقدار کی کمی زیادتی سے زیادہ نظر معطلی کے اخلاص و للہیت پر ہو۔ مخلص غربا کے دو چار پیسوں کو بھی امرا کے ہزاروں سے کم قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔

مسجد و مکتب کے مصارف زیادہ تر اس کے حلقہ و محلہ ہی سے پورے ہو سکیں تو بہتر ہے لیکن انتظام اس کی بھی آمد و خرچ کا مساجد کے ائمہ و موزنین سے بالکل نہ ہو بلکہ مرکزی ادارہ سے یا اسی محلہ کے کسی دیندار امین و معتمد شخص یا جماعت سے۔

ائمہ و موزنین معلمین و مبلغین ظاہر یا باطن کے ایسے اغنیاء یا متوکلین تو کم ہی ملیں گے جو بالکلیہ وجہ اللہ اپنی خدمات ادا کریں، تاہم جہاں کہیں دو ایک جو کچھ بھی میسر آجائیں ان کو خصوصیت سے اس نظام کے لئے خیر و برکت کا باعث جاننا چاہیے۔ باقی مولاً اس نظام کے خادمان دین میں انہیں کو قبول کیا جائے جو معاوضہ یا تنخواہ کے بجائے نفقات کی صورت کو قبول فرمائیں، جو ان کی خدمت کی نہوگی بلکہ ان کے جس وقت کی بنا پر ان کی ذاتی و خانگی ضروریات کی ان کی ضرورت اور ادارہ کی وسعت کے بقدر کفالت ہوگی بالکل اسی طرح جیسے کوئی شخص اپنی حیثیت و استطاعت کے موافق اپنے اہل و عیال کے نفقہ کا کفیل ہوتا ہے حتیٰ کہ اگر کبھی کسی وجہ سے آمدنی میں کمی ہو تو ان خدام کو اپنے نفقات میں بھی اس طرح کمی کے لئے تیار رہنا چاہیے، جس طرح باپ کی آمدنی کی کمی کی

سہ ایک بڑی آسان صورت اس مضمون کو ملاحظہ فرما کر ہمارے اشرف المدارس جس کا ذکر خیر پہلے بھی گذر چکا ہے، کے حضرت مولانا ابرار صاحب سلمہ نے اپنے تازہ تجربہ کی یہ بتلانی کہ بعض جگہ توجہ دلانے پر لوگوں نے مقامی مکتب قائم کرنا چاہا تو چندہ کے لئے چٹکی کا ایک چمکلا مولانا نے یہ تجویز فرمادیا کہ روزانہ کھانا پکاتے وقت محلہ کا ہر شخص ایک چٹکی آٹا اس کے لئے نکال دیا کرے۔ چنانچہ پہلے ہی مہینے میں اس بستی یا محلہ سے ششہ اس چٹکی کے چمکے سے جمع ہو گئے۔

واقعی گھریں روزانہ جو جس پکتی ہے اس میں سے ایک چٹکی یا جو روپیہ بٹھنا یا بچانے اس میں سے ایک دو پیسے نکال دینا آسان ہے اور اس سے کتنا بڑا کام نکل سکتا ہے۔ بس شرط ارادہ کرنا ہے۔ پھر حق تعالیٰ خود ہی کام آسان فرمادیتے ہیں۔

صورت میں اس کے بال بچے تیار رہتے ہیں۔ نیز محض اس نفقہ میں قابل تحمل کمی و تنگی کی وجہ سے اس خدمت کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پسند نہ کریں۔ نفقہ کی مقدار کا تعین بھی خادم کے مرتبہ فضل و کمال کی بنا پر نہ ہوگا، کیونکہ یہ اس کے فضل و کمال کی قیمت نہیں بلکہ خادم کی ضرورت و حیثیت کی بنا پر ہو۔ مثلاً کوئی مدرس مجرد یا اتنا خوشحال ہے کہ اہل و عیال کے مصارف اس کی حیثیت کے موافق گھر سے پورے ہو جاتے ہیں اور صرف اپنے ذاتی مصارف کا حاجتمند ہے، تو خواہ علم و فضل میں زیادہ ہو، لیکن اس کا نفقہ اس کم علم و فضل والے سے کم ہوگا جو مجرد نہیں یا صاحب اہل و عیال ہو کر گھر کا اتنا خوشحال نہیں۔
وقس علیٰ هذا۔

ضیاع

ایک بڑا فرض و کفایہ

دوسری ذمہ داری | یہ بات بار بار یاد دلانے اور یاد رکھنے کی ہے کہ مسلمانوں پر اپنی ہی نہیں ساری دنیا کی صلاح و فلاح کی دوسری ذمہ داری ہے البتہ دوسری ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی پہلی شرط خود مسلمانوں کا قومی و اجتماعی اعتبار سے من حیث امت "خیر امت" یعنی بہترین قوم ہونا اور ہونا ہے۔ (کنتم خیر امتا اخرجت للناس کم دبش ساری برائیاں اور گمراہیاں افراط و تفریط کی بے اعتدالیوں سے پیدا ہوتی ہیں، اسی لئے دوسری جگہ خیر امتا کے مفہوم کو امتا وسط کے عنوان سے واضح فرمایا گیا کہ "ہم نے تم کو ایک با اعتدال امت بنایا ہے، تاکہ تم اسلام کی با اعتدال زندگی یا صراط مستقیم کے حق میں سارے انسانوں پر گواہ (یا ان کے لئے نمونہ) بنو اور رسول تمہارے اور پر گواہ ہو، یعنی تم رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے قدم بقدم چلو اور ساری دنیا تمہارے قدم بقدم ہو۔

غرض اس قرآنی تعلیم و منطق کی رو سے نہ فقط مسلمانوں بلکہ سارے انسانوں کی خیر و بہتری اس میں منحصر ہے کہ مسلمان انفرادی ہی نہیں اجتماعی و قومی حیثیت سے بہترین قوم و امت اور اپنی فکری و عملی زندگی میں اسلام کے ایمان و عمل صالح کی زندہ وسرپا گواہی (شہادۃ علی الناس) ہوں۔ اور اہل بلا میں مسلمانوں کی اجتماعی تعلیم و تبلیغ کے اصول و فروع سے متعلق خالص اسلامی نظر سے جو تجدیدات و اصلاحات اور ان کے تحت نظام کار کا جو خاکہ "انقلاب عام و تام" کے نام

لہ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

سے پیش کیا گیا ہے، وہ حضرت جامع المجددین علیہ الرحمہ کی دیگر ابواب دین میں تجدیدی و اصلاحی جامعیت ہی کی طرح ایسا جامع و ہمہ گیر ہے کہ اگر وقتی و مقامی تقاضوں کے پیش نظر تھوڑے بہت تغیر و ترمیم کے ساتھ اس کو عمل میں لایا جائے تو انشاء اللہ امت مسلمہ کے کسی طبقہ کی اسلامی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہ رہ جائیگا کہ مسلمان قرآنی معیار کے مطابق "خیر امت" و امتنا وسط" اور شہداء علی الناس کے مقام پر از سر نو کھڑے ہو کر گم کردہ راہ دنیا کے لئے نشان راہ نہ بن جائیں۔

اسلام پر شبہات کا ازالہ | شہادت علی الناس کے اس حال کے بعد نرے

قال کاصرٹ ایک فرض زیادہ ترجمہ کا محتاج رہ جاتا ہے۔ دوسری قوموں کی طرف سے عقل و فکری، سیاسی، معاشی، اخلاقی و معاشرتی، تہذیبی و تمدنی کسی پہلو سے اسلامی تعلیمات پر جو شکوک و شبہات ظاہر کئے جائیں ان کو تحریر و تقریر سے دور کیا جائے۔ اس سے معاندین پر حجت قائم ہوگی۔ اور حق پسندوں کو یہ شکوک قبول حق میں مانع نہ رہیں گے۔ اس خدمت کے لئے فرض کفایہ کے درجہ میں ایک ایسی جماعت کا مسلمانوں میں موجود رہنا ضروری ہے جو غیر مسلموں کے ایسے علوم و فنون، افکار و نظریات سے اچھی طرح واقف ہو جن کا اسلامی عقائد و اعمال، اصول و فروع پر نفیاً یا اثباتاً کسی طرح کوئی اثر پڑتا ہو۔ تاکہ ان کی تردید یا ان سے تائید کا کام لے۔ ہمارے قدیم متکلمین یہی خدمت انجام دیتے تھے۔

عہد حاضر میں بھی اس خدمت کے لئے حضرت مجدد کا ارشاد ہے کہ کچھ "وہ لوگ ہوں جو ایسے لوگوں کے مقابلہ میں تبلیغ کریں جن کو اسلام پر کچھ شبہ ہو یا اسلام سے تعلق کم ہو گیا ہو رجبے نو تعلیم یافتہ یا انگریزی دان مسلمان، یا سرے سے غیر مسلم ہوں" اس طرح "دوسری قوموں کے شبہات سے اسلام کو جس مضرت کا اندیشہ ہے" اس سے بچانے کو حضرت نے فرض کفایہ قرار دیا ہے۔

آج یہ فرض اس میں شک نہیں کہ بہت بڑا فرض کفایہ ہے فرنگی سائنس و فلسفہ علوم و فنون، تہذیب و تمدن و سیاسیات و معاشیات کی راہ سے جو شکوک و اعتراضات راہ پا گئے

۱۔ جس کا اندازہ اسی نام کی کتاب (جامع المجددین) سے فرمایا جاسکتا ہے۔

۲۔ دیکھو گذشتہ مضامین ۳۷ دیکھو گذشتہ مضامین ۱۰۱ پر صفحہ ۱۹۱۸ دیکھو

ہیں اور پاتے رہتے ہیں یورپ کے حاکمانہ سیاسی غلبہ کی مرعوبیت اور نئی سائنسی ایجادات و اکتشافات کی ہیبت نے ان کے ذہن کو خصوصاً بہت تنگ کر دیا ہے۔ جدید تعلیم کے اثر سے یہ ذہن تعلیم یافتہ طبقہ میں سرایت کرتا ہے پھر سیاسی و تہذیبی قیادت چونکہ ساری دنیا میں اسی طبقہ کے ہاتھ میں آگئی ہے اس لئے قدرۃ دیگر طبقات حتیٰ کہ خاندانی علماء و مشائخ اور خالص دینی درسگاہوں کے طالباء اساتذہ تک اس تحدیہ سے محفوظ نہیں۔

کفر از کعبہ | دنیا پر یورپ کی براہ راست سیاسی گرفت تو خود یورپ ہی کی آموختہ سیاسی تعلیمات کی بدولت ڈھیل ہوئی جا رہی ہے۔ لیکن اس کی سیاسیات و معاشیات تہذیب و تمدن، علوم و فنون کے لادینی تصورات و افکار کا زور وہاں بھی روز افزوں ہے جہاں براہ راست حاکمانہ سیاسی اقتدار ایک دن بھی نہیں رہا۔ کم و بیش سارے عربی ممالک اس مغرب زدگی میں ہم غمچیوں سے بھی بازی لے گئے۔ خصوصاً ان کے حکمران و سربراہان درہ طبقات۔ زبان پر لاتے دل کا پتا ہے کہ یہ سیلاب اب بلد الحرام کی دیواروں تک سے ٹکرا رہا ہے۔ حدیہ کہ جدہ و طائف میں انگریزی تعلیم کے مدرسے کھول کر آنے والی نسلوں کے عوام و خواص سب کے لئے کفر و الحاد کے دروازے کعبۃ اللہ کی اس حکومت کے اندر کھول دیئے گئے ہیں جو ادنیٰ ادنیٰ برعادت کی بھی روداد نہیں سمجھی جاتی۔ چو کفر از کعبہ برخیزد کی شاعری و مجاز نے اس سے بڑھ کر واقعہ و حقیقت کا لباس کیوں کبھی پہنا ہوگا!

یونانی اور فرنگی شبہات میں شرق | کچھ ایسی ہی صورت ہے جیسی کہ یونانی فلسفہ و

حکمت سے مرعوبیت نے مسلمانوں کی سیاسی و اقتداری قوت و سطوت کے عین شباب میں ایک تعلیم یافتہ طبقہ کے دل و دماغ پر قبضہ پالیا تھا۔ لیکن اس وقت اول تو اس طبقہ کے ہاتھ میں عام مسلمانوں کی قیادت و حکومت نہ تھی دوسرے یونانی فلسفیات سے پیرا ہونے والے شکوک و شبہات زیادہ تر عقائد کے دقیق مسائل تک محدود تھے۔ سیاسیات و معاشیات تہذیب و تمدن جن کا اثر عوام خواص کے سارے طبقات پر پڑتا ہے ان کے بھیس میں لادینی نظریات و تصورات کی دعوت و اشاعت نہوتی تھی۔ آج ذہن پہلے انہیں راستوں سے مسموم ہوتا اور بالآخر غیر شعوری طور پر ایمان و عمل سب کو لے ڈوبتا ہے۔ یونانیات کے مقابلہ میں اگر ہمارے علماء و متکلمین کو زیادہ تر صرف ایمانیات کے ایک محاذ کا سامنا تھا تو آج انفرادی و اجتماعی سیاسی و معاشی

تمدنی و ثقافتی غرض زندگی کے ہر محاذ پر مسلح ہونے اور رہنے کی ضرورت ہے۔

اس ضرورت کا احساس پہلے پہل اکابرِ ندوہ نے فرمایا اور ایک مستقل درسگاہ (دارالعلوم) کا قیام زیادہ تر اسی غرض سے

ندوہ کا فضل و تہم

عمل میں آیا۔ لیکن ایک طرف تو جدید علوم و فنون کی باقاعدہ تعلیم کا کوئی بندوبست نہوا۔ سارا سرمایہ سنی سنائی اخباری باتیں یا جدید معلومات کی کچھ معمولی مصری کتابیں رہیں۔ باضابطہ درس میں فرسودہ یونانیات ہی کا چرخہ چلتا رہا۔ دوسری طرف نری زبان کی حد تک کچھ انگریزی لازم کر دی گئی، جس سے حال و قال دونوں میں الٹے فرنگی رجحانات کو مدد ملی۔ نیز دنیا طلبی کا ایک ارزاں راستہ اس دینی درسگاہ سے ہو کر بھی نکل گیا۔ یعنی ندوہ کے طلباء بلکہ فارغ التحصیل علما تک طلب دنیا میں انگریزی اسکولوں کالجوں کے طالب علم بننے لگے۔

ان کوتاہیوں اور خرابیوں کے باوجود فرنگی تعلیم کے آدروں شبہات اور ان سے متاثر طبقات کو مخاطب و متاثر کرنے کی سب سے زیادہ سعادت مدارس دینیہ میں ندویوں ہی کے حصہ میں آئی۔ ان کے قلم لے خصوصاً نئی تعلیم کے مختلف طبقات میں خاصہ قبول و اعتماد حاصل کیا۔ دارالمصنفین کا سارا کارنامہ ندوی برادری ہی کا مرہون قلم ہے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ندوہ کی زمین اس مقصد کے لئے صالح یقیناً بہت ہے۔ لیکن استاد محترم علامہ شبلی نعمانیؒ کے بعد پیر تورگر پھر کوئی ندوہ میں اس طرح نہ بیٹھا کہ یکسوئی کے ساتھ اس صلاحیت کو ترقی دینے کی فکر و تدبیر کرتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ترقی کے بجائے بظاہر ندوہ کی اس خصوصیت کا بھی اب خاتمہ ہے۔ اور حضرت سید صاحب (مولانا سید سلیمان) کی علی علیحدگی نے دارالمصنفین کو بھی بے جان کر دیا۔

قومی و سیاسی رنگ کی لادینی رائج الوقت خدمات

کا ایک بڑا روگ دینی خدمات و ادارات میں

بھی یہ پھیل گیا ہے کہ اپنی قوت فرصت اور صلاحیت کا لحاظ فرمائے بغیر اکثر حضرات کئی کئی ذمہ داریوں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لادینی کاموں میں مقصود اولاً تو کام سے زیادہ نام ہوتا ہے اور کام جو کچھ ہوتا بھی ہے زیادہ تر دینیوی اغراض سے۔ بخلاف دینی کاموں کے کہ ان کی اصل غرض اخروی اجر اور رضائے حق ہے۔ اگر کسی ایک ہی کام کے حقوق کی کا حقہ ادائی میں ساری زندگی لگ اور ختم

۱۔ اب نوکس میری کی نوبت یہاں تک ہے کہ مہتمم تک پورے وقت کا میسر نہیں دہینے میں صرف ۵ دن کے لئے مستقل مہتمم کا اہتمام رہتا ہے

ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا و رحمت اور اجر آخرت کی اس سے زیادہ امید کی جاسکتی ہے، جتنی کئی کئی ذمہ داریوں کے ناقص طور پر ادا کرنے سے۔ بلکہ اٹھنے مواخذہ کا اندیشہ ہے۔ ہمارے اجتماعی کاموں میں ناکامیوں کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ تن من و دھن کی لگن کے ساتھ لگ جانے والا کوئی ایک فرد بھی مشکل ہی سے ہوتا ہے۔

ندوہ یا اور جو ادارہ بھی اس فرض کفایہ کا حق کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو دو باتوں

دوسری باتوں کا انتظام

کا انتظام از بس ضروری ہے۔ اول و اقدم تعلیم کے ساتھ ایسی دینی تربیت کا اہتمام ہے کہ ایمان عمل صورت و سیرت ظاہر و باطن ہر اعتبار سے اس خدمت کے خدام اسلامیت کی نمائندگی یا شہادتۃ علی الناس کا جاذب و معیاری نمونہ ہوں۔ عمل میں خالق کے ساتھ مخلوق کے حقوق یا اسلامی معاملات و معاشرت کی نگہداشت اسلام کو سب سے زیادہ کوشش بناتی ہے۔ سیرت کے ساتھ وضع و صورت کا معاملہ بھی حقیر و خفیف ہرگز نہیں۔ خاص کر اس جماعت کے لئے جو غیروں یا مخالفوں کے دل و دماغ سے اسلام کے متعلق ایمانی و عملی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو نکلانے کا فرض پورا کرنا چاہتی ہے۔ اپنے پرانے سبب کا سابقہ عقائد و عبادات سے پہلے معاملات و معاشرت ہی سے پڑتا ہے! اور سب کی نظر باطن و سیرت سے پہلے ظاہر یا صورت کو دیکھتی ہے۔ آدمی سن کر کم اور دیکھ کر زیادہ قبول کرتا ہے۔

دوسرا کام جدید چیزوں کی مستند و منضبط تعلیم ہے۔ جامعہ عثمانیہ کی بدولت جدید علوم و فنون کی ضروری و معتبر کتابیں خود اُردو میں منتقل ہو گئی ہیں۔ ان میں سے پیش نظر مقصد کے مناسب چیزوں کو قدیم معقولات کی جگہ باقاعدہ نصاب میں شریک کر دینا کافی ہوگا سائنس کی عملی تعلیم درکار نہیں۔ البتہ سائنس کا فلسفہ و مذہب سے فرق و تعلق اس کی تحقیق و رسائی کی تجدید طبعیات حیاتیات فلکیات وغیرہ کے خاص خاص ایسے نظریات و معلومات جن کا مذہب پر سلبی و ایجابی کوئی اثر پڑتا ہو۔ مثلاً مادہ کی ساخت و نوعیت حیات

لے ندوی طلباء و علمائیں تو بعض اثرات و ردایات کی بدولت اعمال ہی نہیں عقائد تک میں ایسی سستی آگئی تھی کہ دوسروں کو کیا چستی بخشتے! الحمد للہ کہ اب اس آزادی و روشن خیالی کا دور دورہ نہیں رہا۔ عمل کی آزادی میں بھی کمی ہے لیکن بس کمی ہی، در نہ صورت و سیرت اخلاق و عادات معاملات و معاشرت میں خیر امت و شہداء امتی الناس کی شان کوشش کا کوسوں ابی پتہ نہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ بہت سی بالکل اختیاری اور موٹی موٹی باتوں کی طرف اعتنا نہیں۔

کی حقیقت و ماہیت، ارتقا و اضافیت وغیرہ کی محض نظری تفہیم و تشریح جدید فلسفہ خصوصاً تصورات (آئیڈیازم) اور علمیات (ایسٹمالوجی) کے مباحث سے پوری واقفیت ضروری ہے۔ مقدمہ فلسفہ (انٹراڈکشن ٹو فلاسفی) مسائل فلسفہ پر ایلمنس آف فلاسفی، اور تاریخ فلسفہ کی ایک ایک کتاب کافی ہوگی۔ اخلاقیات و نفسیات کی بھی ایک ہی ایک کتاب۔ یہ چیزیں تو مذہب کے زیادہ تر اصولی و قریبی مسائل کے لئے کارآمد ہوں گی۔ خود مذہبی مسائل کے لئے فلسفہ مذہب و نفسیات مذہب وغیرہ کے عنوان کی چیزوں کا مطالعہ۔

کے زور نے دور حاضر کے انسان کو ایسا خود فراموش بنا دیا ہے کہ **مادیانہ سطحیت** اپنی انسانی فطرت کے سارے اعلیٰ و عمیق باطنی مسائل و مطالبات کو کھلا کر (تسواللہ فأنشأھم أنفُسہم) معاشیات و سیاسیات کے بالکل بطنی مقاصد و مطلوبات میں کھو گیا ہے۔ اپنی عمیق فطرت کی تشنگی کو زیادہ سے زیادہ بس بے معنی و بے مقصد تہذیب و تمدن یا ثقافت کے سراب بہلاتا رہتا ہے۔ اس سطحیت کا لازمی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ مذہب جس کی بنیاد ہی تمام تر باطنی فطرت کے عمیق و اعلیٰ عقائد و ایمانیات پر تھی، اُس کو بھی اب معاشی و سیاسی بطنیات و سطحیات ہی کی میزاں پر تولایا نام نہاد ثقافتی فیتہ سے ناپا جاتا ہے۔ اس لئے ضروری ہو گیا ہے کہ ان بطنی و سطحی علوم کے اہم و اصولی مباحث کی بھی کچھ نہ کچھ کتابیں درس و مطالعہ میں شریک رہیں۔

ذرا اچھے ذہن و فہم کے طلباء ان چیزوں کو خود اپنے ذاتی مطالعہ سے بھی بہت کچھ اخذ کر لے سکتے ہیں۔ یا استاد کی معمولی رہنمائی کافی ہوگی بہت اچھے استاد کی سب سے زیادہ فاحش سائنسی نظریات کی فہم تفہیم کے لئے ہوگی۔ خصوصاً جس کی نظر ان نظریات پر ذرا فلسفیانہ ہو اور خود بھی کچھ صاحب فکر ہو منطق فلسفہ و کلام کا صرف اس قدر جز شریک نصاب رہنا مناسب ہوگا کہ ان کے مسائل اور اصطلاحات و تعبیرات سے ذہن مانوس

قدیم معقولات ہو جائے۔ اولاً تو خود ہمارے دینی علوم تفسیر، حدیث و فقہ میں ان تعبیرات و اصطلاحات سے تفاضل و وقت کی بنا پر اسی طرح کام لیا گیا تھا جس طرح آج رائج الوقت اصطلاحات و تعبیرات سے دینی مضامین

Outline of Modern Belief Walter Grierson بآئرنہ مجموعہ N.W. Sullivan اور

خاکہ فکر جدید ہمارے مطلب کے لئے بڑی حد تک تازہ ترین دیشت اور لبتہ سہل ترین ہے یہ ہر علم کے مستند ارباب قلم کے نوشتہ امرا ہیں پر مشتمل ہے۔ اگر اس کے ضروری حصوں کا ترجمہ ہو جائے تو کیا کہنا اصل بھی دستیاب ہو سکے تو استاد کے پیش نظر رہے۔

راقم احقر کی نظر میں پائسن کی مقدمہ فلسفہ رسل کی مسائل فلسفہ اور دیتبر کی تاریخ فلسفہ زیادہ موزوں ہوگی۔ یہ جامعہ عثمانیہ سے شائع ہو چکی ہیں۔

میں بے تکلف لیا جاتا ہے اور جن سے بالکل نا آشنا رہ کر اسلاف کے ان خاص و خالص دینی کارناموں سے بھی پوری طرح استفادہ دشوار ہے۔ دوسرے راقم ہذا کا ذاتی تجربہ ہے کہ ان سے ذہن کی تشجیز و تربیت کا نفع خاصہ ہوتا ہے۔ ایسا نفع کہ خود جدید خیالات و عقلیات کی فہم و تنہیم میں بڑی مرد ملتی ہے۔ بالخصوص قدیم علم کلام کے اصول و مبادی سے تو آج جدید کلام کی تدوین میں بڑا کام لیا جاسکتا ہے۔ جس کا اندازہ خود حضرت حکیم الامت کے مختصر رسالہ الانتباہات المفیدۃ عن الاشتباہات الجدیدۃ پر اس گفتگو سے کیا جاسکتا ہے جو جامع المجددین (مولفہ احقر) ص ۱۹۱ تا ۱۹۳ میں ملیگی۔

انگریزی کا لزوم | سارے طلباء کے لئے غیر ضروری بھی ہے اور ضرر رساں بھی۔ البتہ جن طلباء کی طبیعت و تربیت سے خود اپنے ایمان و عمل میں

رسوخ اور صدق و صلاح کے آثار نمایاں ہوں، ساتھ ہی مذکورہ بالا جدید علوم میں سے کسی سے ذوق و مناسبت معلوم ہو اور اس کے ذریعہ دین کی تحریری یا تقریری خدمت کی توقع ہو ان کے لئے ضروری علوم دین سے فراغت کے بعد مستقلاً بقدر ضرورت انگریزی کی تحصیل کا انتظام ضرور ہوتا ہے ان کا سرمایہ معلومات ترجموں تک محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ خصوصاً آج کل علوم و فنون میں "تازہ بہ تازہ نوبہ نو ڈیٹ" کا عارضہ ایسا لاحق ہو گیا ہے کہ فیشن کی طرح نظریات و معلومات بھی جلد بدلنے اور فرسودہ (آؤٹ آف ڈیٹ) ہوتے رہتے ہیں۔

علوم جدیدہ اور انگریزی کی تعلیم کا جوڑ علوم دین کے ساتھ خوب سوج بچھ کر اس حساب سے لگانا چاہیے کہ ان کا اضافہ دینی علوم فقہ حدیث و تفسیر میں کمی و خانی کا باعث ہرگز نہ ہونے پائے۔ بلکہ زیادہ بہتر صورت یہی ہوگی کہ علوم جدیدہ اور انگریزی کی تعلیم کا انتظام صرف خاص خاص طلباء کے لئے علوم دینیہ سے فارغ ہونے کے بعد بالکل علیحدہ اور مستقلاً دو تین سال کے لئے ہو۔

خالص عربی ادب | پر بھی ضرورت سے زیادہ زور دینا غلو سے خالی نہیں۔ جب تک عام عربی لغت کی گونا گوں چھوٹی بڑی کثیر کتابیں اور خاص قرآن و

حدیث کی لغات تفسیروں اور شرحوں کے عظیم الشان ذخیرے موجود نہ تھے، اس وقت تک بیشک قرآن و حدیث کے معانی و مطالب کی فہم و تحقیق کے لئے خود عربی نظم و نثر خصوصاً کلام جاہلیت پر اطلاع و عبور کی حاجت تھی۔ لیکن آج ایک سان العرب ہی کی موجودگی میں کون بڑا ادیب بھی قرآن و حدیث کو سب سے معلقہ و حماسہ سے سمجھنے کا محتاج ہے یا کسی لفظ و لغت کے لئے ایک نظر میں سان العرب سے لسانی و لغوی تحقیق

سے دارالعلوم ندوہ کی "عمارتِ نوساخت" میں تو غضب ہی کیا گیا کہ فلسفہ قدیم تو خیر علم کلام تک کو باطنیہ نصاب بدر کر دیا گیا۔

کا جتنا مواد ہاتھ آجاتا ہے وہی حماسہ و ہمدانی خواں کے دماغ میں محفوظ رہ سکتا ہے اسلاف کے ان کارناموں کے طفیل میں اب تو الحمد للہ بس اتنی قابلیت درکار ہے کہ طالب علم لغت کی کتابوں اور قرآن و حدیث کی تفسیروں اور شرحوں کی عبارت بے تکلف سمجھ لے جس کے لئے خود ان کتابوں اور ان کی شرحوں کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا پڑھانا ہی زیادہ نافع ہوتا ہے۔

ہاں تحریر و تقریر کے لئے نفس ادب کی ضرورت بڑی حد تک مسلم ہے۔ وہ بھی قدیم سے زیادہ جدید کی۔ اور اس کا مدار کتابی تعلیم و تعلم سے زیادہ عملی مشق و تمرین پر ہے۔ پھر عربی تحریر و تقریر خاص عربی ممالک سے باہر کام ہی کہاں اور کس دینی خدمت کے لئے آسکتی ہے۔ سوا اس کے کہ خود عربی ممالک میں جا کر یاد دہی کے لئے کوئی خاص تقریری و تحریری خدمت مقصود ہو تو ایسی استثنائی ضرورت کے لئے انتظام بھی استثنائی ہی مناسب ہو گا۔ تاکہ عام نصاب تعلیم میں اس کے زیادہ وقت گھیر لینے سے مستقل و مقدم دینی علوم میں خلل و کوتاہی نہ واقع ہو۔ غرض ادب برائے ادب بھی عہد حاضر کی عبت کاروں میں سے ایک عبت کام ہے۔ جو نہ دین میں مقصود بالذات اور نہ مقدمہ مقصود ہونے کی حیثیت سے نفس دینی علوم یا ایسے عصری علوم کی تعلیم پر مقدم جن سے مقصود جدید و عصری علوم و افکار کے مقابلہ میں دینی عقائد و احکام کی تائید و توثیق یا ان سے پیدا ہونے والے شکوک و شبہات کا ازالہ و استیصال ہے۔ تقریر و تحریر کی قوت و قدرت بھی ہمارے علمائے دین کو جس زبان میں حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت و اہمیت ہے وہ انگریزی ہی ہے اس کے واسطے سے خود ان دلوں دماغوں تک پہنچا سکتا ہے جو دشمن دین و سادس و افکار کا سرچشمہ اور فساد کی جڑ ہیں۔ مگر بھونانہ چاہیے کہ نری چرب زبانی اور انشا پردازی کا نہ اپنوں پر زیادہ جادو چلتا ہے نہ غروں پر۔ اصلاح و تبلیغ کے خادموں کا خود محتذبہ درجہ تک ایمان و عمل ظاہر و باطن سے اسلام کی فکری و عملی برتری کا گواہ ہونا بہر صورت اہم و اقدم ہے۔

ندوہ کا نام ذاتی قلبی تعلق کے ماسوا ان مروضات کے فہم میں بالخصوص زبان پر اس لئے آگیا کہ دین کے اس ایک بڑے فرض کفایہ کی طرف توجہ کا فضل تقدم اسی کو حاصل ہے۔ اور ناقص و ناتمام انتظام کے باوجود کچھ نہ کچھ کام اس راہ کا ہو ابھی جس کے تجربات و روایات کی موجودگی میں آسانی کے ساتھ از سر نو بہتر انتظام و اہتمام سے بہتر نتائج ثمرات کی توقع بیجا نہ ہوگی۔ فوفقنا اللہ لما یحب و یرضی

سہ گو اس وقت زمام کار جن ہاتھوں میں ہے ان کی قوت و فرصت کی اصل بلکہ تمام تر مصروفیت خود عام مسلمانوں میں ایمان و یقین کو قوی و بیدار کرنے کی ایک مستقل جماعتی تحریک ہے۔ یہ خدمت خصوصاً اس پر آشوب عہد میں جس اہمیت و وسعت کی متقاضی ہے اس کی بنا پر اس کے خادموں کو کسی دوسری طرف نظر اٹھانے کی بھی ہمت قطعاً نہ ملنی چاہیے۔ چہ جائیکہ کسی دوسری مستقل خدمت کی مستقل ذمہ داری — لیکن یہ کام اہم و اقدم ہونے کے باوجود دارالعلوم ندوہ کے زیر بحث مقصد قیام کو بدل یا قائم مقام بہر حال نہیں۔ نہ ایک فرض میں انہماک دوسرے فرض سے سکدوش کر دیتا ہے۔

تجدید و ترمیم و تبلیغ

جس میں

خاص و خالص سلامی بنیادوں پر امت سازی یا اجتماعی اصلاح و تعمیر کی تعلیمی و تبلیغی
تجربیات و تدابیر اسی طرح جامعیت و کاملیت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں، جس طرح
"جامع المجاہدین" اور "تجدید تصوف" میں افراد سازی یا ظاہر و باطن کی انفرادی
اصلاح و تعمیر کی۔

ان تجربات و تدابیر پر عمل پیرا ہو کر امت مسلمہ از سر نو بہترین قوم
(خیر امت) بن کر ساری دنیا کو نسلی و وطنی قومیت اور سیاسی و معاشی اجتماعیت
کی جہنم سے نجات دلا سکتی ہے۔

از

مولانا عبد الباقی

سابق استاد فلسفہ و دینیات عثمانیہ یونیورسٹی

نفس کی پیدی

بلاکس سٹریٹ ————— کراچی (پاکستان)

قیمت پندرہ روپیہ مجلد